

کامل بہر حصہ

# محمدؐ ہجرت

حضرت الامام مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان

ایازۃ الملجبار فی ہجرتِ محمدیؐ

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآخِذُوا بِالنَّبِيِّينَ  
 (قرآن ہادی تعالیٰ)

اور لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں

# ختم نبوت کا میل

جس میں ایک تنو سے زائد آیات قرآنی اور دو سو دس احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اور سینکڑوں اقوال صحابہ و تابعین ائمہ دین سے مسئلہ ختم نبوت کے ہر پہلو کو واضح کیا گیا ہے، اور شبہات کے شافی جوابات دیئے گئے ہیں،

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ

مفتی اعظم پاکستان



اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

# فہرست مضامین

ہر حصہ حصہ

## ختم النبوة

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	تیسرا دور	۸	تمہید طبع چہارم
۶	کھلے طور پر دعویٰ نبوت و رسالت	۱۰	تمہید طبع اول
۲۳	تشریحی نبوت اور صاحب شریعت	۱۳	مقدمہ
	نبی ہونے کا دعویٰ	۱۵	پہلا دور
	تمام انبیاء کی ہمسری بلکہ ان سے	۶	نبی اور رسول کی تعریف ۱۸۹۱ء
۲۵	فقہیت کا دعویٰ اور ان کی توہین	۱۸	دوسرا دور
۲۶	حدیث رسول کی توہین	۶	۱۸۹۱ء کے بعد نبی کی تعریف میں تبدیلی
۶	اپنے نہ ماننے والوں کی تکفیر		ختم نبوت کے معنی کی تعریف اور
	ختم نبوت کے معنی کی تحریف اور	۶	غور سے نبوت
۲۹	متفاد باتیں		
۳۳			ختم النبوة فی القرآن، حصہ اول
۳۷	تفسیر قرآن کا معیار اور اس کا صحیح طریق	۳۷	تفسیر قرآن کا صحیح معیار کیا ہے؟

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۸	آیت نمبر ۱۲	۵۰	حتم نبوت کے ثبوت میں پہلی آیت
۱۵۰	آیت نمبر ۱۳	۶۰	آیت مذکورہ کی تفسیر لغت عرب سے
•	آیت نمبر ۱۴	۷۶	آیت مذکورہ کی تفسیر خود قرآن سے
۱۵۲	آیت نمبر ۱۵	۷۹	آیت مذکورہ کی تفسیر احادیث سے
•	آیت نمبر ۱۶	۸۴	آیت مذکورہ کی تفسیر صحابہ و تابعین سے
۱۵۳	آیت نمبر ۱۷	۹۱	آیت مذکورہ کی تفسیر ائمہ تفسیر کے اقوال سے
•	آیت نمبر ۱۸	۱۰۱	آیت خاتم النبیین میں تاویل کرنے والا
•	آیت نمبر ۱۹	۱۰۱	قتل کیا گیا .
۱۵۴	آیت نمبر ۲۰	۱۰۲	چند ادغام اور ان کا ازالہ
۱۵۶	آیت نمبر ۲۱	۱۱۲	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۱۵۸	ایک لطیفہ	۱۲۳	ایک اور قلا بازی
۱۶۰	آیت نمبر ۲۲	۱۲۴	ایک نئی کروت
•	آیت نمبر ۲۳	۱۲۵	ظلی اور پردہ زنی نبوت کی کہانی
۱۶۱	ایک زالی منطوق	۱۳۳	دوسری آیت کا شان نزول
۱۶۲	آیت نمبر ۲۴	۱۴۰	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
•	آیت نمبر ۲۵	۱۴۱	تیسری آیت
۱۶۳	آیت نمبر ۲۶	۱۴۳	آیت نمبر ۴
•	آیت نمبر ۲۷	•	آیت نمبر ۵
•	آیت نمبر ۲۸	•	آیت نمبر ۶
۱۶۴	آیت نمبر ۲۹	•	آیت نمبر ۷
•	آیت نمبر ۳۰	۱۴۵	آیت نمبر ۸
۱۶۵	آیت نمبر ۳۱	•	آیت نمبر ۹ و ۱۰
•	آیت نمبر ۳۲	۱۴۶	آیت نمبر ۱۱
۱۶۶	آیت نمبر ۳۳	۱۴۸	فائدہ

صفحه	مضمون	صفحه	مضمون
۱۷۴	آیت نمبر ۵۸	۱۶۶	آیت نمبر ۳۳
•	آیت نمبر ۵۹	۱۶۷	آیت نمبر ۳۵
۱۷۶	آیت نمبر ۶۰	•	آیت نمبر ۳۶
•	آیت نمبر ۶۱	•	آیت نمبر ۳۷
۱۷۷	آیت نمبر ۶۲	•	آیت نمبر ۳۸
۱۷۸	آیت نمبر ۶۳	•	آیت نمبر ۳۹
•	آیت نمبر ۶۴ و ۶۵	۱۶۸	آیت نمبر ۴۰
۱۸۳	تفسیر	•	آیت نمبر ۴۱
۱۸۶	آیت نمبر ۶۶	•	آیت نمبر ۴۲
•	آیت نمبر ۶۷	•	آیت نمبر ۴۳
•	آیت نمبر ۶۸	۱۶۹	آیت نمبر ۴۴
•	آیت نمبر ۶۹	•	آیت نمبر ۴۵
•	آیت نمبر ۷۰	۱۷۱	آیت نمبر ۴۶
•	آیت نمبر ۷۱	•	آیت نمبر ۴۷
•	آیت نمبر ۷۲	۱۷۲	آیت نمبر ۴۸
•	آیت نمبر ۷۳	•	آیت نمبر ۴۹
•	آیت نمبر ۷۴	•	آیت نمبر ۵۰
•	آیت نمبر ۷۵	•	آیت نمبر ۵۱
•	آیت نمبر ۷۶	•	آیت نمبر ۵۲
۱۸۷	آیت نمبر ۷۷	•	آیت نمبر ۵۳
•	آیت نمبر ۷۸	•	آیت نمبر ۵۴
•	آیت نمبر ۷۹	۱۷۳	آیت نمبر ۵۵
•	آیت نمبر ۸۰	•	آیت نمبر ۵۶
•	آیت نمبر ۸۱	•	آیت نمبر ۵۷

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۳	آیت نمبر ۹۲	۱۸۷	آیت نمبر ۸۲
۱۹۴	آیت نمبر ۹۳	۱۸۸	آیت نمبر ۸۳
۱۹۵	آیت نمبر ۹۴	•	آیت نمبر ۸۴
•	آیت نمبر ۹۵	•	آیت نمبر ۸۵
۱۹۶	آیت نمبر ۹۶	۱۸۹	آیت نمبر ۸۶
•	آیت نمبر ۹۷	•	غیر تشریحی یا ظلی بروزی نبوت کا انقطاع
•	آیت نمبر ۹۸	۱۹۰	آیت نمبر ۸۷
•	آیت نمبر ۹۹	•	آیت نمبر ۸۸
۱۹۸	ایک ضروری تشبیہ	۱۹۲	آیت نمبر ۸۹
۱۹۹	ضمیمہ حصہ اول	•	آیت نمبر ۹۰
•	ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ	۱۹۳	آیت نمبر ۹۱

## ۲۰۱ ختم النبوة فی الحدیث ، حصہ دوم

•	صحیحین کے علاوہ احادیث جن کو	۲۰۲	ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں
۲۳۱	ائمہ حدیث نے صحیح کہا ہے -	۲۰۵	صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی احادیث
۲۳۸	سنن اربعہ یعنی صحاح شریفہ کی باقی احادیث	۲۰۶	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۲۳۹	خیر الامم اور کمالات نبوت	•	حدیث مذکورہ سے غیر تشریحی ظلی اور بروزی
۲۴۳	مسند امام احمد بن حنبلہ کی احادیث	۲۰۹	یا لغوی نبوت کا انقطاع
۲۴۸	باقی مستند کتب کی احادیث	•	ایک اور شبہ اور اس کا جواب
۲۷۷	ایک حیرت انگیز واقعہ	•	حضرت عائشہؓ ختم نبوت کی قائل ہیں
•	وہ احادیث جن سے مسئلہ	•	نبوت بروزیہ یا ظلیہ وغیرہ اگر نبوت
•	ختم نبوت بطور استنباط	•	ہے تو وہ بھی آپ کے بعد منقطع
۲۸۱	سمجھا جاتا ہے -	•	ہے -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۶	خاتمہ حقہ دوم ختم نبوت ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	۲۹۵	احادیث مذکورۃ للصدر سے ختم نبوت کا ثبوت۔
۲۹۷	<b>ختم النبوة فی الآثار ، حقہ سوم</b>		
۳۲۲	حضرات فقہاء حضرات متکلمین	۲۹۹	ایک ضروری گزارش اجماع کی حقیقت اور اس کی عظمت
۳۳۰	حضرات صوفیاء کتب قدیمہ تورات و انجیل میں		صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع مسئلہ ختم نبوت پر اور اس کے منکر کے مرتد ہونے پر ہوا ہے۔
۳۳۶	خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔	۳۰۲	نتائج
۳۴۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انکی قوم کی شہادت	۳۰۴	دوسرے مدعیان نبوت اور سلف صالحین کا ان کے ساتھ برتاؤ۔
۳۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام نبوت کی عقلی دلیلیں۔	۳۰۶	ختم نبوت پر حضرات صحابہ و تابعین کی شہادتیں۔
۳۵۲	مرزا نیوں سے میرا سوال		طبقات المحدثین
۳۵۷	قانونِ فطرت بھی ختم نبوت کا تقاضی ہے	۳۰۹	طبقات المفسرین
۳۶۱	مسئلہ زیر بحث یعنی ختم نبوت پر میرے گواہ	۳۱۶	
۳۶۶	قادیانیوں کی خدمت میں ایک خاصہ گواہ	۳۲۱	



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## تمہید طبع چہارم

### ختم نبوت کامل

مسئلہ ختم نبوت پر سب سے پہلے احقر نے ایک رسالہ ”ہدایۃ المہدیین فی آیۃ خاتم النبیین“ اپنے استاذ محترم حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے ارشاد پر عربی زبان میں لکھا تھا تاکہ عراق اور مصر وغیرہ عرب ممالک میں جہاں فتنہ کے آثار پھیل رہے ہیں بھیجا جاسکے، یہ ۱۳۲۲ھ میں شعبۂ تبلیغ دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام شائع ہوا۔

اس کے بعد ۱۳۲۳ھ میں اپنے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ناظم شعبۂ تبلیغ دارالعلوم حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب کے ارشاد پر اردو زبان میں اس مسئلہ پر مزید تفصیل و توضیح کے ساتھ تین حصوں میں ایک کتاب بنام ”ختم نبوت“ لکھی۔ پہلا حصہ ختم النبوت فی القرآن ہے جس میں تقریباً ایک سو آیات قرآنی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم ہوجانے کا ثبوت اور تشریحی اور غیر تشریحی، ظنی، بردہ وغیرہ کے شبہات کے کافی جوابات علمی اور تحقیقی طریق سے پیش کئے گئے ہیں۔ دوسرا حصہ ختم النبوت فی الحدیث ہے، جس میں اسی مضمون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو دس احادیث سے ثابت کیا گیا ہے، تیسرا حصہ ختم النبوت فی الآثار ہے، جس میں اجماع امت اور سیکڑوں آثار و اقوال صحابہ کرامین و ائمہ مجتہدین و علماء اسلام سے اس مضمون کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

یہ تینوں حصے پہلی مرتبہ ۱۳۲۳ھ میں ۱۹۲۵ء میں مکتبہ دارالاشاعت دیوبند سے شائع ہوئے، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی مکتبہ سے ۱۳۵۵ھ میں ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئے، اور

عروضہ دراز سے نایاب تھے ، اس کے بعد ۱۳۴۵ھ ۱۹۵۵ء میں بر خورد اعزیز محمد رضی سلمہ ناظم دارالاشاعت کراچی نے اس کی مکور طبع کا ارادہ کیا ، تو اس پر نظر ثانی کی فرمائش کی ، نظر ثانی میں بہت سے مواقع میں حذف وازدیا د اور ترمیم کی نوبت آئی ، خصوصاً اس مرتبہ اس کا اہتمام کیا کہ مناظرانہ عنوان چھوڑ کر ناصحانہ عنوان اختیار کیا گیا ، تاکہ وہ لوگ جو کسی مشبہ میں مبتلا ہو کر اس مسئلہ میں غلطی کا شکار ہوئے ہیں دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکیں ، اور ان کے احساسات مجروح نہ ہوں ، شاید اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لئے بھی ذریعہ ہدایت بنا دیں ۔

اب چوتھی مرتبہ بر خورد مولوی محمد رفیع سلمہ مدرس دارالعلوم کراچی نے اپنے مکتبہ "دارالامعادف" سے اس کا اشاعت کا ارادہ کیا تو پہلی طباعت میں بے ہوشی سے اغلاط کتابت کی تصحیح کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے ، اور رِقو قادیانیت کے سلسلہ میں احقر کے دُور اور رسالے بھی اس کے ساتھ شامل کر دیئے گئے ہیں ، ایک دَعَا دی یوزا دوسرا "مَسِيحٌ مَوْعُودٌ كِي پھچان ؛ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانِ ، اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝"

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ  
دارالعلوم کراچی  
۵ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۵ھ  
یوم ستمبر ۱۹۶۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 رَبِّهِمْ أَتَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

## تمہید اول

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ خُصُوصًا  
 عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ  
 سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

مسئلہ ختم نبوت، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت اور وحی کا اختتام اور آپ کا آخری نبی و رسول ہونا اسلام کے ان بدیہی مسائل اور عقائد میں سے ہے جن کو تمام عام و خاص، عالم و جاہل، شہری اور دیہاتی مسلمان ہی نہیں بلکہ سب سے غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ تقریباً چودہ سو برس سے کر دڑا مسلمان اسی عقیدہ پر رہے، لاکھوں علماء امت نے اس مسئلہ کو قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے واضح فرمایا، کبھی یہ بحث پیدا نہیں ہوئی کہ نبوت کے کچھ اقسام ہیں، اور ان میں سے کوئی خاص قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی ہے، یا نبوت کما تشریحی غیر تشریحی یا ظہری و بردزی یا مجازی اور لغوی وغیرہ اقسام ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی اشارہ تک نہیں۔ پوری امت اور علماء امت نے نبوت کی قسمیں نہ دیکھی نہ سنی، بلکہ صحابہ و تابعین سے لیکر آج تک پوری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اس عقیدہ پر قائم رہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت و رسالت ختم ہے، آپ بلا استثنا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے پیدا ہو کر منصب نبوت پر فائز ہو چکے ہیں، ان کا آخر زمانہ میں آنا اس کے قطعاً منافی نہیں)۔

اس مسئلہ کے اتنا بدیہی اور اجماعی ہونے کے ساتھ اس پر دلائل جمع کرنا اور اس کا ثبوت پیش کرنا درحقیقت ایک بدیہی کو نظری اور کھلی ہوئی حقیقت کو پیچیدہ بنانے کے مرادف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس مسئلہ کا ثبوت پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص مسلمانوں کے سامنے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ثبوت پیش کرے، ان حالات میں کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس موضوع پر کوئی مستقل رسالہ یا کتاب لکھی جائے، لیکن تعلیمات اسلام سے عام غفلت و جہالت اور روز پید ہونے والے نئے نئے قتنوں نے جہاں بہت سے حقائق پر پردہ ڈال دیا ہے باطل کو حق اور حق کو باطل کرنے کے ظاہر کیا ہے، وہیں یہ مسئلہ بھی تھمتہ و مشق بن گیا۔

اس مسئلہ میں فرقہ اور جماعت کی حیثیت سے سب سے پہلے باب و سپہا کی عجمت فرقہ بابیہ نے اختلاف کیا، مگر وہ علمی رنگ میں اس بحث کو آگے نہ پہنچا سکے، اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں خلافت و اختلاف کا دروازہ کھولا، اور ان کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابوں میں یہ بحث ایسی منتشر اور متضاد ہے کہ خود ان کے ماننے والے بھی اس پر متفق نہ ہو سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا دعویٰ ہے۔ کہیں بالکل عام مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے اور وحی نبوت کے انقطاع کلی کا استرار اور آپ کے بعد مطلقاً کسی نبی یا رسول کے پیدا نہ ہونے کا اعتراف ہے، کہیں اپنے آپ کو مجازی اور لغوی نبی کہا گیا ہے، کہیں نبوت کی ایک نئی قسم ظلی و بروزی بتلا کر بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، کہیں نبوت کو تشریحی اور غیر تشریحی میں تقسیم کر کے تشریحی کا اختتام اور غیر تشریحی کا جاری ہونا بیان کیا گیا، اور اپنے آپ کو غیر تشریحی نبی بتلایا، اور وحی غیر تشریحی کا دعویٰ کیا گیا ہے، کہیں کھلے طور پر صاحب شریعت نبی ہوئے اور وحی تشریحی کا دعویٰ کیا گیا۔

بہی درجہ ہے کہ ان کے متبعین تین مسرقتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ ان کو صاحب شریعت اور تشریحی نبی و رسول مانتا ہے، یہ ظہیر الدین اردوپی کا فرقہ ہے۔ دوسرا فرقہ ان کو باصطلاح خود غیر تشریحی نبی کہتا ہے، یہ قادیانی پارٹی ہے، جو مرزا محمود صاحب کی پیروی ہے۔ تیسرا فرقہ ان کو نبی یا رسول نہیں بلکہ مسیح موعود اور جہدی موعود قرار دیتا ہے، یہ مسز محمد علی لاہوری کے متبعین ہیں۔

غرض مرزا غلام احمد قادیانی اور اُن کے متبعین نے اس قطعی اور اجماعی مسئلہ میں خلاف و شقاق کا دروازہ کھولا، عوام کی جہالت اور مغربی تعلیم سے متاثر دینی تعلیم سے بیگانہ افراد کی ناواقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھایا، کہ اس مسئلہ میں طرح طرح کے ادہام و شکوک اُن کے دلوں میں پیدا کر دیئے، اور اُن کی نظر میں اس بدیہی مسئلہ کو نظری بنا دیا، اسی لئے اہل علم و اہل دین کو اس طرف متوجہ ہونا پڑا، کہ اُن کے شبہات و شکوک دور کئے جائیں، اور قرآن و حدیث کی صحیح روشنی اُن کے سامنے لائی جائے۔

میں اس سے پہلے ایک رسالہ ختم نبوت پر عربی زبان میں بحکم سیدی و استاذی حضرت العلامہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم صدر مدرس دارالعلوم دیوبند بنام "ہدایۃ المہدیین" لکھ چکا تھا، تاکہ مصر و عراق میں شائع کیا جائے جہاں قادیانی جماعت نے اپنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ اس وقت میرے استاذ محترم حضرت العلامہ مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا سید تقی حسن صاحب ناظم شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند نے احقر کو فرمایا کہ اس مسئلہ پر اردو زبان میں ایک تحقیقی کتاب لکھی جائے۔ حسب الارشاد یہ زیر نظر کتاب مسمیٰ بہ "ختم نبوت" لکھی گئی۔

اللہ تعالیٰ اس کو سب مسلمانوں کے لئے اور ہمارے ان بھائیوں کے لئے جو کسی مشبہ میں مبتلا ہو کر اپنی ملت سے بچھڑ گئے ہیں، نافع و مفید اور قبولی حق کا ذریعہ بنائیں، وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَسِيزٍ، ہم کیا اور ہماری تحقیق و تصنیف کیا، یہ بھی اسی کے لطف کرم کا نتیجہ ہے، اور اس سے کوئی فائدہ پہنچانا بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی لوگوں کو پھرنے والا مصرون القلوب ہے۔

نہ بجز ساختہ سرخوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم

فے زیاد تو می زخم چہ عبارت و چہ معانیم

میں نے اس کتاب کی جمع و تصنیف میں محنت صرف اس لئے **مخلصانہ گزارش** اٹھائی کہ قرآن و حدیث کا صحیح فیصلہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا صحیح عقیدہ مسلمانوں کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ان لوگوں کے شبہات و ادہام دور ہو سکیں، جو فرقہ مرزائیہ کے پروپیگنڈے سے پیدا ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں،

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  
 میرا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں کہ اپنی مقدر و مبرہ اصلاح کی کوشش کرو اور اس کام  
 میں میرا مہر و سر صرف اللہ عظیمت والے پر ہے)

میری درخواست ہے کہ یہ معاملہ عقیدہ کا ہے جس کا تعلق براہ راست خدا تعالیٰ سے  
 ہے جس کے سامنے ہر شخص کو ایک روز پیش ہونا اور اپنے اعمال و افعال کا حساب دینا  
 ہے، اس معاملہ میں ضد اور ہٹ یا جماعتی تعصب کے متاثر ہونا خسارہ دین و دنیا ہے۔  
 خدا کے لئے ان اوراق کو بات کی بیخ یا جماعتی تعصب سے خالی الذہن ہو کر قرآن و  
 حدیث کا صحیح منشاء معلوم کرنے کی طلب دل میں لے کر ملاحظہ فرمائیں، اور دعا کریں کہ  
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم کی ہدایت، اپنے کلام کا صحیح منشاء معلوم کرنے اور اس پر  
 چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الْعُسْكَانُ۔

بند محمد شفیع عفا اللہ عنہ

## مقدمہ

چونکہ مسئلہ ختم نبوت پر بحث اور تصنیف رسالہ کا سبب مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ اور ان کے اقوال ہیں، اور وہ اتنے متصادم و متہافت ہیں کہ خود ان کے متبعین بھی تعین دعویٰ میں حیران ہیں، اور بعض مرتبہ مسلمانوں پر تلبیس کے لئے مرزا صاحب کے وہ اقوال پیش کر دیئے جاتے ہیں جن میں ختم نبوت کا اعتراف اسی تفسیر کے ساتھ ہے جو تمام امت مرحومہ کا عقیدہ ہے، اور ایسے اقوال پیش کر کے نادان مسلمانوں کو اپنے اندر جذب کرنا یا بوقت ضرورت اپنی جماعت کا ملت اسلامیہ کے ساتھ اشتراک مقصود ہوتا ہے، جو قطعاً واقعہ کے خلاف ہے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ ختم نبوت پر شواہد و دلائل اور ”خاتم النبیین“ کی تفسیر پر کلام کرنے سے پہلے خود مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کے مستند بیانات سے یہ واضح کر دیا جائے کہ مسئلہ ختم نبوت کے متعلق ان کے خیالات کیا ہیں، اور پوری امت محمدیہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے، یہاں ان کی سینکڑوں عبارات و اقوال میں سے چند پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے اقرار و انکار اور ختم نبوت کے معنی اور نبوت و وحی کے دعووں سے

اے جیسا کہ حال میں جب پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں تحریک ختم نبوت پر ہنگامے ہوئے تو مرزا محمود خلیفہ قادیان کی طرف سے ایک ایسا ہی بیان اخبارات میں نکلا، جس میں ظاہر کیا گیا کہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور یہی مرزا صاحب کا دعویٰ تھا، حالانکہ ان کی مستقل تصانیف اور شہادیات اس کے خلاف موجود ہیں، اور ان سے آن رجوع کرنے یا ان کے غلط استرا دینے کا اعلان بھی کوئی نہیں جس سے ثابت ہے کہ یہ بیان بجز تلبیس کے کچھ نہیں۔

متعلق مرزا صاحب کے تضاد میں اگر کوئی معقولیت اور تطبیق پیدا کی جاسکتی ہے تو صرف اس طرح کہ ان کو مختلف ادوارِ عمر اور مختلف زمانوں سے متعلق قرار دیا جائے، جس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں مرزا صاحب پر تین دو گزرے ہیں :-

پہلا دور وہ تھا جب مرزا صاحب سب مسلمانوں کی طرح مسلمان تھے، اور امت کے اجماعی عقائد و نظریات کو بلا کسی جبرید تاویل و تحریف کے تسلیم کرتے تھے، اور ایک مبلغِ اسلام کی حیثیت سے کچھ چیزیں لکھتے تھے۔

دوسرا دور وہ تھا جس میں انہوں نے کچھ دعوے شروع کئے، اور ان میں تبلیغ سے کام لیا، مجدد ہوئے، تہدی بنے، یہاں تک کہ مسیح موعود بنے۔ یہاں پہونچ کر یہ خیال آنا ناگزیر تھا کہ مسیح موعود تو اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم رسول و نبی اور صاحبِ وحی تھے، عقیدہ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کسی نئے شخص کا مسیح موعود بننا تو ختم نبوت کے خلاف ہے اس وقت انہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریفیں شروع کیں، نبوت کی خود ساختہ چند قسمیں تشریحی، غیر تشریحی، ظلی، بروزی، لغوی، اور مجازی بتلا کر ختم نبوت کے تقیسی عموم و اطلاق کو مشکوک کرنا چاہا، اور اپنی مزعومہ اقسامِ نبوت سے بعض قسموں کا بعدِ وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاری رہنا بتلایا اور اپنے حق میں اسی جاری رہنے والی نبوت کے مدعی بن گئے۔

تیسرا دور وہ تھا جس میں تاویل و تحریف سے بے نیاز ہو کر کھلے طور پر پر قسم کی نبوت کے بلا تفریق تشریحی و غیر تشریحی سلسلے جاری و تکرار دیئے اور خود کو صاحبِ شریعت نبی بتلایا۔

دوسرا دور انیسویں صدی عیسوی کے آخر یا بیسویں صدی کے شروع میں تھا، پہلا اس سے پہلے اور تیسرا اس کے بعد۔ بیان مذکور کی تصدیق میں مرزا صاحب کی اپنی تصانیف سے نیز ان کے خلیفہ و دم کی چند تحریروں سے نقل کیا جاتا ہے۔

## پہلا دور

۱ - اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں، یا جن

نبی اور رسول کی تعریف ۱۸۹۱ء میں

احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (خطیب موعود، ۱، اگست ۱۸۸۱ء، مطبوعہ مباحثہ راہِ پسندی ۱۳۵۰)

۲۔ "جیسا کہ حضرت اقدس نے حضرت عیسیٰ کی اس امت میں بحیثیت نبی آنکھنے کے دلائل میں فرمایا۔ (۱) یہ دونوں حقیقتیں (نبوت اور امتیت، ناقل، مناقض ہیں (ریویو،

(۱) رسول اور امتی کا مفہوم متباہین ہے۔ (ازالہ اوہام ۵۵، ۵۶)

۳۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ التَّرْبَ الرَّحِيمَةَ الْمُنْفَضِلَ لِيَسِي نَبِيْنَا ص لِعَلَمِ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدِ اِسْتِشْنَاءِ وَفَسَاةِ نَبِيْنَا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (۱)۔ (صحیح الترمذی، مسندہ مرزا غلام احمد)

۴۔ قرآن شریف میں ختم نبوت کا بحال تصریح ذکر ہے، اور پرنے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ خسارت ہے، حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نفعی عام ہے۔ (ایام صلح ۱۳۱، ۱۳۲)

۵۔ کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا، اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لئے اس کی تفسیر اپنے قول "لَا نَبِيَّ بَعْدِي" میں واضح طور پر فرمادی، اور اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باپ وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا گھلنا جائز قرار دیں گے، اور یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے، اور ہمارے رسول کے بعد نبی کیونکر آسکتا ہے، درآں حالیکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔ (حماۃ البشری ۲۳، از مرزا غلام احمد قادری)

۶۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لَا نَبِيَّ بَعْدِي ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا ہر لفظ قطعاً ہی اپنی آیت وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سے اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ (کتاب البرہان ۳۳)

۱۔ ریویو مباحثہ شاہی و چکڑا لوی، جلد ۱۹ ص ۲۱۶۔ ۲۔ روحانی خزائن، ج ۳ ص ۴۱۰۔

۳۔ ایضاً ج ۷ ص ۲۰۰۔ ۴۔ ایضاً ج ۱۲ ص ۳۹۳۔ ۵۔ ایضاً ج ۱۳ ص ۲۱۷-۲۱۸۔

حاشیہ از مرزا غلام احمد قادیانی

۷۔ ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو

آیت خاتم النبیین میں وعدہ کیا گیا ہے، اور جو حدیثوں میں تصریح بیان کیا

گیا ہے کہ اب جبرئیل بعد وفات رسول اللہ ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لائے

سے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں صحیح اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت

ہمارے نبی صلعم کے بعد ہرگز نہیں آسکتا؛ ازالہ ادلام ۵۷۷، از مرزا غلام احمد قادیانی

۸۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا

خواہ وہ نیا ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم دین تو وسط جبرئیل ملتا ہے، اور اب

نزول جبرئیل پر پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ

رسول تو آدے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو؛ ازالہ ادلام ۵۷۷، از مرزا غلام احمد قادیانی

۹۔ رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ نبی دینی علوم کو

بذریعہ جبرئیل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت

تاقیامت منقطع ہے؛ ازالہ ادلام ۵۷۷

۱۰۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے

بعد پھر جبرئیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت

شروع ہو جائے، اور ایک نئی کتاب اللہ کو مغموموں میں قرآن شریف

سے توارد رکھتی ہے پیدا ہو جائے، اور جو مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا

ہے، فتدبر؛ ازالہ ادلام حصہ دوم ۵۸۳

۱۱۔ اور اللہ کو شایان شان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے،

اور نہ یہ شایان شان ہے کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سر نو شروع کر دے

بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہو؛ آئینہ کمالات انسان ۲۷۷، از مرزا غلام احمد

۱۲۔ ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت و جماعت کا

ہے، اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار

اس خانہ خدا (جامع مسجد دہلی) میں کرتا ہوں، کہ جناب خاتم الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت گائیل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کا

بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، درمزا غلام احمد کا تحریری بیان؟  
بتاریخ ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۱ء جامع مسجد ہلی کے جلسہ میں دیلیا، مندرجہ تبلیغ رسالت حضور ﷺ  
۱۳۔ ہم بھی مدعی نبوت پر لخت بھیجتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ  
کے قائل ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں  
داشبہار مرزا غلام احمد قادیانی مورخ ۲۰ شعبان از تبلیغ رسالت ص ۱۰۰

۱۴۔ وماکان لی ان ادعی النبوة و اخرج عن الاسلام و الحق  
بقوم کافرین (مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام  
سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں؟ (عمامة النبوی ﷺ)

## دوسرا دور ۱۸۹۹ء کے بعد

۱۵۔ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں،  
نبی کی تعریف میں تبدیلی | شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا، اور بغیر شریعت کے  
آسکتا ہے، گروہی جو پہلے امتی ہو پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی؟  
(تجلیات الہیہ ص ۲۵)

ختم نبوت کے معنی کی تحریف اور | ۱۶۔ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لئے صرف یہ  
دے دیے لفظوں میں دعوئے نبوت | مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ و مخاطبہ  
الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لئے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری  
شریعت لادے، کیونکہ شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔  
(تجلیات الہیہ ص ۲۵)

۱۷۔ تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ وہ نعمتیں کیونکر پاسکتے ہو، لہذا  
ضرور ہو کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء  
وقتاً فوقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ، اب کیا تم خدا تعالیٰ کا مقابلہ  
کر دو گے، اور اس کے قدیم قانون کو توڑ دو گے؟ (یکپرسیا لکچر ص ۱۰۰)

۱۸۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام یا کر جو غیب پر مشتمل ہو، زبردست

پیشینگوئیاں ہوں، مخلوق کو پہنچانے والا اسلامی اصطلاح کی رو سے نبی کہلاتا ہے: "تقریر حجۃ اللہ ص ۲، نیز اخبار الحکم ص ۲، مئی ۱۹۰۸ء) (مباحثہ راولپنڈی ص ۱۲۱)۔

۱۹۔ "یہ تمام بدقسمتی دھوکے سے پیدا ہوئی ہے، کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی، نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبر پانچواں ہوا اور شرفِ مکالمہ و مخاطبۃ الہیہ سے مشرف ہو، شریعت کا لانا اس کے لئے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری کہ صاحبِ تشریح رسول کا مشیع نہ ہو: (ضمیمہ بلائین پنجم ص ۱۳۵)۔

۲۰۔ "میرے نزدیک نبی اسی کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام یقینی و قطعی بحضرت نازل ہو، جو غیب پر مشتمل ہو اس لئے خدا نے میرا نام نبی رکھا، مگر بغیر شریعت کے: (تجلیات الہیہ ص ۲۶)۔

۲۱۔ "میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آچکے ہیں: (الحکم اراپریل ۱۹۰۸ء)۔

۲۲۔ "اس امت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی: (حقیقۃ الوحی ص ۲۵ حاشیہ)۔

۲۳۔ خدا کی جہرنے یہ کام کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی ہے: (حقیقۃ الوحی ص ۹۶ حاشیہ)۔

۲۴۔ "اور خود حدیثیں پڑھتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسرائیلی نبیوں کے مشابہ لوگ پیدا ہوں گے اور ایک ایسا ہوگا کہ ایک پہلو سے نبی ہوگا اور ایک پہلو سے امتی، وہی مسیح موعود کہلائے گا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۰۷ حاشیہ)۔

۲۵۔ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال، اقطاب اس امت میں سے گذر چکے ہیں، ان کو حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے

لہ روحانی خزائن ص ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹

نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۳۹)

۲۶۔ "اس واسطہ کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد اور احمد میں منشی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں" (ایک غلطی کا ازالہ)

۲۷۔ "ہمالد عوی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، دراصل یہ نزاع لفظی ہے خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بلحاظ کیفیت و سردی سے بہت بڑھ کر ہو اور اس میں پیشینگوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں" (مبدلہ راجح ص ۱۱۵) از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۷

۲۸۔ "میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے" (نزول مسیح ص ۱۳۷)

۲۹۔ "میں رسول اور نبی ہوں، یعنی باعتبار ظلیت کا ملکہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے" (نزول مسیح ص ۱۳۷) از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۷

۳۰۔ "اس طرح پر میں خدا کی کتاب میں عیسیٰ بن مریم کہلایا، چونکہ مریم ایک امتی فرد ہے، اور عیسیٰ ایک نبی ہے، پس میرا نام مریم اور عیسیٰ رکھنے سے یہ ظاہر کیا گیا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی" (ضمیمہ براہین ختم ص ۱۸۸)

۳۱۔ اس مرکب نام (امتی نبی) کے رکھنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تاکہ عیسائیوں پر ایک سرزنش کا تازیانہ لگے، کہ تم تو عیسیٰ بن مریم کو خدا بناتے ہو مگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ کا نبی ہے کہ اس کی امت کا ایک فرد نبی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ کہلا سکتا ہے، حالانکہ وہ امتی ہے" (ضمیمہ براہین ختم ص ۱۸۸)

۳۲۔ "پس باوجود اس شخص (مسیح موعود، ناقل) کے دعوائے نبوت کے جس کا نام غلطی طور پر محمد و احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا" (ایک غلطی کا ازالہ)

۳۳۔ " اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبِ خاتم بنا یا  
یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لئے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی اس وجہ  
سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا ، یعنی آپ کی پیروی کمالاتِ نبوتِ بخششی ہو  
اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے ، اور یہ قوتِ قدسیہ کسی اور نبی کو  
نہیں ملی ہے ( حقیقۃ الوحی ص ۹ حاشیہ )

۳۴۔ " جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان  
معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں ، اور  
میں مستقل طور پر نبی ہوں ، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی  
فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اسی کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی  
طرف سے علم غیب پایا ہے ، رسول اور نبی ہوں ، مگر بغیر کسی جدید شریعت  
کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا ، بلکہ انہی معنوں سے  
خدا نے مجھے نبی اور رسول کہے پکارا ہے ، سواب بھی میں ان معنوں سے نبی  
اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا ہے ( اشتہار ایک غلطی کا ازالہ )

۳۵۔ " وَنُؤْمِنُ بِأَنَّه خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ۚ  
الَّذِي رُبِّيَ مِنْ نَيْضِهِ وَأَظْهَرَ وَعَدَا ۚ ( از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۳ )

## تیسرا دور

۳۶۔ " میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں  
درست وحی نبوت میری جان ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام  
نبی رکھا ہے ۚ ( حقیقۃ الوحی ص ۶۵ ، از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۵ )

۳۷۔ " وَمَا كُنَّا مُعْتَدِينَ بَيْنَهُنَّ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا ، پس اس سے  
آخری زمانہ میں ایک رسول کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے ، اور وہی مسیح موعود  
ہے ۚ ( حقیقۃ الوحی ص ۶۵ ، از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۵ )

۳۸۔ "وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ" یہ آیت آخری زمانہ میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۶۶) از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۵

۳۹۔ صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۵) از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۵

۴۰۔ "اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راستباز مقدس نبی گذر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جائیں، سو وہ میں ہوں، اسی طرح اس زمانہ میں تمام بدوں کے نمونے بھی ظاہر ہوئے، فرعون ہوں یا وہ یہود ہوں جنہوں نے حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا، یا ابوجہل ہو، سب کی مثالیں اس وقت موجود ہیں (دراپن پنجم ص ۹) از مباحثہ راولپنڈی ص ۱۳۵

۴۱۔ خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو بھی اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے (چشمہ معرفت ص ۲۱)

۴۲۔ "خدا نے میرے ہزار ہا نشانوں سے میری تائید کی ہے کہ ہیت کم نبی گذرے ہیں جن کی یہ تائید کی گئی ہو لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر قہر ہے وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۸)

۴۳۔ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے، جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں (تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۸)

۴۴۔ "سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا (دافع البلاء ص ۱۵)

۴۵۔ "حق یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے اس

میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک فقرہ بلکہ ہر فقرہ (بیک غلطی کا بارہ ص ۱۸)

(نیز یہی مضمون اربعین ص ۵۷ اور نزول المسیح ص ۹۹، حقیقۃ الوحی ص ۱۵۷ اور انجیل ص ۶۲)

۱۔ درحالیٰ خزانہ ص ۲۲۶۔ ۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۲۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۳۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۴۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۵۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۶۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۷۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۸۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۱۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۲۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۳۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۴۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۵۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۶۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۷۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۸۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۹۹۔ ایضاً ص ۲۲۶۔ ۱۰۰۔ ایضاً ص ۲۲۶۔

دقیقۃ النبوة مرزا محمود صفحہ ۲۰۹، ۲۱۳ وغیرہ وغیرہ کتابوں میں بکثرت موجود ہے)۔  
 ۴۶۔ " میں خدا کی تیس برس کی متواتر وحی کو کیسے رد کر سکتا ہوں ، میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں ؛ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۵۱ و ۱۵۲ ، انجام آتم صفحہ ۱۷۱)۔  
 ۴۷۔ اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ میری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے :- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ " (اعجاز احمدی صفحہ ۱۷۱)۔  
 ۴۸۔ آنچہ من بشنوم از وحی خدا بخدا پاک دانش ز خطا  
 ہجو تر آن منزش دانم از خطا ہمین است ایمانم  
 (رسالہ نزول مسیح مصنفہ مرزا صاحب صفحہ ۱۷۱)

نیز اسی رسالہ کے صفحہ ۹۹ ہی میں فرماتے ہیں :-

۴۹۔ انبیاء اگرچہ بودہ اند بے من عرفان نہ کترم ز کسے  
 کم نیم زان ہمہ بروئے نقیص ہر کہ گوید و دروغ ہست و عین  
 ۵۰۔ آنچہ دادہ است ہر نبی را جام داداں جام را مرا بہ تمام  
 (رسالہ نزول مسیح ، مضمون مذکور)

۵۱۔ " چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو " براہین احمدیہ " میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے :- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ " (براہین احمدیہ صفحہ ۳۹) اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے ، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے :-

(۲) مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ " میں ، اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ؛ (تیسری رسالت صفحہ ۱۰۴)

تشریحی نبوت اور صاحب ۵۲۔ " اگر کہو کہ صاحب الشریعت افتراء کر کے شریعت ہونے کا دعوائے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری ، تو اول تو یہ دعوائے

بلادلیل ہے خدا نے انفراد کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی، ماسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چند امور نہی بیان کئے، اور اپنی امت کے لئے قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہوگا، پس اس تعریف کی رُو سے ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی، مثلاً قُلْ لِمَؤْمِنِيْنَ يَعْصُوا مِنْ اَمْرٍ اَوْ نَهْيٍ وَيَحْفَظُوا اَنْفُسَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ براہین احمدیہ میں راجح ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی، اور اس پر برس کی عمر گزر گئی، اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی، اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:- اِنَّ هٰذَا الَّذِي الْصُّحُفِ الْاُولٰٓئِ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُؤَسَّسِيْ، یعنی قرآنی تعلیم میں بھی موجود ہے۔

اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے کہ جس میں باستیفاء امر و نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر تو آت یا قرآن میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی، غرض یہ سب خیالات فصول اور کوتاہ اندیشیاں ہیں۔

اسی کتاب کے حاشیہ نمبر ۷ میں لکھتے ہیں:-

”چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی، اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے اوپر ہوتی ہے قُلُوبِ كُفْرٍ كَيْفَ كُنْتُمْ اِسْمًا يٰۤاَعُوْذُ بِاللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ سُوْقٍ اَنْدِيْهِمْ، یعنی اس تعلیم و تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے بنا، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے، اب دیکھ خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا، اور تمام انسانوں کے لئے

اسے دارِ نجات ٹھہرایا، جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں  
سنے :- (حاشیہ اربعین ص ۱)

تمام انبیاء علیہم السلام کی ہسری بلکہ ان سے افضلیت کا دعویٰ اولان کی توہین | ۵۳ - " میں آدم ہوں، شیت ہوں، نوح ہوں،  
میں ابراہیم ہوں، میں اسحق ہوں، میں اسمعیل ہوں،

میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں  
عیسیٰ ہوں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا منظر اتم ہوں، یوں ظلی طور  
پر میں محمد اور احمد ہوں؟ حاشیہ حقیقۃ الوحی ص ۱۷، نزول مسیح ص ۱، ازختم نبوت ص ۱  
۵۴ - " ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر فظام احمد ہے :-  
(دافع البلاء صفحہ ۲۰) ازختم نبوت صفحہ ۸

۵۵ - " خدانے اس امت میں مسیح بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی  
تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں  
میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم نے زانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں  
ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز نہ دکھلا سکتا :-  
(حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۳۸ و ۱۳۵)

۵۶ - آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، تین دادیاں اور  
نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورت میں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود  
ظہور پذیر ہوا :- (حاشیہ انجام آتم صفحہ ۷) پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی  
باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھا؟ (ضمیمہ انجام آتم صفحہ ۴) یہ بھی یاد ہے  
کہ آپ کو کچھ جھوٹ بولنے کی عادت تھی :- (حاشیہ ضمیمہ انجام آتم صفحہ ۵) انزالہ کلان ص ۱  
اجاز احمدی صفحہ ۱۳ و ۱۴، انزالہ اولام صفحہ ۳۲ و ۳۳، کشتی نوح صفحہ ۱۶، ازختم نبوت ص ۱

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم | ۵۷ - ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات  
سے افضلیت کا دعویٰ | کی تعداد صرف تین ہزار لکھی ہے :- (تحفہ گوہر وہ ص ۴۲)  
اور اپنے معجزات کی تعداد براہین احمدیہ حصہ نهم صفحہ ۵۶ پر دس لاکھ بتلائی ہے۔

۵۸ - لہ خفف القمر المنیر وان لی عسا القمران المشرقان

انتکبر، اس کے لئے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے) چاند

کے خوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں، اب  
کیا تو انکار کرے گا؟ (اعجازِ احمدی صفحہ ۱۷۱)

۵۹۔ "ایک غلطی کا ازالہ (اشتہاں میں "حضرت مسیح موعود" نے فرمایا  
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رَحِمًا  
بَيْنَهُمْ کے الہام میں محمد رسول اللہ سے میں مراد ہوں اور محمد رسول اللہ خدا  
نے مجھے کہا ہے" (اخبار الفضل قادیان جلد ۱۱ مورخہ ۱۵ فروری ۱۹۱۷ء)

۶۰۔ پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ آگے  
بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریمؐ کے پہلو پہ پہلو لاکھڑا کیا۔ (کلمۃ الفضل  
مصنفہ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجز صفحہ ۱۱۲ جلد ۱۱۲)

۶۱۔ "محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے میں بڑھ کر پیٹل میں  
محمد دیکھنے میں جس نے اہل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(از قاضی ظہیر الدین صاحب اہل قادیانی منقول از اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۱۶ء)  
۶۲۔ محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت

خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے؛ (نزل اسرار احمد صاحب، صفحہ ۹۶)  
حدیث رسول کی توہین | ۶۳۔ اور ہم اس کے جواب میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتے  
ہیں کہ میرے اس غصے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے اوپر  
نازل ہوئی، ہاں تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف  
کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم  
ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں؛ (اعجاز احمدی صفحہ ۲۰) — اور  
تحفہ گو لہڑیہ صفحہ ۱۰)

۶۴۔ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور  
مغفل گالیوں اور سب کی تکفیر

تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف  
رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جنہی ہے؛ (الہام مرزا غلام احمد  
صاحب تبلیغ رسالت جلد نمبر صفحہ ۱۶۷)

۶۵۔ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق

کر لی ہے مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا؛ (آئینہ کلمات صفحہ ۵۳)

۶۶۔ جو شخص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جسنہی ہے؛

(نزول مسیح صفحہ ۲، تذکرہ صفحہ ۲۲۷، تحفہ گولہ زدیہ صفحہ ۳۱، تبلیغ رسالت جلد نہم صفحہ ۲۷)

۶۷۔ بلاشبہ ہمارے دشمن یا بانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں

گتھیوں سے بھی بڑھ گئیں؛ (نجم الہدیٰ صفحہ ۱۰، درشمن صفحہ ۲۹۳)

۶۸۔ جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو

دلدار الحرام بننے کا شوق ہے؛ (انوار الاسلام صفحہ ۳)

۶۹۔ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول

نہیں کیا وہ مسلمان نہیں؛ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۶۳)

۷۰۔ کفر دو قسم پہ ہے (اول) ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہی سے

انکار کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا،

(دوئم) دوسرے یہ کفر کہ مثلاً مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام

حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ملنے اور سچا جانتے کے بارے میں خدا و

رسولؐ نے تائید کی اور پہلے نبیوں کے کتابوں میں تاکید پائی جاتی ہے پس

اس لئے کہ وہ خدا و رسول کے فرمان کا منکر ہے اگر غور سے دیکھا جائے

تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں؛ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۷۱)

۷۱۔ دنیا میں ماموروں کے انکار جیسی کوئی شقاوت نہیں اور ان قبولوں

کے مان لینے جیسی کوئی سعادت نہیں، اور وہ امن و امان کے قلعہ کی چابی

اور داخل ہونے والوں کی پناہ ہیں، تو پھر کیا حال ہوگا اس کا جس نے اس

کی چابی کو کھول دیا، اور قلعہ میں داخل نہ ہوا، اور باہر نکالے ہوئے لوگوں

کے ساتھ مل کر بیٹھ رہا، اور فی الحقیقت وہ شخص بڑے ہی بد بخت ہیں اور اللہ

جن میں سے ایسا کوئی بھی بدطالع نہیں، ایک وہ جس نے خاتم الانبیاء کو نہ مانا

دوسرا وہ جو خاتم الخلفاء پر ایمان نہ لایا؛ (الہدیٰ صفحہ ۱۱، غلام احمد)

۷۲۔ کافر کہنے والا بہر حال منکر ہوگا اور جو شخص اس دعوے سے منکر ہے

وہ بہر حال کافر ٹھہر گیا؛ (براہین احمدیہ حصہ پنجم طبع دوم صفحہ ۶۴، خاتمہ بحث صفحہ ۳۶)

۷۳۔ ”الجواب، یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا فر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا پر اقرار کرنے والا سب کا فروں سے بڑھ کر کافر ہے، پس جب کہ میں نے ایک مکتذب کے نزدیک خدا پر اقرار کیا ہے اس صورت میں نہ میں کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا و رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا و رسول کی پیشین گوئی موجود ہے۔“ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۶۳ از غلام احمد)

۷۴۔ فضل حسین بیرسٹر نے کوئی چھ مرتبہ التجا کی کہ ہم لوگ کافر نہیں کہتے یا جو لوگ کافر نہیں کہتے ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو حضرت (مرزا غلام احمد) نے بجائے اجازت کے فرمایا نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو کافر نہ کہنے والوں کو بھی کافر کہنے والوں کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں؟ (فیملہ حکم نمبر ۳۳، منقول از مناظرہ رادسپٹڈی صفحہ ۲۶۵)

۷۵۔ جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں اصل میں وہ بھی ہمارا مکتذب ہے، اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے، ایسے لوگ دراصل منافق طبع ہیں۔ (بدنہ ۲۲۷)

۷۶۔ ”بہر حال کسی کے کفر اور اس کے اتمام حجت کے بارے میں فرد فرد کا حال و دریافت کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ اس کا کام ہے جو عالم الغیب ہے، ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لئے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مؤاخذہ سے تبری ہے، اور کافر کو منکر ہی کہتے ہیں۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۷۱)

۷۷۔ ”پس نہ صرف اس کو جو آپ کو کافر نہیں کہتا مگر آپ کے دعوے کو نہیں مانتا کافر قرار دیا، بلکہ وہ بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے، اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں اُسے کچھ توقف ہو

کافر قرار دیا گیا ہے، پس سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت صاحب نے اس معاملہ میں کس قدر تشدد سے کام لیا ہے، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے، کیونکہ اگر ایک ہندو رسول اللہ کو سچا مانے اور دل میں اقرار بھی کرے اور ظاہر طور پر انکار بھی نہ کرے، ہاں بعض واقعات کی بنا پر ابھی حکم کھلا اسلام لانے سے پرہیز کرے تو ہم اسے کبھی بھی مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ اُسے کافر ہی سمجھتے ہیں، اور شریعت اسلام کبھی اس کے ساتھ ناتہ رشتہ کو جائز نہیں رکھتی، یعنی اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کے بیاہ دینے کی اجازت نہیں دیتی پس اسی طرح غیر احمدی کا حال ہے، جو ہمارے حضرت صاحب کو دل میں بچا جاتا ہے لیکن ابھی بیعت کرنے میں متردد ہے، پس جو لوگ ابھی آپ کے دعوے کے ماننے میں متردد ہیں اُن کی نسبت حضرت صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ میں.... حضرت صاحب کی عبارتیں اُد پر نقل کر آیا ہوں؛ درتشہید الاذہان صفحہ ۳۱ و ۳۲ بابت اپریل ۱۹۱۱ء مرزا بشیر الدین محمود قادیانی

۷۸۔ اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے؛  
دانوار خلافت مرزا بشیر الدین محمود قادیانی، صفحہ ۹۰

۷۹۔ "کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو وہ کافر اور اسلام سے خارج ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد میں؛ (آئینہ صداقت صفحہ ۳۵)

ختم نبوت کے معنی کی تحریف تاویل | اپنی کتاب "حقیقۃ الوحی" کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:-  
میں متضاد اور بے یقینی باتیں

(۱) "اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لئے مہرودی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ

سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالاتِ نبوتِ بخشی ہے، اور آپ کی توجیہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوتِ قدسیہ کسی اور کو نہیں ملی؟ گویا خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین نہیں، بلکہ انبیاء کی ٹہر میں کہ نبی بنانے کی قدرت و اختیار آپ کو ملے دیا گیا ہے، آپ کو نبوت کی مہر دے دی، آپ سے جتنے چاہیں نبی بنا سکتے ہیں۔

(۲) اور اپنی کتاب نزولِ مسیح کے صفحہ ۳ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:-

” میں رسول اور نبی ہوں یعنی باعتبار ظلیتِ کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے، پس باوجود اس شخص (مرزا صاحب) کے دعوائے نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا۔ (ایک غلطی کا انالہ)

اس سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی تو وہی ہیں جو سب مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کا نبی ہونا اس کے منافی نہیں، کیونکہ (معاذ اللہ) میں محمد احمدیوں (صلی اللہ علیہ وسلم) تجلیاتِ الہیہ صفحہ ۹ کے حاشیہ میں ہے:-

” نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لئے صرف یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرفِ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدیدِ دین کے لئے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعتِ آنحضرت

عہ گواہوں سے ہے کہ مرزا صاحب کی تحریر ایسا جھگڑا ہے کہ کچھ دود بھل جانے کے بعد انھیں خود بھی اپنا پہلا کلام یاد نہیں رہتا۔ اپنی کتاب حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۹ پر یہ کہتے ہیں: ”جس قدر مجھے پہلے اذیاء، ابدال، اتعاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ یہاں ان کو یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ خاتم النبیین علی لفظِ نبیین صحیح ہے اگر مرزا صاحب کے ایسا کردہ معنی خاتم النبیین کے لئے جاویر لے وہ اس وقت تک نہادق نہیں لے سکتا جب تک ایک نام نہ ملے آپ کی مہر سے نہ بنے ہوں، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اس میں ہو کہ آپ کے نزدیک لوگ نبی نہیں تو کیا ساری امت جس صورت میں صرف ایک شخص کو دو مہر تیرہ سو برس کے بعد آپ نبی بنا سکے، صحابہؓ چاہیں اور امت کے تمام اکابر میں کوئی اس قابل نہ تھا کہ آپ کی مہر سے نبی بن جاتا ۱۲ منہ

صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے :

اس میں ختم نبوت کے معنی کا یہ حاصل ہوا کہ شریعت ختم ہے نبوت ختم نہیں۔ غرض جب سے مرزا صاحب دوسرے دور میں داخل ہوئے اور نبی بننے کا شوق داغ ہوا تو خاتم النبیین اور مسئلہ ختم نبوت کو اپنی راہ میں حائل پا کر اس کی تحریف و تاویل شروع کی لیکن اس میں بھی حسب دستور کسی ایک تحریف پر قائم نہ رہے۔ کبھی خاتم النبیین ہی کے معنی بدل کر ٹہر نبوت قرار دیا، کبھی ختم نبوت کے معنی کو اپنے معروف و مشہور معنی میں رکھ کر ظلی و بر ذری نبوت کی قسمیں ایجاد کیں اور ظلی نبی کو عین محمد و احمد تسلیم کر ختم نبوت کی زد سے باہر آنے کی سعی فرمائی، اور کہیں ختم نبوت میں ایک قید بڑھا کر اس سے گلو خلاصی کی فکر کی کہ ختم ہونے والی نبوت وہ ہے جس کے ساتھ شریعت بھی ہو، مطلق نبوت کا احتسام مراد نہیں، مرزا صاحب کی نبوت اور قادیانی تعلیمات اور عقائد سے توبہ کرنے کے لئے تو میرے خیال میں قرآن و حدیث سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں، خود مرزا صاحب کی متضاد اور بے سبکی باتیں پڑھ لینا ایک منصف مزاج سلیم الفہم انسان کے لئے کافی ہے، اور تمام لٹریچر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، جتنی باتیں اس مقدمہ میں نقل کر دی گئی ہیں، ان کا سبھی ہر اہل عقل و دیانت پر بلاشبہ یہی اثر ہوگا، لیکن عام مسلمانوں کے سمجھنے اور نفس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے فی الجملہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال کے ذریعہ اس مسئلہ کے ہر پہلو کو واضح کر دیا جائے، اسی مقصد کے لئے یہ کتاب بنام ختم نبوت لکھی گئی ہے۔ واللہ الموفق والمعین۔

مقصود کی تقسیم چار حصوں میں | چونکہ اس بحث میں ہمارا دوسرے سخن ایک ایسی جماعت کی طرف ہے جو مدعی اسلام ہے، اور قرآن و حدیث اور اجماع امت کا اتباع کرنے کا دعویٰ رکھتی ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ زیر بحث کو اصول اسلام اور احکام شرعیہ کی تینوں قطعی حجت (یعنی قرآن، حدیث، اجماع) سے علیحدہ علیحدہ تین حصوں میں واضح کر کے پیش کریں، اس لئے ابتداءً اس رسالہ کے تین حصے قرار دیئے گئے :-

اول ختم النبوت فی القرآن، جس میں آیات قرآنیہ سے اس مسئلہ کا قطعی لہ و واضع ثبوت پیش کیا جائے اور ان کے متعلق جو مخالف کے شبہات ہیں ان کا منصفانہ جواب دیا جائے۔

دوسرے ختم النبوة فی الحدیث، جس میں احادیث نبویہ سے اس مسئلہ کو منع کیا جاوے اور شہادت مخالفین کے جوابات دیئے جاویں۔

تیسرے ختم النبوة فی الآثار، جس میں اجماع امت اور اقوال سلف صحابہ تابعین اور ائمہ دین اور ہر طبقہ کے علماء راہنہ یعنی علماء عقائد و کلام، مفسرین، محدثین، فقہاء، صوفیاء وغیرہم کی تحقیقات و تصدیقات اس مسئلہ کے متعلق پیش کی جاویں، اسی کے آخر میں کتب ترمیمہ توراہ و انجیل وغیرہ سے بھی اس مسئلہ کے ہر پہلو کو کھولا جاوے اور عقلی دلائل سے بھی ختم نبوت کا ثبوت دیا جاوے۔

چوتھے اس کے بعد اس کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ جن چیزوں کو قادیانی امت اپنے مذہب یعنی بقاء نبوت کے دلائل کہہ کر لوگوں کو فریب دیتی ہے، ان کے جوابات تحقیق و انصاف کے ساتھ دیئے جاویں۔

پانچویں، مرزا کے ذاتی حالات و مقالات اور احساق و اعمال کو صحیح کیا جاوے جس سے معلوم ہو سکے کہ اگر بالفرض نبوت ختم بھی نہ ہو اور دنیا کا ہر مسلمان نبی بن سکے تب بھی مرزا جی کو نبوت حاصل ہونا محال ہے۔

ابتدائی تین حصے اس کتاب میں موجود ہیں، چوتھے اور پانچویں حصہ کا ارادہ اس لئے چھوڑ دیا گیا کہ اس موضوع پر بہت سی مختصر و مفصل کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اس کے لئے اب کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہ رہی۔

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ؛

تتم  
م  
أ  
ب  
ج  
د  
هـ  
و  
ز  
ح  
ط  
ي  
ك  
ل  
م  
ن  
هـ  
و  
ز  
ح  
ط  
ي  
ك  
ل  
م  
ن

في القرآن

حصّة أول



مكتبة جامعة القاهرة

# ختم النبوة فی القرآن

## حصہ اول

قرآن مجید وہ کتاب عزیز ہے کہ جس کی ایک ایک اذیہ اور اہل عالم کی جانیں اور احوال و شربا باہیں، اور اس کے ہر اشارہ پر مسلمانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، بہت کافی تھا کہ مسئلہ زیر بحث میں بھی ایک اشارہ پر کفایت کرتا، لیکن خدائے عظیم و خسیب ہی خوب جانتا ہے کہ کونسا مسئلہ زیادہ قابل اہتمام ہے، اور اس مسئلہ کے بیان کی آئندہ ضرورت پڑنے والی ہے، اس نے اپنے اذلی کلام میں اس مسئلہ کا ہر پہلو اس قدر واضح کر دیا کہ کسی مسلمان کو جس کے دماغ میں فہم کا کچھ ماتہ اور قلب میں تمہور و اساخڑا کا خوف اور اس کی کتاب کی کچھ عظمت ہو اس کے لئے کسی قسم کے شک بلکہ تاویل و تفسیر کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی، پھر نہ صرف ایک مرتبہ اور ایک جگہ بلکہ متعدد مرتبہ اور مختلف مقامات میں مختلف طرز بیان سے اس مسئلہ کو ذہن نشین کیا گیا، جس کو میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیٰ ناظرین کرنا چاہتا ہوں۔

تفسیر قرآن کا معیار صحیح کیا ہے؟ ہر زبان اور ہر لغت میں کسی کلام کی مراد معلوم کرنے کے لئے جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس لغت کے مفردات اور قواعد ترکیب وغیرہ معلوم کئے جائیں، اسی طرح ہر کلام کی مراد متعین کرنے کے لئے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ مشکلم اور مخاطب کو پیش نظر رکھا جائے۔

کیونکہ عموماً لغت اور زبان کے اعتبار سے ہر کلام کے مختلف معنی اور مختلف مرادیں ہو سکتی ہیں، جب تک کہ خصوصیات مشکلم و مخاطب کو حکم نہ بنایا جائے معنی مراد اور

مقصود کو متعین نہیں کیا جاسکتا ، اور جب کہیں ان خصوصیات سے قطع نظر کر کے کلام کی مراد بتلائی جاتی ہے ، تو اکثر ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں ، اور بہت سی غلطیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے ۔

معانی اور بلاغت کے فنون میں اس مضمون کو بوضاحت بیان کیا گیا ہے ، اس جگہ صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے ۔

دیکھئے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ ” بارش نے زمین میں گھاس اور درخت اگائے ہیں ؛ تو اگر اس کا کہنے والا ایک توحید پرست مسلمان ہے تو ہر عقلمند اس کلام کے یہ معنی سمجھے گا کہ بارش گھاس اُگنے کا ظاہری سبب ہے ، اور اگر کہنے والا کوئی دہریہ مادہ پرست ہے تو یہی کلمہ کفر سمجھا جائے گا ، اور اس کی مراد یہ قرار دی جائے گی کہ وہ بارش کو گھاس اور درخت وغیرہ پیدا کرنے میں موثر حقیقی کہتا ہے ، جو قطعاً کفر ہے ، دیکھئے کہ مشکل کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک کلام کی مراد میں کس قدر شدید اختلاف ہو گیا ، ایک کلمہ جبکہ مسلمان کہتا ہے تو اس کی مراد صحیح ہے اور کفر کی کوئی وجہ نہیں ، اور کوئی دہریہ کہتا ہے تو یہی کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے ۔ ( دیکھو مختصر معانی و مطول وغیرہ ) ۔

اسی طرح بعض اوقات میں مخاطب کے بدل جانے سے کلام کی مراد بدل جاتی ہے ایک عالم فاضل کے لئے جب علامہ کہا جاتا ہے تو اس کی اعلیٰ درجہ کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے اور یہی لفظ جب کسی اُن پڑھ جاہل کے حق میں بولا جاتا ہے تو اس کا استہزار اور ٹھٹھا کرنا منظور ہوتا ہے ۔

اسی طرح بیوی کو حُرّہ کہہ کر طلاق مراد لی جاسکتی ہے جو بغض المباحات اور نہایت کمرہ چیز ہے ، اور دوسری عورتوں کو یہی لفظ کہنا ان کی تعظیم و تعریف میں داخل ہے ، اسی طرح زمانہ اور مکان اور دیگر خصوصیات مشکل و مخاطب کے اختلاف سے کلام کی مراد میں شدید اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ، تھوڑے سے غور کرنے سے ہر ایک زبان میں ہر انسان اس قسم کی ہزاروں مثالیں بیان کر سکتا ہے جن کی تفصیل اس جگہ بے موقع ہے ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر زبان میں جس طرح کلام کی مراد معلوم کرنے کے لئے اس زبان کی لغت اور قواعد صرفیہ و نحویہ کے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح یہ بھی ہم ضرورت میں سے ہے کہ خصوصیات مشکل و مخاطب کو زیر نظر رکھ کر مراد متعین کی جائے ، اور جو کلام

کی مراد اُس کے بغیر بیان کی جائے وہ بالکل ناقابلِ اعتمبار ہے، کیونکہ اکثر کلام میں نفسِ لغت کے اعتبار سے چند احتمال ہو سکتے ہیں ان میں سے معنی مراد کی تعیین صرف خصوصیاتِ مذکورہ پر موقوف ہوتی ہے۔

اسی اسلوب پر خدائے قدوس کا کلام بھی باعتبار لغت و قواعد ترکیب اکثر مضمون میں مختلف معانی کا تحمل ہو سکتا ہے اور ان کی متعدد مرادیں بن سکتی ہیں، اور حسبِ دستور ان میں بھی فیصلہ صرف خصوصیاتِ مذکورہ سے کرنا ہوتا ہے۔

ابن سعد نے بروایت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ۔

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج سے مناظرہ کرنے کے لئے حضرت ابن عباسؓ کو مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آیاتِ قرآنیہ کو مناظرہ کا معرکہ مت بناؤ بلکہ احادیث پیش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین قرآن مجید ہی سے مناظرہ کرنے میں کیا اندیشہ ہے، ہم بفضلہ تعالیٰ قرآن مجید کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہی گھروں میں قرآن نازل ہوا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے سچ کہا، لیکن قرآن مجید ایک مختصر اور محجز کلام ہے جو مختلف احتمالات کا تحمل کرنے والا اور ذودوجہ ہے، اگر اس کے سمجھنے اور اس کی تفسیر کا معیار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی احادیث کو نہ بنایا گیا تو ایک آیت کی تفسیر میں تم بھی کچھ کہتے رہو گے اور وہ بھی کچھ بولتے رہیں گے، کوئی بات فیصلہ کن نہ ہوگی، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس کو تسلیم کر کے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ خوارج کے ہاتھ میں سوائے رسوائی کے کچھ نہ رہا“

دکنانی الاقناع، صفحہ ۱۴۳، جلد ۱

اس روایت میں ادھر تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید ذودوجہ ہے، اس کے ایک کلام میں بحیثیتِ زبان مختلف معانی کا احتمال ممکن ہے، اور جب تک اس کی مراد متعین کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور خصوصیاتِ مذکورہ کا لحاظ نہ رکھا جائے اس کی حقیقی اور صحیح مراد کو پہنچنا مشکل ہے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جو یہ فرمایا کہ قرآن ہمارے گھروں

میں نازل ہوا اس لئے ہم قرآن مجید کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ خصوصیات منسجم و مخاطب کو کلام کے سمجھنے میں بڑا دخل ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کے اکثر جملوں میں لغت عرب اور قواعد نحو و صرف کے اعتبار سے مختلف معانی کا احتمال ہو سکتا ہے، ان احتمالات میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے پہچاننے کے لئے کوئی معیار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر شخص جو معنی چاہے گا وہ اختیار کر لے گا اور فیصلہ کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

اس سے پہلے کہ ہم ختم نبوت کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات پیش کریں اس امر کا طے کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ تفسیر قرآن کا صحیح معیار کیا ہے، جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ فلاں تفسیر صحیح ہے اور فلاں غلط۔

تفسیر قرآن کا معیار اردو | جن حضرات نے علوم قرآنیہ کے اصول پر کتابیں لکھی ہیں انہوں  
اس کا صحیح طریقہ! نے اس مسئلہ کو اہم قرار دے کر مفصل تقریر فرمائی ہے۔ ہم  
اس جگہ شیخ جلال الدین سیوطی کی کتاب "الاتقان فی علوم القرآن" کی عبارت کا خلاصہ  
ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جس کو انہوں نے جمہور علماء سے نقل فرمایا ہے:-

قرآن مجید کی تفسیر مذکورہ ذیل طریقوں پر علی الترتیب قابل اعتماد ہوگی، اور جو تفسیر ان طریقوں میں سے کسی طریق پر بھی نہ ہو وہ قرآن کی تحریف نہیں سمجھی جائے گی۔

(۱) مقدم اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اس باب میں وہ تفسیر ہے جو خود قرآن مجید ہی کی دوسری آیات سے مستفاد ہو، کیونکہ اس کلام پاک میں اگر ایک مسئلہ کو کسی جگہ مبہم ارشاد فرمایا ہے، تو اکثر دوسری جگہ اس کی تفصیل کر دی گئی ہے، علامہ ابن جوزی نے تفسیر القرآن بالقرآن پر مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس میں قرآن کی مبہم آیات کی

لہ کما فی تفسیر قولہ تعالیٰ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ دُونِ الْمَعَانِی قَالِ الْاَلَاؤِی جَمِیعُ الْقُرْآنِ  
علوم الاولین والآخرین بحیث لم یحیط بہا علماء حقیقۃ الا المتکلم بہائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ ما استأثر  
بہ سبحانہ، ثم ورت عنہ معظم ذلک سادات الصحابۃ و اعلامہم مثل الخلفاء الاربعۃ و مثل ابن مسعود و ابن عباس حتی  
قال لوضاعی عقاب بعیر لوجبتہ فی کتاب اللہ ثم ورت عنہم التابعون باحسان ثم تقاصر الیہم و فترت العزائم عن عمل  
ما حملہ الصحابۃ و التابعون فتوحنا فنونہ نقامت کل طائفۃ بغن من فنونہ (روح المعانی صفحہ ۱۷۰، پارہ ۶)

دوسری آیات سے شرح کی گئی ہے، اور حافظ ابن کثیرؒ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا التزام کیا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر اگر کسی دوسری آیت سے ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اسی کو لاتے ہیں۔

(۲) دوسرے درجہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ تفسیر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے متعلق اپنے قول یا فعل سے بیان فرمائی ہو، کیونکہ یہ کتاب میں آپؐ پر نازل ہوئی، اور آپؐ کو رسول بنا کر سمجھنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپؐ اس کتاب کی تعلیم دیں، اور اس میں جو امور مبہم ہیں ان کو میان فرمائیں، قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے:-

۱) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اَمْرًا مِّنْ رَّبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ  
 ۱۱) اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے سبھی ایک ایک  
 قرآن مجید کی تعلیم دینا اور کام کی باتیں بتلائیں:

۱۲) لَقَدْ نَزَّلْنَا سَمَوَاتٍ مَّا نُنزِلُ  
 ۱۲) تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لئے وہ آیا  
 جو ان کی طرف نازل کی گئیں:

ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ قرآن کو صحیح سمجھنے کے لئے رسولؐ کی تعلیم و تیسیر کی ضرورت ہے، اگر قرآن کو سمجھنے کے لئے صرف عربی زبان جانتا اور کتاب اللہ کا مطالعہ کافی ہوتا تو رسولؐ کے سمجھنے کی اور ان کے فرائض منصبی میں قرآن کی تعلیم و تیسیر داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔

جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض میں داخل ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں اور اس کے محل و مبہم کی شرح اور تفسیر بیان فرمائیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آپؐ کے کل فرمان وحی الہی ہیں، اس لئے دوسرے درجہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ تفسیر ہوگی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

(۳) تیسرے درجہ میں صحابہ کرامؓ کی تفاسیر قابل اعتماد ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، انہی کے سامنے اور اکثر انہی کے واقعات پر قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر قرآن مجید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی انسان جب کوئی کتاب دین کی ہو یا دنیا کی کسی شخص سے پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی غرض صرف عبارت پڑھنا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے معانی کا سمجھنا اہم مقصد ہوتا ہے، اور جب

طب یا نحو و صرف کی کتاب کوئی ادنیٰ طالب علم بے سمجھے پڑھنا حماقت اور تفسیح عمر سمجھتا ہے تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جب استاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جن کی غرض بعثت تعلیم کتاب ہے، اور شاگرد وہ صحابہ کرام کہ تمام امت کے اذکیار ان سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، اور کتاب وہ اہم کتاب کہ جس پر ان کے اور تمام امت کے دینی و دنیوی مقاصد اور دارین کی فلاح موقوف، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے محض الفاظِ سترآن پڑھنے پر اکتفاء کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ سے قرآن مجید پڑھتے تھے تو مطالب و معانی کو بھی آپ سے ہی پڑھتے تھے۔ سیوطی نے بحوالہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے۔

أَنْتُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَتَجَاوَزْ دَهْنًا  
حَتَّى يَتَعَلَّمُوا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ  
وَالْعَمَلِ قَالُوا فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ  
وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا.

- صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں پڑھتے تھے تو اس وقت تک آگے نہ پڑھتے تھے جب تک اس کے تمام علمی اور عملی مطالب پوری طرح معلوم نہ کر لیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو آپ سے سیکھا اور اس کے علم و عمل

وغیرہ سب کو معلوم کیا :

(اتقان ۱۷۲)

یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جیسے حلیل القدر صحابی کو ایک سورہ لقرہ کے پڑھنے میں آٹھ سال صرف ہوئے۔ (رواہ مالک فی الموطأ) خدا ہی جانتا ہے کہ انھوں نے آٹھ سال میں کیا کیا علوم و معارف اس سورت کے حاصل کئے ہوں گے ورنہ صرف حفظ کے لئے چند روز کافی تھے۔ اور چونکہ صحابہ کرام کے علوم قرآنیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ ہیں اس لئے امام الحدیث حاکم نے کہا ہے کہ تفاسیر صحابہ سے اس جگہ صرف وہ تفاسیر مراد ہیں جو شان نزول وغیرہ کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں، مطلقاً اقوال صحابہ مراد نہیں، خود حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں اس کی تصریح فرمادی ہے۔

(۴) چوتھے درجہ میں تابعین رحمہم اللہ کے اقوال دربارہ تفسیر قابل وثوق سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے تابعین نے پورا قرآن مجید صحابہ کرام سے پڑھا، اور اس کے وہ علوم و معارف حاصل کئے جو صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے۔

(۵) پانچویں درجہ میں وہ تفسیر قابل عمل ہے جو ان ائمہ تفسیر نے تحریر فرمائی ہے جن کی عمریں اسی میدان کی سیاحت میں ختم ہو گئیں، اور جنہوں نے تفسیر کے باب میں اصول سابقہ کو پیش نظر رکھ کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ و تابعین کو اپنا امام بنالیا، اور اس باب میں جو کچھ کہا صحابہ و تابعین کے اقوال کی ترجمانی کی، اور اسی لئے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں کہ یہ پانچواں درجہ کوئی مستقل درجہ نہیں، بلکہ تفسیر سے اور چوتھے درجہ میں داخل ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین کے آثار بھی انہی تفسیر سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

اس قسم کی تفسیروں میں سے سیوطی نے کتب ذیل کا نام لیا ہے :-  
ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ماجہ، حاکم، ابن مردویہ، ابوالشیخ ابن حبان، ابن اللذری وغیرہ، اور کتب متداولہ میں سے ابن کثیر، درمنثور وغیرہ بھی اس قسم کی تفسیریں ہیں۔ لیکن ان سب میں سیوطی نے تفسیر ابن جریر کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ہے :-

اجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الْمَعْتَبَرُونَ  
عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَلَّفْ فِي  
التَّفْسِيرِ مِثْلَهُ .  
" علماء معتبرین نے اس پر اجماع و اتفاق کیا ہے کہ فن تفسیر میں اس جیسی کتاب تصنیف نہیں ہوئی :-

یہ پانچ اصول ہیں جو قرآن عزیز کی صحیح تفسیر کا معیار ہیں، جو تفسیر ان اصول کے مطابق ہے وہ علماء قابل اعتماد ہے، اور جو اس معیار پر درست ثابت نہ ہو وہ قرآن مجید کی تحریف اور زندقہ والحاد ہے، اسی کو تفسیر بالرأے کہا جاتا ہے، جس کے متعلق حدیث میں ہے :-

مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ  
فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ رِوَاةَ النَّسَائِ  
وَابُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ (ازرقان ۱۷۹)  
" جو شخص قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے سے کلام کرے اور (اتفاقاً) تفسیر صحیح ہوگی تو تب بھی اس نے خطا کی :-

اور حدیث میں ہے :-  
مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
فَلْيَتَّبِعْ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ  
(ابوداؤد)  
" جو شخص قرآن کریم کی تفسیر بغیر علم کے کرے اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں سمجھے :-

درجہ ظاہر ہے کہ صحابہ و تابعین اور اسلاف متقدمین کی تفسیروں کے بعد ان کے خلاف کوئی قول ایسا ذکرنا اور آیت کی مراد ان سب کے خلاف قرار دینا صاف یہ معنی رکھتا ہے کہ العیاذ باللہ تیرہ سو برس تک تمام امت نے قرآن کا مطلب غلط سمجھا، صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین اور پھر تمام ائمہ سلف صالحین میں سے کسی کو حق کی طرف ہدایت نہ ہوئی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی مسلمان جو قرآن مجید کو خدا کی کتاب جانتا ہے، قائل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وہ مفسدہ عظمیٰ ہے کہ اسلام کی ریخ و بنیاد کو ہلا دینے والا ہے، بلکہ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو کوئی منصف کافر بھی اس بیہودگی کو اختیار نہیں کر سکتا، تمام اسلاف امت کا کسی آیت کی مراد کو نہ سمجھنا یا غلط سمجھنا جو وہ ذیل ظاہر ہے۔

۱۔ اذّل تو یہ کہ اس صورت میں قرآن مجید خدا تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ کسی بھلا انسان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ عالم کی ہدایت کے لئے نازل ہوا اور جب تمام عالم باوجود اپنی امکانی کوششوں کے صرف کر دینے کے تیرہ سو برس تک اس کی مراد کو نہ پاسکا تو معاذ اللہ گمراہی پر گمراہی بڑھانے والی چیتان ہو گئی، کوئی قابل عمل کتاب نہ رہی۔

۲۔ دوم اس صورت میں قرآن مجید کوئی قابل عمل اور قابل اعتماد کتاب نہیں ہوتی اور اس کتاب میں سے العیاذ باللہ انٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ممکن ہے کہ تیرہ سو برس تک تمام امت کی عرق ریزی اور جان نثا ہی اس کی صحیح مراد پر نہ پہنچا سکی اور ان سب کے ناخن تدبیر اس گتھی کو نہ سلجھا سکے، اور امت کے سب سے بڑے ارکان صحابہ و تابعین اس چیتان کے حل کرنے سے عاجز رہ کر معاذ اللہ ہمیشہ گمراہی میں پھنسے رہے تو جو صاحب آج اس کے نئے معنی کو صحیح بتلاتے ہیں کیا اس میں بھی یہ احتمال نہیں کہ وہ بھی پہلے معنی کی طرح آئندہ چل کر غلط ثابت ہوں، جس کا ظہور آئندہ تیرہ سو برس کے بعد ہو، اور نہ وہ بتلائیں کہ ان کے پاس اس کی کیا ضمانت ہو کہ وہ جو کچھ مراد سمجھتے ہیں وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتی بلکہ اس صورت میں ہر شخص کو یقین کر لینا پڑے گا کہ جب اس ذات مقدس نے اس معنی کو حل نہ کیا جس پر قرآن نازل ہوا اور ان کو اس کے پڑھانے اور بیان کرنے کے لئے ہی خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، پھر صحابہ کرام پر اس کی صحیح مراد ظاہر نہ ہو سکی، حالانکہ انھوں نے اسی کے حاصل کرنے اور پڑھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی

اور خدمت میں عمر گزار دی، اور بیچاروں نے آٹھ آٹھ اور بارہ بارہ برس صرف ایک سورت کے پڑھنے اور سمجھنے میں صرف بھی کئے پھر اسلافِ امت میں سے ہر قرن اور ہر زمانہ میں اس کے حل کرنے کے لئے ان حضرات نے زور لگائے جن کی ذکاوت اور تیزی طبع اور فہم خداداد کا کفار کو بھی طوعاً و کرہاً اعتراض کرنا پڑا ہے، لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے وہ سب اس کے صحیح معنی سمجھنے سے عاجز رہے تو پھر یہ کتاب کیا اس قابل ہو سکتی ہے کہ کسی عقلمند کو اس کی طرف دعوت دی جائے، یا کوئی اس کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو سکے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ و تابعین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ یا ایک واسطہ سے شاگرد ہیں، اور تعلیم قرآن جو آپ کی بعثت کا اعلیٰ مقصد ہے اس کے قابل یہی لوگ ہیں، اگر یہ لوگ بھی قرآن کو صحیح نہ سمجھے تو لازم آتا ہے کہ قرآن مجید ایک غیر مومن کلام ہو جائے کہ اب تک جو امت نے معنی سمجھے وہ آج غلط ثابت ہوئے، پھر جو معنی آج قرار دیئے گئے اس پر کیا اطمینان ہے کہ وہ بھی آئندہ غلط ثابت نہ ہوں گے، اور ان امور کے ہوتے ہوئے کیا کسی مسلمان کا منہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفار کو اس کتاب عزیز پر ایمان لانے اور اس کے اتباع کی دعوت دے؟

۳۔ سو تبصریجات احادیث صحابہ کرام کی جماعت ہر حیثیت علم و عمل سے اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے، صحابہ ہی کی شان میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ أَتَّبَهُمُ الْمَلَاَئِكَةُ  
وَأَعْيَنُهُمْ عَلِمًا

وہی اور سب گہرے علم والے ہیں؟

اور حدیث معروف خَيْرُ الْقُرُونِ تَرْتِي تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بھی اس معنی کی شاہد ہے۔

پھر اس ذہن و ذکاوت کے ساتھ وہ قرآن کے ہمزبان اور اس کی آیات کے نزول کا رات دن آنکھ سے مشاہدہ کرنے والے بھی ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ پھر اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں بارہ بارہ برس ایک ایک سورت پر صرف بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے مطالب کو خاص اُس مبارک ذات سے سیکھتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا، اور جس کے مبارک سینہ کو علومِ اولین و آخرین سے معمور کیا گیا، اور ان کو اسی کتاب عزیز کا معلم بنا کر

بھیجا گیا، اور خود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں سیکھے، بلکہ اس کے معانی و مطالب اور علم و عمل سب چیزیں آپ سے ہی حاصل کیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کے صحیح معنی ان سب حضرات سے مخفی رہ جائیں۔ اسی طرح تابعین و جمہم اللہ نے قرآن کریم صحابہؓ سے حاصل کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب اس کی صحیح مراد پر نہ پہنچیں، اور اگر یہ حضرات باوجود ان اوصاف و حالات کے اس کی صحیح مراد پر نہیں پہنچ سکتے تو دنیا میں کوئی انسان اس کی صحیح مراد پر نہیں پہنچ سکتا۔

۴۔ چہاں قرآن مجید خود ارشاد کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تعلیم و تبیین کے لئے بھیجا گیا ہے، جیسا کہ پہلے چند آیات سے ثابت ہو چکا ہے، پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور معاذ اللہ قرآن اسی ابہام اور اخفا کی تاریکی میں باقی رہا تو (خاکم بدین) خدا کا یہ ارادہ پورا نہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کارِ منصفی کو پورا نہ کیا۔

اسی لئے امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص آج کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، وہ درحقیقت یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (معاذ اللہ) اپنے فریضہ رسالت میں خیانت کی اور پورا دین امت کو نہیں پہنچایا۔

الحاصل آج جو شخص کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا چاہے اس کے لئے نہایت سہل اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ سلف صالحین صحابہ و تابعین کی تفسیر کو اپنا قندہ بنا کر ان کی اختیار کردہ تفسیر کو قرآن کی مراد سمجھے۔

اور جو کوئی معنی جہور صحابہ و تابعین اور اسلاف امت کے خلاف سمجھ میں آئے ان کو اپنی غلط فہمی اور قصورِ علم کا نتیجہ سمجھے، اگرچہ اس کے گمان میں وہ معنی قرآن کا مدلول معلوم ہوتے ہوں۔ غرض صحابہ و تابعین جو کہ اس کتاب کے علوم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ کے بلا واسطہ یا صرف ایک واسطہ سے شاگرد ہیں، ان کے اقوال سے تجاوز کرنا، اور ان سب اقوال کے علاوہ کوئی نئے معنی ایجاد کرنا قرآن کو ناقابل اعتماد اور ناقابل عمل چیز قرار دینا ہے۔

اس بابہ میں امام الحدیث والتفسیر حافظ من تیریہ کی ایک عبارت علامہ سیوطیؒ نے

آقان میں مستعمل علیہ ہونے کی حیثیت سے نقل کی ہے، دیکھو آقان، ص ۱۷۸، ۱۷۹) :-

فَاتِ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَ  
 الْأَيْمَةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ  
 تَفْسِيرٌ وَجَاءَ قَوْمٌ نَسُوا الْآيَةَ  
 بِقَوْلٍ آخَرَ لِأَجْلِ مَذْهَبِهِمْ  
 وَذَلِكَ الْمَذْهَبُ لَيْسَ مِنْ  
 مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ  
 صَارَ مُشَارِكًا لِلْمَعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ  
 مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ فِي مِثْلِ هَذَا  
 وَفِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ  
 مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ  
 وَتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يَخَالِفُ  
 ذَلِكَ كَانَ مُحْطًا فِي ذَلِكَ بَلْ  
 مُبْتَدِئًا لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِتَفْسِيرِهِ  
 وَمَعَانِيهِ كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ  
 الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ .

رسول کو بھیجا :

(از آقان ص ۱۷۸، ۱۷۹)

خلاصہ یہ کہ آج قرآن مجید کی تفسیر اور تعیین مراد کے لئے سب سے زیادہ اسہل اور

اسلم طریق یہ ہے کہ :-

(۱) اول سلف صالحین صحابہ و تابعین و تبع و تابعین اور ائمہ مفسرین کے اقوال اور  
 تفاسیر پر نظر ڈالے، اور جب کسی آیت کی تفسیر ان حضرات سے مل جائے تو اسی کو قرآن  
 کی مراد سمجھ کر مطلق ہو جائے، البتہ مزید اطمینان اور شرح صدر کے لئے اگر احادیث  
 اور قرآن مجید کی دوسری آیات سے اس تفسیر کے ماخذ کو بھی دریافت کرے اور معلوم  
 کرے کہ صحابہ و تابعین نے آیت کی یہ تفسیر کہاں سے لی ہے، تو یہ بھی ایک مفید علم اور  
 خداوند عالم کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ محض اپنی نارسافہم کے اعتماد پر صحابہ

تابعین کے خلاف کسی مضمون کو قرآن کی مراد اور مدلول بنا نا جائز نہیں،  
(۲) اور اگر کسی آیت کی تفسیر صحابہ و تابعین اور ائمہ مفسرین کی نقل سے نہ ملے تو خود  
احادیث میں غور کرے، اور اگر وہاں کچھ صراحت یا اشارہ سے آیت کی مراد متعین  
ہو جائے تو اسی کو مراد سمجھی جائے۔

(۳) ورنہ پھر خود اس آیت کے اگلے پچھلے مضمون اور دوسری آیات میں غور کر کے  
جو کچھ مراد سمجھ میں آئے اس پر اعتماد کیا جائے۔

(۴) اور اگر بالفرض ان میں بھی کسی صورت سے آیت کی تفسیر واضح نہ ہو، حالانکہ  
یہ تقریباً ناممکن ہے، تو پھر نفس لغت عرب اور قواعد نحو و صرف اور معانی و بلاغت کے  
اعتبار اور سیاق و سباق کے دیکھنے سے جو معنی سمجھے جاتے ہوں انہی کو اس کی تفسیر  
قرار دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی اس قسم کی آیات میں یہی طریق تھا، حضرت  
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں:-

الشعر ديوان العرب و اذا  
أخفى علينا حروف القرآن  
الذي أنزل بلفظة العرب  
نجعنا إلى ديوانها.

شعر عرب کا دیوان ہے (جس میں مہبت  
اور مشکلات کے فیصلے ہوتے ہیں تو جب  
کوئی لفظ قرآن کا ہم پر مخفی ہو جاتا ہے تو  
ہم اس دیوان کی طرف رجوع کرتے

ہیں؛

اتقان، ص ۱۲۱، ۱۲۲

لیکن اہل علم پر مخفی نہیں کہ اخیر کی تین صورتیں اور بالخصوص چوتھی صورت بالکل نادر  
اور قلیل ہیں بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بالکل موجود نہیں تو شاید بے جا نہ ہو کیونکہ تقریباً تمام  
قرآن مجید کی تفسیر صحابہ و تابعین اور ائمہ متقدمین سے منقول اور کتابوں میں مدون ہے،  
محض احتمال کے طور پر اخیر کے تین درجات کو عرض کیا گیا ہے۔

غرض آج ہمارے لئے تفسیر قرآن کے بارے میں سیدھا راستہ اور سہل طریق اور  
سب سے زیادہ قابل اطمینان ذریعہ جس میں غلطی کا احتمال نہیں وہ صرف یہی ہے کہ  
ہم صحابہ و تابعین اور ائمہ متقدمین کی تفسیروں پر اعتماد کریں اور ان کے خلاف اگر کوئی  
معنی سمجھ میں آئے تو اس کو اپنا تصور فہم خیال کریں، کیونکہ ہم اور پر تفصیلاً عرض کر آئے  
ہیں کہ تمام دنیا جمع ہو کر بھی اس بارہ میں صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتی، علاوہ نقل صحیح

کے عقل سلیم اور تجربہ اور عادت جاریہ کا بھی یہی مقتضی ہے کہ کلام کی مراد جس قدر کہ اس کا مخاطب یا مخاطب کا شاگرد سمجھ سکتا ہے کتابوں میں لکھی لکھائی دیکھنے والا ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ ممکن ہے کہ کسی کو یہ خیال ہو کہ صحابہ و تابعین کے اقوال دربارہ تفسیر اکثر مختلف ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ کیسے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن اول تو ان اختلافات میں غور کرنے والا بلا تکلف اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ اختلافات درحقیقت اختلاف نہیں ہوتے، بلکہ محض تعبیر و تمثیل اور ان الفاظ و عنوان کا فرق ہوتا ہے، سز سزای نظر سے دیکھنے والا اس کو اختلاف سمجھتا ہے۔

مثلاً صراط مستقیم کی تفسیر میں بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ اس سے اتباع قرآن مراد ہے، اور بعض نے اسلام سے تفسیر کی، اور بعض نے سنت و جماعت سے، اور بعض صحابہ نے طریق عبودیت اور بعض حضرات نے اطاعت خدا و رسول سے۔ یہ اقوال اگرچہ بصورت مختلف نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اتباع قرآن ہی درحقیقت اسلام ہے، اور اسی کا نام سنت و جماعت ہے، اور وہی طریق عبودیت اور اطاعت خدا و رسول ہے، بیشتر صحابہ کرام کے اختلافات اسی قسم کے ہیں، بہت سے شاذ و نادر ایسے خلاف ہیں جن کا مراد پراثر پڑتا ہو، شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں :-

وَلِهَذَا كَانَ الْبُزْءُ بَيْنَ  
الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  
قَلِيلًا جَدًّا۔

• چونکہ صحابہ نے علوم قرآنیہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے بلا واسطہ حاصل کئے ہیں،

اس لئے اس بارہ میں اختلاف بہت کم ہو۔

پھر جن آیات میں حقیقت صحابہ کے اقوال میں کچھ اختلاف ہے (اس میں تابعین اور ائمہ مجتہدین نے اسناد کی تحقیق اور رواۃ کے ضبط و اتقان اور ثقاہت کے اعتبار سے ترجیح کی صورتیں قائم کر دی ہیں) پس بحمد اللہ اس طریق پر کوئی غبار نہیں اور تفسیر قرآن کے بارے میں اس راستہ پر چلنے والے کے لئے ٹھسراہی کا کوئی خطرہ نہیں اللہمَّ ارزُقْنَا سُلُوكَهُ۔

یہ وہ معیار ہیں کہ جن سے تفسیر کے معاملہ میں صحیح اور غلط اور حق و باطل کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور یہی وہ طریق ہے جس پر تیرہ سو برس سے جمہور اہل سنت و الجماعت کا

عمل ہے اور انشاء اللہ تاقیامت بے گنا۔

اس کے بعد ہم دکھلانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر کے لئے کیا معیار قرار دیا ہے اور کیا وہ قابل اعتماد اور فیصلہ کن معیار ہے یا نہیں۔

مرزا صاحب کے نزدیک | چونکہ جمہور اہل سنت والجماعت اور صحابہ و تابعین کے طریق پر تفسیر قرآن کا معیار مرزا صاحب کی تحریفات اور اولام کے لئے قرآن مجید کی آیات میں کوئی راستہ نہ رہتا تھا، اس لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ تفسیر قرآن کے اصول معیار ہی کو بدلنا چاہئے، اپنے رسالہ ”برکات الدعاء“ ص ۱۳ لغایہ صفحہ ۱۵ میں اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے تفسیر قرآن کے لئے سات معیار تجویز کئے اور اس میں اپنی قدیم عادت کے موافق عوام کو ٹبھانے کے لئے چند متفق علیہ معیاروں کو بھی ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت ان کے نزدیک صرف ساتواں معیار قابل عمل ہے، چنانچہ خود ان کی تصریح ہے کہ یہ معیار سب معیاروں پر حاوی ہے۔

ان سات معیاروں میں چار تو وہی ہیں جو ہم نے جمہور سے نقل کئے، یعنی خود قرآن کی دوسری آیات اور احادیث اور اقوال صحابہ اور اقوال تابعین، اور تین معیلائی طرف سے ایسے ایجاد کئے جو مرزا صاحب کی ہر ضرورت کو قرآن مجید سے پورا کر سکیں، اور ان کی سب تحریفات کو تفسیر قرآن میں داخل کر سکیں، چنانچہ فرماتے ہیں:-

⑤ ”پانچواں معیار خود اپنا نفس مطہر لیکر قرآن میں غور کرنا ہے؟“

⑥ ”چھٹا معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے کے لئے جسمانی سلسلہ ہے، کیونکہ خداوند

کریم کے دونوں سلسلوں میں بالکل تطابق ہے؟“

④ ”ساتواں معیار وہی ولایت اور مکاشفاتِ محمدین ہیں، اور یہ معیار گویا

سب معیاروں پر حاوی ہے؟“

ہم اس معاملہ کو منصف ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ کیا وہ تین معیار جو مرزا صاحب نے گھڑے ہیں قرآن کی مراد متعین کرنے کے لئے معیار ہو سکتے ہیں اور ان سے ہم تفسیر کے باب میں کھرے کھوٹے کی تمیز کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جس شخص میں فہم و ادراک کا کچھ مادہ موجود ہے وہ بلا تامل سمجھ سکتا ہے کہ یہ معیار کسی طرح فیصلہ کن نہیں ہو سکتے۔

کیونکہ ان میں سے اول معیار کی بنا پر ہر شخص قرآن کی مراد پر حاکم بن جاتا ہے ہر ایک جاہل کہہ سکتا ہے کہ میرا نفس طہرا اس آیت کے معنی تجویز کرتا ہے اور بمقتضائے آیت کُلُّ حِزْبٍ حَیْزٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرَخُوْنَ ہر شخص اپنے ہی تجویز کردہ معنی کو حق اور درست خیال کرتا ہے، اور اس بنا پر قرآن کریم کی تفسیر جتنے منہ اتنی باتیں بن جائیں گی، بجائے اس کے کہ معیار سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی، حق و ناحق کا فیصلہ ہوتا، اس نرالے معیار کی بنا پر کسی باطل سے باطل اور یہود سے یہود خیال کو بھی لغو اور باطل کہنے کا کسی کو استحقاق نہیں رہتا۔

اسی طرح دوسرا معیار بھی ایک عجیب چستان ہے جس سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ غالباً مرزا صاحب کی مراد اس سے یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر اسی طریق کے موافق کرنی چاہئے جو نظام جہانیاں میں محسوس اور مشاہد اور عادت جاریہ کے موافق ہو، کسی آیت کی تفسیر ایسی نہ کرنی چاہئے جو خرقی عادت و خلاف مشاہدات عامہ کے ہو۔

لیکن ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا حاصل محض معجزات کا انکار ہے جو خود قطعاً اسلام میں داخل ہیں، اور جن پر قرآن و حدیث کی متواتر اور قطعی نعوس شاہد ہیں، تو یہ معیار علاوہ اس بات کے کہ دربارہ تفسیر کوئی فیصلہ کن نہیں خود بھی بالکل قطعاً اسلام کے خلاف اور محض باطل ہے۔

اور تیسرا معیار بھی جس کو مرزا صاحب تمام معیاروں پر حاوی قرار دیتے ہیں، درحقیقت قرآن عزیز کی آیات بینات کی تحریف اور بیخ کنی کی ایک ابلہ فریب اور خوش ناما تدبیر ہے، کیونکہ اولیاء و محدثین کے مکاشفہ داخل نفس و شیطان سے معصوم نہیں، بخلاف وحی رسول اور قرآن مجید کے کہ وہ اس سے بالکل پاک اور معصوم ہیں، وحی کے ساتھ خدا کی پولیس (فرشتے) آگے پیچھے حفاظت کے لئے آتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوا:

دَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (ایک رصد پہوا بھیجتا ہے)

پس ایک معصوم کلام کی مراد غیر معصوم کشف پر موقوف نہیں ہو سکتی، لیکن اہل فہم ذرا سے غور سے بلا تکلف اس نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی غرض اس معیار سے بھی قرآن مجید پر حکومت کرنا ہے، کیونکہ دوسری جانب آپ کو محدث

اور مجدد بلکہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔

حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو اپنے رسالہ ”شہادۃ القرآن“ میں صاف طور سے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جو حدیث، میری وحی کے خلاف ہو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کے قابل ہے۔“

اس معیار تفسیر کی غرض بھی صاف یہی ہے کہ جو تفسیر مرزا صاحب کے مکاشفات اور من گھڑت وحی کا اتباع نہ کرے وہ ردی اور محض ناقابل اعتبار ہے۔

تمام معیاروں کا لٹ لباب اور خلاصہ یہ ساتواں معیار تھا اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ تفسیر سترآن وہ معتبر ہے جو مرزا صاحب فرمائیں، مرزا صاحب چاہتے ہیں کہ اس فریب سے حدیث و قرآن دونوں کو اپنا محکوم و مطیع بنائیں، لیکن یاد رہے کہ خدا کا پاک کلام اور اس کا سچا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا میں اس لئے آیا ہے کہ دنیا اس کا اتباع اور اطاعت کرے، نہ اس لئے کہ وہ ہر ہوسناک انسان کی خواہشات کا پیرو ہو جائے، اور اگر ایسا ہو تو اہل عالم مصیبت میں پڑ جائیں۔ خداوند عالم فرماتے ہیں۔

لَوْ يُطِيعُ حُكْمَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمْرِ  
 اگر وہ بہت سے امور میں تمہارا اتباع  
 کرنے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ؟  
 لَعَبْتُمْ.

اور میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی تفسیر کے لئے یہ تین چیزیں جن کو مرزا صاحب پیش کرتے ہیں معیار قرار دی جائیں تو قرآن میں ہر ملحد و زندیق کی تحریفات کی کھپت ہو جائے گی، بلکہ اس صورت میں قرآن مجید ہر ہوسناک ملحد و زندیق کا کھلونہ بن جائے گا جس طرح چاہا آٹ ڈیا، کیونکہ ان تینوں معیاروں کا تقریباً خلاصہ یہ ہے کہ سترآن کی تفسیر محض ایک شخص کی فہم اور اس کے مکاشفہ پر موقوف کر دی گئی (اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اپنے کو فہم اور عقل سے خالی ہونے کا اقرار نہیں کر سکتا)۔

گرا زب سب طرہ میں ہم خرد شود معدوم  
 بخود گماں نبرد هیچ کس کہ نادانم

ہر شخص اپنے ادہام کو قرآن کی تفسیر بنا لے گا، اسی طرح ولایت اور مکاشفات، کا دعویٰ بھی کسی کے لئے مشکل نہیں ہر شخص جو چاہے گا کہے گا، اور اس وقت العیاذ باللہ سترآن کی تفسیر بے اصل ہو جائے گی، اور اسی لئے علماء امت نے اس مرحلہ

کو پہلے ہی طے کرنے کے لئے اس مسئلہ کو مسائل عقائد میں درج کیا ہے۔  
 علامہ نسفی اپنے رسالہ عقائد میں اور علامہ تفتازانی اس کی شرح میں اور سیوطی القان  
 میں اس کو جمہور اہل سنت والجماعت کا متفقہ قاعدہ قرار دیتے ہیں۔

النَّصُوصُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَ  
 الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى مَعَانِ  
 يَدَّ عَيْنَهَا أَهْلُ الْبَاطِنِ الْحَادِثُ  
 (عقائد نسفی)

آیات کے معنی وہی حق ہیں جو ان کے ظاہر  
 سے سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر ایسے  
 معنی لینا جن کا فرقہ باطنیہ والے دعویٰ کرتے  
 ہیں الحاد اور بدعتی ہے۔

مرزا صاحب تو موجود نہیں ان کے متبعین ذرا خدا سے خرابائیں، اور اپنی خواہش  
 پورا کرنے کے لئے قرآن مجید کو باز سمجھ پھلانگ اور ٹھٹھکانہ بنائیں۔  
 منصف حضرات نے غالباً خود فیصلہ کر لیا ہوگا کہ قرآن مجید کی مراد متعین کرنے کے  
 لئے صحیح طریقہ وہی ہے جو جو الہ علامہ سیوطی، جمہور علماء اہل سنت کا طریق اور اسلوب نقل کیا جا چکا  
 ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف اور اس کے کلام کی کچھ عظمت ہے وہ خود کرے اور  
 قبول کرے ورنہ اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

یہ بحث اگرچہ اس وقت ہمارے مقصد میں داخل نہ تھی، جس میں بلا اختیار کچھ طول  
 بھی ہو گیا، لیکن اس غرض سے یہاں درج کی گئی کہ راستہ صاف ہو جائے اور  
 آئندہ جو کچھ ہم عرض کریں یا جماعت مرزا نیہ پیش کرے، ناظرین اس کو خود چانچ  
 لیں کہ کون قابل قبول ہے اور کون قابل رد۔

اس کے بعد ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور قرآن مجید سے مسئلہ  
 حتم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، وعلی اللہ التکلان۔

## پہلی آیت

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ  
 تِجَارِكُمْ وَ لَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
 وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كَانَ اللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

”نہیں ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم، تمہارے  
 مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن آپ اللہ  
 کے رسول اور تمام انبیاء کے ختم کر دیئے ہیں  
 اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا“

شان نزول، یعنی نازل | اس آیت شریفہ کا یہ ہے کہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے تمام عرب جن تباہ کن اور مضحکہ خیز رسوماتِ قدیمہ میں مبتلا تھے ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ متبش یعنی لے پالک بیٹے کو تمام احکام و احوال میں حقیقی اور نسبی بیٹا سمجھتے، اسی کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، اور مرنے کے بعد شریک وراثت ہونے میں اور رشتہ ناتے اور حلت و حرمت کے تمام احکام میں حقیقی بیٹا قرار دیتے تھے، جس طرح نسبی بیٹے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لئے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ لے پالک کی بیوی سے بھی اس کے مرنے اور طلاق دینے کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔

یہ رسم بہت سے مفاسد پر مشتمل تھی، اختلاط نسب، غیر وارث شرعی کو اپنی طرف سے وارث بنانا، ایک شرعی حلال کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام جو کہ دنیا میں اسی لئے آیا ہے کہ کفر و ضلالت کی بیہودہ رسوم سے عالم کو پاک کر دے، اس کا فرض تھا کہ وہ اس رسم کے استیصال (جسے اکھاڑنے) کی فکرت کرنا، چنانچہ اس نے اس کے لئے دو طریق اختیار کئے، ایک قولی اور دوسرا عملی، ایک طرف تو یہ اعلان سرا دیا۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ  
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَعْلَمُ السِّرَّ أَدْعُوهُمْ  
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

” اور اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تمہارے  
لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ بات ہو اپنے  
منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات، اور وہ  
راستہ سمجھاتا ہے، پکارو لے پالکوں کو ان کے  
باپ کے نام سے، یہی پورا انصاف ہے  
اللہ کے یہاں“

(سورہ احزاب، پ ۲۱)

اصل مدعا تو یہ تھا کہ شرکتِ نسب اور شرکتِ وراثت اور احکامِ حلت و حرمت وغیرہ میں اس کو بیٹا نہ سمجھا جائے، لیکن اس خیال کو بالکل باطل کرنے کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ متبش یعنی لے پالک بنانے کی رسم ہی توڑ دی جائے، چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہو گیا کہ لے پالک کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔

نزولِ وحی سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو

(جو کہ آپ کے غلام تھے، آزاد فرما کر متبئی (نئے پالک بیٹا، بنا لیا تھا، اور تمام لوگ یہاں تک کہ صحابہ کرامؓ بھی عرب کی قدیم رسم کے مطابق ان کو "زید بن محمد" کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی اس وقت سے ہم نے اس طریق کو چھوڑ کر ان کو "زید بن حارثہ" کہنا شروع کیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس آیت کے نازل ہوتے ہی اس رسم قدیم کو خیر باد کہہ چکے تھے لیکن چونکہ کسی راجح شدہ رسم کے خلاف کرنے میں اعزاز و اقارب اور اپنی قوم و قبیلہ کے ہزاروں طعن و تشنیع کا نشانہ بننا پڑتا ہے جس کا تحمل ہر شخص کو دشوار ہے، اس لئے خداوند عالم نے چاہا کہ اس عقیدہ کو اپنے رسول ہی کے ہاتھوں عملاً توڑا جائے، چنانچہ جب حضرت زید نے اپنی بی بی زینبؓ کو باہمی ناجاتی کی وجہ سے طلاق دیدی، تو خداوند عالم نے اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ ان سے نکاح کر لیں، تاکہ اس رسم و عقیدہ کا کلیۃً استیصال ہو جائے، چنانچہ ارشاد ہوا۔

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا  
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زُجُوجِ  
أَزْوَاجِهِمْ

پس جبکہ زید زینبؓ سے طلاق دیکر فارغ ہو گئے تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے لئے پاکوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی واقع نہ ہو۔

آپ نے بامر خداوندی نکاح کیا، اور جیسا کہ پہلے ہی خیال تھا، تمام کفار عرب میں شور مچا کہ "لو اس نبی کو دیکھو کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر بیٹھے" ان لوگوں کے طعنوں اور اعتراضات کے جواب میں آسمان سے وہ آیت نازل ہوئی جو اس وقت ہمیں استدلال میں پیش کرنی ہے، یعنی

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ

نہیں ہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے

لے حضرت زید کو اس کا تعلق تھا کہ ان کے نام کو آپ کی نسبت سے علیحدہ کر دیا گیا، شاید اسی رخ کو رخ کرنے کے لئے قرآن کریم نے مراحت کے ساتھ ان کا نام لیا اور فرمایا قَسَمْتُ زَيْدًا لِلَّهِ حَالًا كَمْ بَشْرًا مِّنْكُمْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْكُمْ لِيَرْحَمَهُمْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو جَبَرٍ عَنَّا اللَّهُ بَطُولٌ بَقَاءً، و جبرئیل فی تفسیر فتح البیان (ایضاً)

وَجَايَكُمُ وَلَكِنْ تَسْؤَلُ اللَّهَ وَ  
خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۝

مردوں میں سے کسی کے باپ، میں آپ  
اللہ کے رسول اور آخر الانبیاء ہیں:

جس میں یہ بتلادیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں تو حضرت  
زیدؓ کے باپ بھی نسبی نہ ہوئے، لہذا آپ کا ان کی مطلقہ بی بی سے نکاح کر لینا بلاشبہ  
جائز اور مستحسن ہے، اور اس بارے میں آپ کو مطعون کرنا سراسر نادانی اور حماقت ہے۔  
ان کے دعوے کے رد کے لئے اتنا کہ لینا کافی تھا کہ آپ حضرت زیدؓ کے باپ نہیں،  
لیکن خداوند عالم نے ان کے مطاعن کو مبالغہ کے ساتھ رد کرنے اور بے اصل ثابت  
کرنے کے لئے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہی نہیں کہ آپ زیدؓ کے باپ  
نہیں، بلکہ آپ تو کسی مرد کے بھی باپ نہیں، پس ایک ایسی ذات جس کا کوئی بیٹا ہی  
موجود نہیں یہ الزام لگانا کہ اس نے اپنے بیٹے کی بی بی سے نکاح کر لیا کس قدر ظلم اور کج روی ہے۔  
اور اگر کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرزند ہوئے ہیں، قائم اور طیب اور  
طاہر حضرت خدیجہؓ سے اور ابراہیمؓ حضرت ماریہ قبطیہؓ کے بطن سے، پھر ارشاد کیسے صحیح ہوگا  
کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں۔

تو اس کا جواب خود قرآن کریم کے الفاظ میں موجود ہے، کیونکہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ  
آپ کسی مرد کے باپ نہیں، اور آپ کے چاروں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے،  
ان کو مرد کہے جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، آیت میں وَجَايَكُمُ کی قید اس لئے بڑھائی گئی ہے۔  
 نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نزولِ آیت کے وقت آپ کا کوئی فرزند موجود نہ تھا، قائم اور  
طیب اور طاہر کی وفات ہو گئی تھی، اور ابراہیمؓ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لہذا اس وقت  
کے لحاظ سے تو مطلقاً یہ کہنا بھی درست تھا کہ آپ کسی مرد یا لڑکے کے باپ نہیں۔  
بالجملہ اس آیت کے نزول کی غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و منافقین کے  
اعترافات کا اٹھانا اور آپ کی برات اور عظمت شان بیان فرمانا ہے، اور یہی آیت کا شان  
نزول ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۝ مگر آپ اللہ کے رسول اور آخر الانبیاء ہیں:

اس آیت مذکورہ بالا میں ہمارے مقصد کا زیادہ تعلق صرف اسی جملہ سے ہے، لہذا آئندہ ہماری بحث بیان معنی اور تفسیر وغیرہ میں صرف اسی جملہ کے متعلق ہوگی۔ لیکن اس پہلے کہ میں آیت کی تفسیر اصولی مذکورہ کے مطابق قرآن و حدیث وغیرہ سے پیش کروں، یہ بتلادینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جملہ کو پہلے جملہ سے کیا ربط ہے، کیونکہ آیت کی مراد اور غرض متعین کرنے میں اس سے بھی مدد ملے گی۔

آیت مذکورہ کے دونوں جملوں میں ربط؛ پہلے جملہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، اس پر سرسری نظر میں چند شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے ازالہ کے لئے یہ دوسرا جملہ لفظ "وَلَكِنَّتْ" کے ساتھ فرمایا ہے، کیونکہ یہ لفظ لغت عرب میں اسی لئے وضع کیا گیا ہے کہ پہلے کلام میں جو شبہ ہوتا ہے اس کو دفع کرے وہ شبہات یہ ہیں :-

① اقل یہ کہ جب آپ کے لئے اَبَوْت ثابت نہیں تو شفقتِ پدری جو کہ لازمہ اَبَوْت ہے وہ بھی آپ میں موجود نہ ہوگی، حالانکہ ایک نبی اور رسول کے لئے اُمت پر رغبت و رجبہ شفیق ہونا ضروری ہے۔

② دوسرے یہ کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہر نبی اپنی قوم اور امت کا باپ ہوتا ہے، امام راغب اصفہانی نے کہا ہے :-

وَمِثْلِي كُلِّ مَنْ كَانَ سَبَبًا فِي  
اِبْتِجَادِي شَيْءٍ اَوْ اِصْلَاحِيهِ اَوْ  
ظَهْوِيهِ اَتَا، وَلِذَلِكَ سَمَّيْتُ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا  
الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ اللهُ "النَّبِيُّ  
اَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ  
وَازْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ" وَفِي  
بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَهُوَ اَبٌ  
لَهُمْ.

اور ہر وہ شخص باپ کہا جاتا ہے جس کو اس کی ایجاد یا اصلاح یا ظہور میں دخل ہو، اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوالمؤمنین کہا جاتا ہے، دیکھو غلامِ خدا فرماتا ہے نبی مؤمنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار میں، اور ان کی ازواج مؤمنین کی مائیں میں اور بعض قرأت میں یہ بھی ہے کہ آپ مؤمنین کے باپ ہیں؛

غرض نبی ہونے کے لئے باپ ہونا لازم ہے، پس جب کہ آیت مذکورہ میں آپ سے ابوت (باپ ہونے کی نفی کی گئی تو کسی سطحی نظر والے کو یہ دیکھ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ابوت نہیں جو کہ لازم نبوت ہے، تو شاید نبوت بھی نہ ہوگی۔

③ تیسرے یہ کہ جب آپ سے ابوت کی نفی کی گئی تو اس میں بظاہر آپ کی ایک قسم کی تقسیم لازم آتی ہے، کہ آپ کے کوئی زینہ اولاد نہیں، نیز ان کفار کو پہننے کا موقع ملتا ہے جو آپ پر ابتر (اولاد) ہونے کا عیب لگاتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ آیت کریمہ کے پہلے جملہ سے اس قسم کے چند شبہات و اوہام ایک ظاہر میں نظر کے لئے ممکن تھے، ان کے ازالہ کے لئے ارشاد مندرمایا گیا۔

وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟

جس میں لفظ لَكِنَّ سے ان اوہام مذکورہ کا ذمہ اس طرح کیا گیا کہ اگرچہ آپ کے کوئی قبلی مندرزند نہیں اور آپ اس اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن آپ خدا کے برگزیدہ رسول ہیں، اور رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اوپر امام راغب سے نقل کر آئے ہیں کہ بعض قراءات میں قرآن عزیز نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا باپ قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی امت کے لڑکیوں کے متعلق فرمایا۔

هَسُو لَدَا بَنَاتِي - یہ میری بیٹیاں ہیں؟

اس اعتبار سے آپ کے کروڑوں فرزند ہیں، اور آپ کروڑوں مردوں کے باپ ہیں۔ حاصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ ابوت و ذمہ پر ہے، ایک ابوت جسمانیہ (نسب و رضاع) جس پر احکام حرمت و حلت کے دائرہ ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بیٹے کی بی بی حرام ہو جاتی ہے، وغیر ذلک۔

اور دوسری ابوت روحانیہ جس پر احکام حرمت و حلت دائر نہیں ہوتے البتہ اولاد کی جانب سے تعظیم اور باپ کی جانب سے شفقت مثل صلی اور نبی ہا پ کے بلکہ اس سے بھی کہیں زائد ہونا ضروری ہے، جیسے استاد کی ابوت شاگرد کے لئے، یا پیر کی مرید کے لئے، یا رسول کی اپنی ساری امت کے لئے، پس آیت کریمہ "مَتَّكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ" میں پہلے معنوں سے ابوت کی نفی کی گئی ہے،

اور "وَلِكِنْ رَسُوْلٌ اِذْهَبَ فِيْهِ" میں دوسرے معنی سے ابوت کا اثبات کیا گیا ہے۔

اس ایک جملہ نے تینوں شبہات کو اٹھا دیا، کیونکہ

① اس سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کے روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ یعنی رسول کی شفقت اور عنایت اپنی اولاد پر بہ نسبت نسبی باپ کے بہت زائد ہوتی ہے، اس لئے آپ کے نسبی باپ نہ ہونے سے آپ کی شفقت اور رحمت میں کمی آنا لازم نہیں آتا۔

② یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کے لئے جس قسم کا باپ ہونا لازم ہے، اس کی نفی آیت میں نہیں کی گئی، بلکہ صرف نسبی اور رضائی باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے اس لئے دوسرا شبہ بھی زائل ہو گیا۔

③ یہ بھی بخوبی معلوم ہو گیا کہ آپ لادلا اور مقطوع النسل (اتر نہیں، جیسا کہ کفار کہتے ہیں، بلکہ آپ کے اتنی اولاد ہے کہ دنیا میں نہ آج تک کسی کے لئے ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ آپ اُمت کے غیر محصور افراد کے باپ ہیں، اس سے تیسرا شبہ بھی اٹھ گیا،  
وللہ الحمد۔

یہ تینوں شبہات جملہ مذکورہ سے اُٹھ چکے ہیں، لیکن خدائے عزوجل چاہتا ہے کہ اپنے پیارے رسول کی براءت خوب آشکارا منسرا کر ان کے فضائل و کمالات اور اعلیٰ درجہ کے شفیق و مہربان ہونے پر قوموں کو مطلع فرمادے، تاکہ غافل لوگ ہوش میں آجائیں اور اس خدائے آخری رسول کے قدم چوم لیں۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

وَخَاتَمَ النَّبِيِّیْنَ ، | اور آپ تمام انبیاء کے ختم کر دیئے ہیں۔

خدائے عظیم و حفیظ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنے کلام پاک کے ایک ایک لفظ میں کیا کیا اسرار اور نکات رکھے ہیں اور کیا کیا اس کے فوائد ہیں ہم اپنے ذمہ علم سے جس قدر سمجھ سکتے ہیں پیش کرتے ہیں۔ کلام پاک کے اس جملہ میں چند فوائد مد نظر ہیں:-

① اول ان لوگوں کو جو آپ پر اتر اور مقطوع النسل ہونے کا الزام لگاتے تھے، یہ بتلا دینا کہ لے غافل تو تم جس پاکباز انسان پر اتر ہوئے کا عیب لگاتے ہو وہ اتنی محالوں کا باپ ہے کہ کسی کے ذمہ و گمان میں بھی نہیں آسکتی، کیونکہ اول تو اکثر رسول اپنی

امت کے باپ ہونے کی وجہ سے اتنی کثیر تعداد نسل اور اولاد رکھتے ہیں، کہ کسی انسان سے متصور نہیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی جب تک کوئی دوسرا رسول نہ بھیجا جائے اس وقت کی تمام پیدا ہونے والی امت اس کی اولاد ہے، اور اس کا سلسلہ ابوت جاری ہے، پھر بالخصوص یہ برگزیدہ نبی (نذہ ابی و امی) جو خاتم النبیین ہے اس کے بعد تو کوئی دوسرا رسول بھی آنے والا نہیں، اس کا سلسلہ ابوت تو قیامت تک چلنے والا ہے، اور صبح قیامت تک جتنے غیر محمود مسلمان پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس کی اولاد ہیں، اور اس لئے آپ تمام انبیاء و رسل میں سب سے زیادہ کثیر الاولاد ہوئے اور اسی بنا پر اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کل مخلوق اولین و آخرین سے زیادہ اولاد والے ہیں، اور یہی عرض ہے آپ کے اس فرمان کی :

إِنِّي أَبَاهِي بِكُمُ الْأُمَّةَ . . . میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری

امتوں پر فخر کر رہا ہوں گا ؟

خلاصہ یہ کہ آیت میں لفظ رَسُولُ اللَّهِ سے تو صرف یہی معلوم ہوا تھا کہ آپ مقطوع النسل نہیں بلکہ آپ رسول ہونے کی وجہ سے کثیر التعداد اولاد رکھتے ہیں، پھر لفظ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بڑھا کر کفار کو اچھی طرح ذلیل کرنے اور آپ کے کامل ہونے کو خوب روشن کرنے کے لئے گویا یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہی نہیں کہ آپ کثیر الاولاد ہیں، بلکہ اس نیلے سابقان اور خاکِ فرش کے درمیان پیدا ہونے والی تمام ہستیاں اس کثرت میں آپ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتیں، کیونکہ آپ کا سلسلہ ابوت تا قیامت چلنے والا ہے، کوئی نبی آپ کے بعد پیدا ہونے والا نہیں، اور ادھر یہ بھی وعدہ ہے کہ یہ دین متین محرف نہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ لوگ اس میں داخل ہوتے رہیں گے، اس لئے اس کی کثرت ظاہر ہے کہ اندازہ سے بھی باہر ہوگی، حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ملائکہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے آدمی آئے ہیں اتنے کسی نبی کے ساتھ نہیں آئے۔ (۲) اس جگہ لفظ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ کے اضافہ کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہم دنیا کو اس پر متنبہ کرنا منظور ہے کہ لے ہوا دہوس کے بندو ! یہ ہمارا آخری رسول

ہے جو ہمارا آخری پیغام لے کر تہااری طرف آیا ہے ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اس کے اتباع سے دین و دنیا ، معاش و معاد کو درست کر لو ، اس کے بعد پھر کوئی جدید آسمانی پیغام زمین والوں کی طرف نہ بھیجا جائے گا ، اور نہ کوئی جدید غیر معبوث ہوگا اس لئے اب دین و دنیا کی اصلاح اور وصول الی اللہ صرف اسی کی تصدیق اور اسی کے اتباع میں منحصر ہے ، اس کی ہدایت کو غنیمت سمجھو ، طعن و تشنیع سے باز آ جاؤ ۔

اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو متوجہ کرنے کے لئے اردو و فارسی وغیرہ زبان میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا آخری کلام یا آخری وصیت ہے ، اس کو پلہ باندھ لو ۔

② تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ فِي نَفْسِ الْبُوتِ سے یہ دم ہوتا تھا کہ آپؐ میں شفقت پوری بھی موجود نہ ہوگی تو اس کو رفع کرنے کے لئے لفظ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ بڑھا کر یہ بتلا یا گیا کہ اگرچہ آپؐ کسی مرد کے نسبى باپ نہیں ، لیکن آپؐ اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے نسبى باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں ۔

اس کے بعد اسی کمال شفقت کو بیان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

یعنی اول تو ہر رسول اپنی امت کا باپ ہے ، اور شفقت میں باپ سے بھی زیادہ ، پھر خصوصاً یہ رسولؐ تو خاتم النبیین ہیں جن کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا ، ایسی حالت میں تو ظاہر ہے کہ آپؐ تمام انبیاء میں بھی زیادہ شفیق ہوں گے ، اور امت کی ہدایت اور نصیحت و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھیں گے ، کیونکہ وہ رسول جن کے بعد دوسرے رسول اور انبیاء کے آنے کی توقع ہو ان سے اگر کوئی چیزہ جائے تو بعد میں آنے والے انبیاء اس کی تکمیل کر سکتے ہیں ، لیکن جو تمام انبیاء کا خاتم اور آخر ہو اس کو یہ فکر ہوگی کہ مخلوق کے لئے راستہ کو ایسا صاف کر دیا جائے کہ ان کو کسی وقت گمراہی کا خطرہ نہ ہو ۔ غرض وہ اپنی امت کے لئے انتہائی شفقت کا برتاؤ کریں گے ۔

جیسے ایک نسبى باپ جبکہ اپنے پیچھے اولاد چھوڑنے والا ہو ، اور کوئی ایسا شخص اس کے متعلقین میں نہ ہو جو اس کی اولاد کی نگرانی کر سکے ، اور ان کے مصارف کی کفالت کرے تو باپ کی شفقت و محبت میں جس قدر بیجان ہوگا وہ ظاہر ہے ، اپنے بعد کے لئے اپنی حیات ہی میں ایسے سامان مہیا کرنے کی فکر کرے گا کہ آئندہ اس کی اولاد کسی کی محتاج نہ ہو ۔

چنانچہ ہمارے آقاؐ نے نامدار سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے شریعت کے صراطِ مستقیم کو اس قدر مہوار چھوڑا ہے کہ جس میں رات اور دن برابر ہے، آپ کے بعد نہ ہمیں کسی شریعت سابقہ کی حاجت ہے اور نہ لاحقہ کی اور نہ کسی نبی جدید کی ضرورت ہے، اور نہ شریعت جدیدہ کی قرآن مجید اس شریعت کی ابدی تکمیل کا اعلان ان الفاظ سے گزر چکا ہے :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ  
دِينَكُمْ وَ اَسْمَعْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي .  
" آج ہم نے تمہارے لئے دینِ کامل  
کر دیا ، اور تم پر اپنی نعمت تمام  
کر دی ؛

اس سے ظاہر ہے کہ شرائع سابقہ کی تکمیل ابدی اور علی الاطلاق تکمیل نہ تھی، اگرچہ اپنے اوقات کے لحاظ سے وہ سب کامل و مکمل تھیں، اور یہی آیت کی مراد ہے، جیسا کہ امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس کی تصریح فرماتے ہیں۔  
الغرض تبصریحِ نصِ سترآن یہ شریعت ابدالآباد کے لئے کامل اور مکمل کر دی گئی، اس کو اپنے نبی کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت نہ محدث کی حاجت، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں :-

بِخَلَاتِ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَاهُمْ  
بِهِ فَلَمْ يَحْتَاجُوا مَعَهُ كَلَامَ  
نَبِيِّ وَلَا إِلَى مُّحَدِّثٍ بَلْ جُمِعَ  
لَهُ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا فَتَّرَهُ  
فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ .  
" بخلافتِ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے  
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی وجہ سے غنی  
فرما دیا ہے نہ وہ کسی نبی کے محتاج ہیں اللہ  
محدث کے بلکہ وہ تمام فضائل آپ میں  
جمع کر دیئے گئے ہیں جو دوسرے تمام  
انبیاء میں متفرق ہیں ؛

(رسالہ الفرقان ص ۵۶)

الغرض اس لفظ خاتم النبیین سے یہ بتلانا منظور ہے کہ آپ بہ نسبت دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بھی سب سے زیادہ شفیق مہربان ہیں۔  
اس کے بعد ہم آیت کی مفصل تفسیر ناظرین کے سامنے انہی اصول کے مطابق پیش کرتے ہیں، جن کو علماء امت نے تفسیر کا معیار و سترار دیا ہے، لیکن ہر شخص کی نظر

اول عبارت اور اس کے لغات پر پڑتی ہے، اودودہ پہلے اسی زبان کے قواعد سے اُس کی مراد معلوم کرنا چاہتی ہے، اس لئے بیان کی ترتیب میں ہم پہلے لغتِ عرب کو رکھتے ہیں، اور پھر باقی طریقوں کو ترتیب پیش کیا جائے گا۔

## آیت مذکورہ کی تفسیر لغتِ عرب سے

حل لغت | اس آیت میں چند کلمات ہیں،

رُ ، لَكُنَّ ، رَسُوْلٌ ، اَللّٰهُ ، خَاشِعَةٌ ، النّبِيّٰتِ ،

جن میں سے رُ وَاَدْعُلْفٰن کے لئے ہے اور لَكُنَّ استدراک یعنی ازالہ شبہ کے لئے اور لفظ اللہ محتاج بیان نہیں، البتہ باقی تین لفظ یعنی رسول اور خاتم اور النبیین زیادہ تفصیل طلب ہیں، اور بالخصوص آخر کے دو لفظ کیونکہ فرقہ مرزائیہ نے اس آیت کی تحریف کا راستہ انہی دو لفظوں کو بنا لیا ہے، لہذا ان الفاظ کے متعلق کتب تفصیل ہدیہ ناظرین کرنے کی ضرورت ہے۔

رسول ؛ جس شخص کو خداوندِ عالم اپنی وحی کے ساتھ مشرف فرما کر مخلوق کی طرف تبلیغ و ہدایت کے لئے بھیجتا ہے، اس کو "رسول" اور "نبی" کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں لفظوں کی شرح میں علمائے عربیت و اصول کے مختلف اقوال ہیں۔ رسول اور نبی کے معنی میں فرق | بعض حضرات کا خیال ہے کہ اصطلاح شرع میں دونوں لفظ مترادف ہیں، یعنی ان کے معانی میں باہمی کوئی منسوق نہیں ہے۔ یہ حضرات ان آیات اور احادیث اور کلماتِ عرب سے استدلال کرتے ہیں جن میں سے ایک ہی شخص کی نسبت کبھی لفظ رسول بولا گیا ہے اور کبھی لفظ نبی۔ اور یہ مذہب جہود و معتزلک ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رسول بہ نسبت نبی عام ہے، کیونکہ نبی کے لئے انسان ہونا ضروری ہے، فرشتہ کو نبی نہیں کہا جاتا، اور رسول جس طرح انسان ہوتے ہیں اسی طرح ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، قرآن عزیز کی بہت سی آیات ملائکہ کو بھی رسول کا لقب دیتی ہیں، کافی قولہ تعالیٰ :-

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ " بیشک ہمارے رسول (یعنی ملائکہ)

یا نبی شری۔ | ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری پکرائے:

اور جمہور اہل سنت والجماعت اور علمائے سلف کی تحقیق یہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص۔ کیونکہ اصطلاح شرع میں رسول صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو خداوند عالم کی طرف سے کوئی کتاب دی گئی ہو یا وہ نبی جو مستقل شریعت لیکر آیا ہو اور نبی کے لئے ان دونوں میں سے کوئی شرط نہیں، بلکہ نبی اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو صلاہ شریعت و کتاب ہو، اور اس شخص کو بھی جس کو خداوند عالم کی جانب سے وحی ہو اور وہ تبلیغ حکام کرتا ہو، لیکن اس کے لئے کتاب یا شریعت جدیدہ نہیں، اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس تحقیق پر شاہد ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ | "نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول اور نبی  
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا" | مگر اس طرح "الہ

جس میں لفظ رسول کے بعد لفظ نبی بغرض تعمیم بعد تخصیص ذکر کیا گیا ہے،

نیز حدیث میں ہے:-

"حضرت ابو ذرؓ اسخفرت علی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء، ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے ہیں اور رسول تین سو پندرہ، جن میں سے سب پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔"

(یہ حدیث اسحق بن زہری، ابن ابی شیبہ، ابویعلیٰ نے روایت کی ہے، اور ابن حبان اور ابن حجر نے اس کو صحیح مندرمایا ہے۔)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ مِائَةً أَلْفًا وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا وَكَانَ الرَّسُولُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ أَدْرَكْتُمْ أَدَمَ إِلَى قَوْلِهِ أَخِيذْهُمْ مُحَمَّدٌ (رواه البخاری)

ابن حبان نے بالکل صاف کر دیا کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، اور انبیاء

بناہیت رسول کے زیادہ ہوئے ہیں، نیز اس حدیث میں خط کشیدہ الفاظ بھی قابل غور ہیں۔

اس لئے جمہور اہل سنت والجماعت نے اسی تحقیق کو اختیار کیا ہے، حافظ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری صفحہ ۳۲۱ ج ۲ کتاب التبعیر میں اس کی تصریح فرمائی، اور زرقانی نے شرح مؤطامیں، ابن ہمام نے مسامرہ میں، قاضی عیاض نے شفا میں اس کی تصدیق فرمائی ہے، و مثلاً فی حواشی شرح العقائد النسفیہ۔

ان اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلا دینا ضروری ہے کہ جمہور اہل سنت کو بھی اس سے انکار نہیں کہ بعض مواضع میں لفظ رسول، نبی کی جگہ پر، یا نبی رسول کی جگہ پر تو سعاد مجازاً بولا جاتا ہے، اور اسی بات کے سمجھنے سے پہلے دونوں مذہبوں کی دسیلوں کا جواب بھی ہو جاتا ہے (کما لا یغنی علی المتیقظ)

اس کے بعد ہم باقی ان دونوں لفظوں کی شرح علیحدہ علیحدہ لغت کی معتبر کتابوں سے پیش کرتے ہیں، اور مہر پورے جملہ کے معنی از روئے قواعد عربیت ذکر کئے جائیں گے۔

لفظ خاتم کی لغوی تحقیق | اس لفظ کے بارے میں آیت مذکورہ میں دو قراءتیں ہیں، یعنی حضرت نے اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان میں سے بعض نے خاتم، ت کے زبر کے ساتھ بعض نے خاتم، ت کے زبر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ پھر امام المفسرین والحدیثین ابن جریر طبرستانی اور جمہور مفسرین نے اپنی ہی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دوسری سترات یعنی خاتم، ت کے زبر کے ساتھ صرف دو قاریوں حسن اور عاصم کی قرأت ہے۔

ان کے علاوہ تمام قاریوں کے نزدیک پہلی قرآۃ یعنی خاتم بکسر تاء مختار ہے، ابن جریر، صفحہ ۱۱ جلد ۲۲

اور جب آیت میں زیر اور زبر دونوں ستراتیں موجود ہیں تو ضروری ہے کہ ہم خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح دونوں لفظوں کی مفصل شرح ناظرین کے سامنے پیش کریں، دہونہا۔

یہ دونوں لفظ کلام عرب میں چند معانی کے لئے مستعمل ہوتے ہیں جن کو ذیل میں ایک نقشہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے :-

حوالہ کتب لغت	معانی	نمبر شمار	لفظ	لفظ
لسان العرب، تاج العروس، صحاح جوہری، قاموس۔	بھینٹنہ ٹہر جس پر نام وغیرہ کندہ کئے جاتے ہیں۔	۱	خاتم بکسر	خاتم بالفتح
لسان العرب، تاج العروس، صحاح وغیرہ۔	انگریزی یعنی انگوٹھی، مثلاً خاتم ہبیب یعنی سونے کی انگوٹھی۔	۲	•	•
قاموس، تاج العروس، ہفتی اللہ اب	آخر قوم بھی اکثر مستعمل ہے	۳	•	•
• • •	گھوٹے کے پاؤں میں جو تھوڑی سی سفیدی ہو اس کو بھی خاتم کہتے ہیں	۴	•	•
• • •	گڑھی کے نیچے جو گڑھا ہے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔	۵	•	•
• • •	بمعنی اسم ناعل، کسی چیز کو ختم کرنا والا۔ ٹہر کا جو نقش کاغذ وغیرہ پر اترتا ہے	۶	خاتم بالکسر	خاتم بالفتح
لسان العرب وغیرہ۔		۷	-	نقطة

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں لفظ ساٹھ معانی میں مستعمل ہوتے ہیں جن میں اول کے پانچ دونوں میں مشترک ہیں، اور نمبر ۶ فقط خاتم بالکسر کے ساتھ مخصوص ہے اور نمبر ۷ خاتم بالفتح کے ساتھ خاص ہے۔

اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ آیت مذکورہ میں خاتم بالکسر کے چھ معنوں میں کون سے

لہ اس تفصیل میں طوائف لغت کے اقوال کچھ اور بھی ہیں، مگر عام کتب لغت سے یہی تفصیل مستفاد ہوتی ہے۔ ۱۲ شفیق غفرلہ

معنی ہو سکتے ہیں، اور خاتم بالفتح کے چھ معنوں میں سے کون سے۔  
 سو یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلے اور دوسرے معنی یعنی نگینہ مہر اور انگشتری آیت میں  
 کسی طرح حقیقت کے اعتبار سے مراد نہیں ہو سکتے، اور باجماع علماء لغت اور  
 باتفاق عقلائے دنیا جب تک حقیقی معنی درست ہو سکیں، اس وقت تک مجازی کو  
 اختیار کرنا باطل ہے لہذا پہلے اور دوسرے معنی ہرگز مراد نہیں۔

چوتھے پانچویں معانی کا تو آیت میں کسی انسان کو وہم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ  
 اس آیت میں نہ حقیقتہً درست میں نہ مجازاً۔

اسی طرح ساتویں معنی یعنی مہر کا نقش، یہ بھی حقیقی معنی کے لحاظ سے آیت میں مراد  
 نہیں ہو سکتے، اور مجازی معنی مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں۔

لہذا اب صرف دو احتمال باقی ہیں، تیسرے معنی یعنی آخر قوم اور چھٹے معنی یعنی  
 ختم کرنے والے، اور یہ دونوں معنی بلا تکلف آیت میں حقیقت کے اعتبار سے درست  
 ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ان میں سے پہلے معنی دونوں مترادفوں یعنی خاتم بالکسر  
 اور خاتم بالفتح پر درست ہیں، اور دوسرے معنی صرف خاتم بالکسر کے ساتھ مخصوص ہیں  
 الحاصل لفظ خاتم کی دونوں مترادفوں اور ان کے معانی لغویہ پر مفصل  
 بحث کا نتیجہ انشاء اللہ تعالیٰ ناظرین کرام نے یہ نکال لیا ہوگا کہ اگر مترادف و حدیث  
 کی تصریحات اور صحابہ و تابعین کی تفاسیر اور ائمہ سلف کی شہادتوں سے بھی قطع نظر  
 کر لی جائے اور فیصلہ صرف لغت عرب پر رکھ دیا جائے تب بھی لغت عرب فیصلہ  
 دیتا ہے کہ آیت مذکورہ کی پہلی مترادف پر دو معنی ہو سکتے ہیں، آخر النبیین اور نبیوں  
 کے ختم کرنے والے اور دوسری قرأت پر ایک معنی ہو سکتے ہیں یعنی آخر النبیین۔

لیکن اگر حاصل معنی پر غور کیا جائے تو دونوں کا حتم صرف ایک ہی نکلتا ہے،  
 اور یہ لحاظ مراد کہا جا سکتا ہے کہ دونوں قراءتوں پر آیت کے معنی لغتہً یہی ہیں کہ آپ  
 سب انبیاء علیہم السلام کے آخر میں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ  
 تفسیر روح المعانی میں تصریح موجود ہے۔

وَالْخَاتَمُ اسْمُ الْاَلَةِ بِمَا يَخْتَمُ | اور خاتم بالفتح اس آلہ کا نام ہے جس سے  
 بِهٖ كَالطَّابِعِ بِمَا يُطْبَعُ بِهٖ فَمَعْنٰی | مہر لگائی جائے، پس خاتم النبیین کے

معنی یہ ہوں گے۔ وہ شخص جس پر انبیاء ختم ہوئے  
 گئے۔ اور اس معنی کا نتیجہ بھی یہی آئینہ  
 انبیین ہے؟

خَاتَمَ النَّبِيِّينَ الَّذِي خَتَمَ  
 النَّبِيُّونَ بِهِ وَمَا لَهُ آخِرُ  
 النَّبِيِّينَ (روح المعانی ص ۵۹ ج ۱)

اور علامہ احمد معروف بہ ملاحیون صاحب نے اپنی تفسیر احمدی میں اس لفظ کے معنی

کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

” اور نتیجہ دونوں صورتوں (بافتح و باکسر)  
 میں وہ صرف معنی آخر ہی میں، اور اسی لئے  
 صاحب تصحیح مدارک نے قرأت ماصم یعنی الفتح  
 کی تفسیر آخر کے ساتھ کی ہے، اور بیضاوی  
 نے دونوں مترادفوں کی ہی ایک  
 تفسیر کی ہے؟“

تَحَا الْمَالِ عَلَى كُلِّ تَوْجِيهِ هُوَ  
 الْمَعْنَى الْآخِرُ وَلِذَلِكَ فَتَرَ  
 صَاحِبُ الْمَدَارِكِ قِرَاءَةَ  
 عَاصِمٍ بِالْآخِرِ وَصَاحِبُ  
 الْبَيْضَاوِيِّ كُلَّ الْقِرَاءَاتَيْنِ  
 بِالْآخِرِ .

روح المعانی اور تفسیر احمدی کی ان عبارتوں سے یہ بات بالکل روشن  
 ہو گئی، کہ لفظ خاتم کے جو دو معنی آیت میں بن سکتے ہیں اُن کا بھی خلاصہ اور نتیجہ صورت  
 ایک ہی ہے، یعنی آخر انبیین، اور اسی بنا پر بیضاوی نے دونوں مترادفوں کے ترجمہ  
 میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں صورتوں میں آخر انبیین تفسیر کی ہے۔

پھر خداوندِ عالم ائمہ لغت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انھوں نے صرف اسی پر  
 بس نہیں کی کہ لفظ خاتم کے معنی کو جمع کر دیا، بلکہ تصریحاً اس آیت شریفہ کے متعلق  
 جس پر اس وقت ہماری بحث ہے صاف طور پر بتلا دیا کہ تمام معانی میں سے جو لفظ  
 خاتم میں لغتاً ممکن ہیں اس آیت میں صرف یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ سب انبیاء  
 کے ختم کرنے والے اور آخری نبی ہیں۔

خدا کے عظیم و خیر ہی کو معلوم ہے کہ لغت عرب پر آج تک کتنی کتابیں چھوٹی بڑی  
 اور معتبر و غیر معتبر لکھی گئیں، اور کہاں کہاں اور کس صورت میں موجود ہیں، ہمیں تو  
 نہ اُن سب کے جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ یہ کسی بشر کی طاقت ہے، بلکہ صرف  
 اُن چند کتابوں سے جو عرب و عجم میں سلم الثبوت اور قابل استدلال سمجھی جاتی ہیں  
 ” مشتملہ از خروارے؟ ہدیہ ناظرین کر کے یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ لفظ

خاتم بالفتح اور بالکسر کے معانی میں سے ائمہ لغت نے آیت مذکورہ میں کون سے معنی تجویز کئے ہیں۔

معنرات العتران | یہ کتاب امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عجیب تصنیف ہے کہ اپنی نظیر نہیں رکھتی، خاص قرآن کے لغات کو نہایت عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے، شیخ جلال الدین سیوطی نے اتقان میں فرمایا ہے کہ لغات قرآن میں اس سے بہتر کتاب آج تک تصنیف نہیں ہوئی، آیت مذکورہ کے متعلق اس کے الفاظ یہ ہیں۔

وَحَاثِمَ النَّبِيِّينَ لِأَنَّهُ حَتَمَ  
السَّبْوَةَ أَمْيَ تَمَّهَا بِمَجِيئِهِ

(معنرات راغب ص ۱۳۲) یعنی آپ نے تشریف لاکر نبوت کو تمام فرمایا

المکم لابن السیور | لغت عرب کی وہ معتقد علیہ کتاب ہے جس کو علامہ سیوطی نے ان معتبرات میں سے شمار کیا ہے کہ جن پر قرآن کے بارے میں اعتماد کیا جاسکے۔

وَحَاثِمٌ كُلُّ شَيْءٍ وَحَاثِمَتُهُ  
عَاثِبَتُهُ وَأَخْرَجَهُ (از لسان العرب)

تہذیب للازمہری | اس کو بھی سیوطی نے معتبرات لغت میں شمار کیا ہے،

اس میں لکھا ہے۔

وَالْحَاثِمُ وَالْحَاثِمُ مِنْ أَسْمَاءِ  
الشَّيْءِ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  
فِي التَّزْوِيلِ الْعَزِيزِ مَا كَانَ  
مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ جِبَالِكُمْ  
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاثِمُ  
النَّبِيِّينَ أَمْيَ أَخْرَجَهُمْ (از لسان العرب)

• اور خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، اور قرآن مجید میں ہو کہ نہیں ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور رب نبیوں میں آخری نبی ہیں؟

اس میں کس قدر صراحت کے ساتھ بت لادیا گیا کہ خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور قرآن مجید میں خاتم النبیین سے آخر النبیین مراد ہے۔

کیا ائمہ لغت کی اتنی تصریحات کے بعد بھی کوئی منصف اس معنی کے سوا کوئی

اور معنی تجویز کر سکتا ہے ؟

لسان العرب | لغت کی مقبول کتاب ہے عرب و عجم میں مستند مانا جاتی ہے، اس کی عبارت یہ ہے :-

<p>خاتم القوم بالکسر اور خاتم القوم بالفتح کے معنی آخر القوم ہیں اور انہی معنی پر لہجائی سے نقل کیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء (یعنی آخر الانبیاء)</p>	<p>خَاتِمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ وَ اٰخِرُهُمْ عَنِ النَّبِيّٰنِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ -</p>
--	---

اس میں بھی بوضاحت بتلایا گیا کہ بالکسر کی قرارت پڑھی جائے یا بالفتح کی ہر صورت میں خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء کے معنی آخر النبیین اور آخر الانبیاء ہوں گے۔ لسان العرب کی اس عبارت سے ایک قاعدہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اگر صبی لفظ خاتم بالفتح اور بالکسر دونوں کے معیثیت نفس لغت بہت سے معانی ہو سکے ہیں لیکن جب قوم یا جماعت کی طرف اس کی اضافت کی جاتی ہے تو اس کے معنی صرف آخرا اور ختم کرنے والے کے ہوتے ہیں، غالباً اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لفظ خاتم کو تنہا ذکر نہیں کیا، بلکہ قوم اور جماعت کی ضمیر کی طرف اضافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

لغت عرب کے تتبع (تلاش) کرنے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ خاتم بالکسر یا بالفتح جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنی آخری کے ہوتے ہیں، آیت مذکورہ میں بھی خاتم کی اضافت جماعت نبیین کی طرف ہے، اس لئے اس کے معنی آخر النبیین اور نبیوں کے ختم کرنے والے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتے، اس قاعدہ کی تائید تاج العروس شرح قاموس سے بھی ہوتی ہے، وہو ہذا، تاج العروس | شرح قاموس للعلامة الزبيدي میں لہجائی سے نقل کیا ہے :-

<p>اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح بھی ہوا اور خاتم وہ شخص ہے جس نے اپنے تشریف لانے سے پہلے</p>	<p>وَمِنْ اَسْمَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْخَاتِمُ وَالْخَاتَمُ وَهُوَ الَّذِي خَتَمَ النَّبُوَّةَ بِسَجِيئَتِهِ</p>
--	--

مجمع البحار | جس میں لغات حدیث کو معتمد طسریق سے جمع کیا گیا ہے، اس کی عبارت درج ذیل ہے :-

” خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، بالفتح اسم ہے جس کے معنی آخسر کے ہیں، اور بالکسر اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنی تمام کرنے والے کے ہیں :-

الْخَاتِمُ وَالْخَاتِمُ مِنْ أَسْمَاءِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ش ،  
بِالْفَتْحِ إِسْمٌ أَيْ آخِرُهُمْ وَ  
بِالْكَسْرِ إِسْمٌ فَاعِلٌ -  
(مجمع البحار)

نیز مجمع البحار، صفحہ ۳۲۹ ج ۱ میں ہے :-

” خاتم النبوة بحسب تاریخ یعنی تمام کرنے والا اور بالفتح تاریخ یعنی مہر یعنی دوشے جو اس پر دلالت کرے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں :-

خَاتِمُ النَّبِيِّتِ بِكسرِ الشَّاءِ أَيْ  
فَاعِلٌ الْخَتْمُ وَهُوَ الْإِسْمَامُ  
وَيُقْتَضِحُهَا بِمَعْنَى الطَّابِعِ أَيْ  
شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

تاموس | میں ہے :-

” اور خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح قوم میں سب سے آخر کو کہا جاتا ہے اور اسی معنی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد خاتم النبیین یعنی آخر النبیین :-

وَالْخَاتِمُ آخِرُ الْقَوْمِ كَالْخَاتِمِ  
وَمِنْهُ تَوَلَّاهُ تَعَالَى وَخَاتِمُ  
النَّبِيِّينَ أَيْ آخِرُهُمْ -

اس میں بھی لفظ ” قوم “ بڑھا کر قاعدہ مذکورہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نیز مسئلہ زیر بحث کا بھی نہایت وضاحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے ۔

کلیات الی البتار | لغت عرب کی مشہور و معتمد کتاب ہے، اس میں مسئلہ زیر بحث کو سب سے زیادہ واضح کر دیا ہے، ملاحظہ ہو :-

” اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء اس لئے رکھا گیا کہ خاتم آخر قوم کو کہتے ہیں (اور اسی معنی میں) خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے

وَتَسْمِيَةً نَبِيًّا خَاتِمُ  
الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ الْخَاتِمَ آخِرُ  
الْقَوْمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ  
مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ

التَّبَيِّنَاتِ . | باپ لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور آخر

(کلیات اہل البقار، ص ۳۱۹) | سب نبیوں کے ؟

اس میں نہایت صاف کر دیا گیا ہے کہ آپ کے خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ خاتم القوم کو کہا جاتا ہے، اور آپ آخر النبیین ہیں۔ نیز ابوالبقر نے اس کے بعد کہا ہے کہ :-

وَنَفَى الْأَعْتَمَ يَسْتَلْزِمُ نَفَى | اور عام کی نفی خاص کی نفی کو بھی مستلزم  
الْآخِرِينَ . | ہے ؟

جس کی غرض یہ ہے کہ نبی عام ہے، تشریحی ہو یا غیر تشریحی، اور رسول خاص تشریحی کے لئے بولا جاتا ہے، اور آیت میں جبکہ عام نبی کی نفی کر دی گئی تو خاص یعنی رسول کی بھی نفی ہونا لازمی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس آیت سے تشریحی اور غیر تشریحی ہر قسم کے نبی کا اختتام اور آپ کے بعد پیدا ہونے کی نفی ثابت ہوتی ہے، جو لوگ آیت میں تشریحی اور غیر تشریحی کی تقسیم گھڑتے ہیں علامہ ابوالبقر نے پہلے ہی سے اُن کے لئے رد تیار کر رکھا ہے۔

صحاح العربیہ للجبوری | جس کی شہرت محتاج بیان نہیں، اس کی عبارت یہ ہے :-

وَالْخَاتِمَ وَالْخَاتِمَ بَكْسَرِ | اور خاتم اور خاتم تار کے زیر اور زبذولہ  
السَّاءِ وَفَتْحِهَا وَالْخِيَتَامُ وَ | سے اور ایسے ہی خیتام اور خاتام سب کے  
الْخَاتَامُ كُلُّهُ بِمَعْنَى وَالْجَنْمِ | معنی ایک ہیں، اور جمع خواتیم آتی ہوا  
الْخَوَاتِيمُ وَخَاتِمَةَ الشَّيْءِ | خاتمہ کے معنی آخر کے ہیں، اور اس معنی میں  
أَخِيرًا وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ | محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء  
وَسَلَّمَ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ . | علیہم السلام کہا جاتا ہے ؟  
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

لہ یاد رہے کہ اس رسالہ میں جہاں کہیں ہم نے تشریحی اور غیر تشریحی کے الفاظ لکھے ہیں، ان سے ہماری مراد یہ ہے کہ تشریحی و غیر تشریحی دونوں کے متعلق ہے، یا پہلی ہی شریعت کے متعلق ہوں، ورنہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب تشریحی ہیں، اور شریعت لازماً نبوت ہے، مرزا صاحب نے جس کا نام غیر تشریحی رکھا ہو وہ نبوت کی کوئی قسم نہیں، ۱۲ منہ

اس میں بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ خاتم اور خاتمہ بالکسر اور بالفتح دونوں کے ایک معنی ہیں یعنی آخِر قوم۔

منتہی الارث میں لفظ خاتم کے متعلق لکھا ہے :-

”خاتم کصاحب مہر و انگشتری“ و آخر چیز سے و پایان آن و آخِر قوم  
و خاتم بالفتح مثلہ و محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین :

مُراجِع میں ہے :-

<p>”خاتمۂ شے کے معنی آخر شے کے ہیں اور اسی معنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں“</p>	<p>خَاتِمَةُ الشَّيْءِ اخْرَجًا وَمُتَّحِدًا خَاتِمَةُ الْأَنْبِيَاءِ بِالْفَتْحِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.</p>
--	--

لغت عرب کے غیر محدود دفتر میں سے یہ چند اقوال ائمہ لغت اور بطور مثبتہ نمونہ  
از خردوارے پیش کئے گئے ہیں، جن سے انشاء اللہ تعالیٰ ناظرین کو یقین ہو گیا ہوگا کہ  
از روئے لغت عرب آیت مذکورہ میں خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے سوا  
کچھ نہیں ہو سکتے، اور لفظ خاتم کے معنی آیت میں آخر اور ختم کرنے والے کے علاوہ  
ہرگز مراد نہیں بن سکتے۔

یہاں تک بھم اللہ یہ بات بالکل روشن ہو چکی ہے کہ آیت مذکورہ میں خاتم بالفتح  
اور بالکسر کے حقیقی معنی صرف دو ہو سکتے ہیں، اور اگر بالفرض مجازی معنی بھی لئے جائیں  
تو اگرچہ اس جگہ حقیقی معنی کے درست ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں، لیکن  
بالفرض اگر ہوں تب بھی خاتم کے معنی مہر کے ہوں گے، جیسا کہ خود مرزا صاحب  
قاد یانی ”حقیقۃ الوحی“ حاشیہ صفحہ ۹۷ میں تصریح کرتے ہیں، اور اس وقت آیت  
کے معنی ہوں گے کہ آپ انبیاء پر مہر کرنے والے ہیں، جس کا خلاصہ بھی پہلے معنی کے  
علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ محاورہ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں چیز پر مہر کر دی، یعنی  
اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، قرآن عزیز میں فرمایا ہے :-

<p>”اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر مہر کر دی یعنی اب اُن میں کوئی خیر کی چیز داخل نہیں ہوتی“</p>	<p>خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ</p>
---	--

(تفسیر ۱۶۷)

أَرْوَجُ وَقَدْ خَمَّتْ عَلَى فَوَادِي ۖ بِحَيْثُ أَنْ يَحُلَّ بِهِ سِدَاكَ  
 "میں تیرے یہاں سے اس طرح جا رہا ہوں کہ تو نے میرے قلب پر اپنی محبت سے ٹہر  
 لگا دی ہے، تاکہ اس میں تیرے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے؟"

اس وقت تک جو کچھ کلام کیا گیا وہ لفظ خاتم کے لغوی معنی کی تحقیق تھی، اس کے  
 بعد دوسرے لفظ یعنی التَّيْتِيْنِ کے لغوی معنی اور اس کی تحقیق عرض کی جاتی ہے۔  
 لفظ "التَّيْتِيْنِ" کی لغوی تحقیق | یہ لفظ دراصل دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک الف لام  
 تعریف، دوسرا "تئیین" دونوں کے متعلق مختصراً گزارش کی جاتی ہے۔  
 دوسرا لفظ "تئیین" تو نبی کی جمع ہے، جس کا استعمال انبیاء کی جماعت کے لئے  
 کیا جاتا ہے، اور لفظ نبی کی مفصل تحقیق لغوی اور شرعی گذر چکی ہے، ناظرین چند  
 ورق الٹ کر ملاحظہ فرمائیں۔

البتہ پہلا لفظ یعنی "الف لام" اس جگہ تفصیل طلب ہے، جس کو ہدیہ ناظرین  
 کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک خالص علمی مسئلہ ہے اس لئے اگر باوجود امکان  
 سہولت پیدا کرنے کے بعد بھی عام ناظرین کے لئے پوری وضاحت نہ ہو تو معذور  
 سمجھا جائے۔

مشہور ہے کہ "الف لام" تعریف لغتہ چار معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جنس،  
 استغراق، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ لیکن جب الف لام جمع پر داخل ہوتا ہے تو جماع  
 اہل عربیت اور باتفاق علماء اصول اس میں صرف دو احتمال ہوتے ہیں، اول عہد  
 خارجی یا ذہنی، دوم استغراق۔ دیکھو کشف الاسرار للعلامة المنهجي۔

وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْجَمْعِ فَلِلْعَهْدِ  
 اِنْ كَانَ وَآلَا فَلِلْعُمُومِ  
 "اور اگر الف لام تعریف جمع پر داخل ہو تو  
 اگر وہاں عہد بن سکتا ہے تو وہ مراد ہوگا،  
 ورنہ عموم و استغراق مراد لیا جائے گا؟"

کشف، ص ۲۲۰، ۱۱۵

لہ الف لام تعریف جس لفظ پر داخل ہو اس کی چند صورتیں ہیں، یا تو اس کے افراد میں سے کچھ مراد نہیں بلکہ  
 نفس مابقیہ مراد ہی، تو اس الف لام کو جنس کہتے ہیں، اور اگر افراد مراد ہیں تو یا تمام افراد ہوں گے یا بعض، اگر تمام  
 ہیں تو استغراق، اور اگر بعض ہیں تو پھر جنس ہوں گے یا غیر جنس، اگر جنس ہیں تو عہد خارجی، ورنہ عہد ذہنی کہتے ہیں۔

اور علامہ ابوالبتار اپنی کلیات میں فرماتے ہیں :-

عموماً اہل اصول اور اہل عیسیت نے فرمایا ہے کہ لام تعریف خواہ مفرد پر داخل ہو یا جمع پر وہ استغراق ہی کا فائدہ دیتا ہے، البتہ اگر معبود ہو تو پھر عہد کے لئے لیا جاتا ہے :-

وَقَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَصُولِ  
وَالْعَرَبِيَّةِ لَأَمِّ التَّعْرِيفِ سَوَاءٌ  
دَخَلَتْ عَلَى الْفَرْدِ أَوْ عَلَى الْجَمْعِ  
تُقَيِّدُ إِلَّا سَتَغْرَاقِي إِلَّا إِذَا  
كَانَ مَعْمُودًا .

(کلیات ابی البتار، ص ۵۶۳)

طبع قدیم، صفحہ ۴۹ میں یہ بات اور زیادہ ہے کہ اس حکم میں مفرد اور جمع سب برابر ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الف لام دراصل صرف انہی دو معنی کے لئے ہے، باقی معانی محض ضرورت مقام کے لئے کہیں کہیں آتے ہیں۔

اور علامہ رضی نے بھی شرح کافیہ میں اس بحث پر مبسوط تفسیر کرتے ہوئے یہی اختیار کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

بعضیت اور جزئیت کی علامت تنوین ہے، جب کسی اسم پر الف لام داخل ہو کر مانع تنوین ہو جائے گا تو اس کا مدلولِ صریح صرف استغراقِ کل افراد ہوگا، البتہ اگر کوئی دلیل اس بات پر دلالت کرے کہ اس لفظ سے اس کے کل افراد مراد نہیں، بلکہ بعض معین یا غیر معین افراد مراد ہیں تو اس وقت انہیں افراد کو مراد سمجھا جائے گا جس کو اصطلاح میں عہدِ خارجی اور عہدِ ذہنی کہتے ہیں، جیسے کہا جائے [سَتَرَ اللَّحْمَ] (یعنی گوشت خرید لاؤ)، تو ظاہر ہے کہ گوشت سے اس کے تمام افراد مراد نہیں ہو سکتے، اور نہ یہ کسی بشر کی قدرت میں ہے، اس لئے بقرینہ خریداری اللحم میں لحم سے فقط بعض افراد غیر معین لحم کے مراد ہوں گے، اور اسی کو عہدِ ذہنی کہا جاتا ہے جیسے قرآن عزیز میں ہے اَزْجِدُ عَلَى الشَّارِهُدِي رِيَا فِي الْاَلْغِ بِاطْلَاعِ بَاؤُنْ، تو اللہ سے ظاہر ہے کہ آگ کے تمام افراد مراد نہیں ہو سکتے بلکہ صرف وہ معین آگ مراد ہے جس کا ذکر پہلے کلام میں موجود ہے اور اسی کا نام عہدِ خارجی ہے اور جب اس قسم کی کوئی دلیل مقصود اس لفظ کو اپنے مدلولِ صریح یعنی استغراق سے

پھیرنے والی نہ ہو تو استغراق کے سوا کوئی معنی مراد لینا تو اعادة عروت و لغت میں جائز نہیں، اگرچہ فی نفسہ جنس ماہیت مراد ہونے کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، لیکن عروت و محاورات میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ عروت میں اعیان خارجیہ سے کلام ہوتا ہے، نہ کہ ماہیات ذہنیہ سے لہذا جنس کا احتمال سرے سے ساقط ہے؛ (رضی شرح کافیہ محققاً)

نتیجہ یہ ہے کہ الف لام تعریف خواہ مفرد پر داخل ہو یا جمع پر، اس میں صرف دو ہی احتمال ہوتے ہیں، استغراق یا عہد اور اسی بنا پر علامہ رضی اس کے بعد فرماتے ہیں:-

”پس جب کہ بعضیت کلام میں بوجہ دلیل (یعنی تنوین) نہ ہونے کی ثابت نہ ہو سکے تو واجب ہو کہ کل افراد پر حمل کیا جائے اور اسی پر محمول ہو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہ پانی طاہر ہے یعنی سب افراد پانی کے (اصل سے) طاہر ہیں اور نیند بے وضو ہونا ہے، یعنی ہر فرد نیند و سروا کا اور چونکہ الف لام داخل ہونے کے بعد مفرد بھی بہت افراد پر دلالت کرتا ہے، اسی لئے مفرد کی صفت میں جمع بھی لائی جاتی ہے، اگرچہ ایسا محاورات میں کم ہے، جیسا کہ حفش نے روایت کیا ہے، الدرہم البیض اور الدرہم الصفر، درہم موصوف مفرد ہے اور بیض صفت جمع ہے، و علیٰ ہذا؛

فَاِذَا الْم تَكُنَّ لِلْبَعْضِيَّةِ لِعَدَمِ  
دَلِيلِهَا وَهُوَ الشُّنُونُ وَجَبَّ  
كَوْنُهُ لِكُلِّ فَعَلَىٰ هَذَا قَوْلُهُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَاءُ طَاهِرٌ أَيْ  
كُلُّ الْمَاءِ وَالنَّوْمُ حَدَثٌ أَيْ  
كُلُّ النَّوْمِ اذُنَيْتٌ فِي الْكَلَامِ  
فِي بَيِّنَةِ بَعْضِيَّةٍ لَا مُطْلَقَةً وَ  
لَا مُعَيَّنَةً فَلِهَذَا اجَازَ دَانَ  
كَانَ قَلِيلاً وَصَفُ الْمُسْرِدِ  
بِالْجَمْعِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ اَهْلَكَ  
النَّاسَ الَّذِي تَارَ الصَّفْرُ  
الَّذِي رَهْمَ الْبَيْضُ عَلَىٰ مَا حَكَى  
الْأَخْفَشُ -

(رضی، صفحہ ۱۰۳، ج ۲)

یہاں تک تو مفرد اور جمع کے احکام مساوی ہیں، البتہ رضی نے اس کے بعد مفسر اور جمع میں یہ فرق کیا ہے کہ جب مفرد پر الف لام داخل ہوتا ہے تو کلمہ ہر مفرد کو شامل ہوتا ہے اور جب ثنیہ پر داخل ہوتا ہے، تو ہر فرد ثنیہ کو بخلاف جمع کے، کیونکہ ہر فرد مفرد اور ہر فرد ثنیہ اور اسی طرح ہر فرد جمع سب کو محیط ہوتی ہے

چنانچہ علامہ رضی فرماتے ہیں:-

لَا تَلَّ الْجَنَّةَ الْمُحَلِّي بِاللَّامِ فِي  
مِثْلِهِ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مُسْتَكْمِلٍ  
مُضَابٍ إِلَيْهِ كُلُّ مُفْرَدٍ وَغَيْرُهُ  
فَمَعْنَى لَقِيَتْ الْعُلَمَاءَ الْأَزِيدُ  
أَيُّ كُلِّ عَالِمٍ وَعَالِمِينَ كُلِّ عُلَمَاءٍ  
(رضی، ص ۱۰۳، ۱۰۶)

” اس لئے کہ جمع معترف باللّام کلام موجب  
میں ایک ایسے نحو کے حکم میں ہوتی ہو کہ  
جس کی طرف کل مفرد وغیرہ کی اضافت  
کی گئی ہو اور اسی لئے لقیّت العلماء  
الّا زیداً کے معنی یہ ہیں کہ میں ہر ایک عالم اور  
ہر دو عالم اور ہر جمع علماء سے سوائے زید کے ملا؟

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمع کا استغراق زیادہ اٹھل و اٹھل ہوتا ہے۔  
اس تفصیل کے بعد ہم ناظرین کو کلام زیر بحث کی طرف توجہ دلا کر توقع رکھتے ہیں  
کہ وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ”خاتم النبیین“ میں الف لام کس معنی کے لئے ہو سکتا  
ہے، کیونکہ اب احتمال صرف دو ہیں، استغراق اور عقیدہ۔  
لیکن جس شخص کو عقل و فہم کا کچھ حصہ ملا ہے وہ ہرگز وہم بھی نہیں کر سکتا کہ اُس میں  
الف لام عہدِ خارجی یا ذہنی کے لئے ہے، کیونکہ اس پر نہ کوئی دلیل ہے نہ قرینہ جو ”نبیین“  
کو بعض نبیین کے لئے خاص کر دے، بلکہ اس کے خلاف پر قوی اور روشن دلائل  
موجود ہیں جن میں سے ایک بدیہی الثبوت یہ بات ہے کہ اگر ”نبیین“ کے الف لام  
کو عہدِ خارجی یا ذہنی کے لئے قرار دے کر کلام کی یہ مراد بنائی جائے کہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم بعض انبیاء علیہم السلام کے خاتم ہیں تو کلام بالکل مہمل اور بے معنی  
ہو جاتا ہے۔ اور خاتم النبیین کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت  
نہیں رہتی، جو آپ کے فضائل میں ذکر کی جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے علاوہ  
ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کا خاتم اور آخر ہے، اور سرنہی پر اس معنی میں خاتم النبیین  
مصدق ہے، اس لئے یہاں یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ خاتم النبیین ”میں الف لام  
عہدِ خارجی یا ذہنی کے لئے ہے تو اب خود بخود استغراق متعین ہو جاتا ہے، اور  
خاتم النبیین کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام افراد انبیاء  
کے خاتم اور آخر ہیں، یعنی جن حضرات کو اصطلاح شرع میں نبی کہا جاسکتا ہو خواہ  
صاحب شریعت جدیدہ ہوں یا نہ ہوں، آپ ان سب کے ختم کرنے والے اور سب کے آخر میں ہیں۔

تَشْبِيْهِہ - یہ بات بفضلہ تعالیٰ تفصیل سے ناظرین معلوم کر چکے ہیں کہ آیت میں الف لام سوکے استغراق کے اور کسی معنی کے لئے نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی تک یہ بات باقی ہے، کہ استغراق کی کونسی قسم مراد ہے، کیونکہ استغراق کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور عرفی، حقیقی وہ ہے کہ جس میں حقیقۃً تمام انسان مراد ہوں، جیسے عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ خداوند عالم جانتے والا ہے ہر غائب و حاضر کا، جس سے کوئی فرد خاص مراد نہیں۔ اور استغراق عرفی وہ ہے کہ جس میں تمام افراد حقیقۃً مراد نہ ہوں، بلکہ صرف وہ افراد مراد ہوں جو عرفاً سمجھے جاتے ہوں جیسے کہا جاتا ہے جَمَعَ الْأَمِيْرُ الصَّاعِقَةَ بادشاہ نے تمام سناروں کو جمع کیا ظاہر ہے کہ تمام دنیا کے تمام سناروں کا جمع کرنا مقصور نہیں، اس لئے یقیناً یہ مراد ہے کہ اپنے شہر یا زائد سے زائد اپنی سلطنت کے سناروں کو جمع کیا، ظاہر ہے کہ درحقیقت یہ استغراق افراد نہیں بلکہ مجازاً عرف میں اس کو بھی استغراق کہتے ہیں، لیکن اس تفصیل کے بعد اس کا فیصلہ بھی کچھ مشکل نہیں رہا کہ آیت مذکورہ میں استغراق عرفی ہے یا حقیقی۔

کیونکہ اول تو استغراق عرفی ایک مجازی معنی ہیں، جیسا کہ حواشی مغنی اللیب میں مصرح ہے، اور مسلم قاعدہ ہے کہ مجازی معنی اس وقت تک مراد نہیں ہو سکتے جب تک کہ حقیقی معنی بن سکیں، اور یہ ظاہر ہے کہ استغراق حقیقی آیت میں بلاخلف درست ہے، یعنی ختم کرنے والے انبیاء کے لہذا استغراق حقیقی عرفی مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں اور ثانیاً اگر استغراق عرفی مراد ہو تو جس طرح عہدِ خارجی یا ذہنی کی صورت میں کلام بے معنی رہ جاتا ہے، اور خاتم النبیین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص فضیلت نہیں رہتی اسی طرح استغراق عرفی میں بھی یہی اشکال درپیش ہے، کیونکہ اس صورت

لے اس کے علاوہ استغراق عرفی دہاں بنتا ہے جہاں عرفاً اس کے مخصوص افراد متعین ہوں، جیسا کہ مثال مذکور میں سناروں سے صرف اپنے شہر یا اپنی سلطنت کے سنار مراد ہوئے ہیں، اور عرفاً یہی معنی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ خاتم النبیین بالکل اس کے خلاف ہے عورت میں اس قسم کے کلمات انبیاء کے مخصوص افراد مراد ہوتے ہیں اور نہ اس کی کوئی وجہ بلکہ اگر اس کے نظائر پر سری نظر ڈالی جائے تو سب جگہ تمام انبیاء مراد ہیں، مثلاً حدیث میں آخر الانبیاء، آخر الامم، قائد المرسلین وغیرہ الفاظ اس کے نظائر ہیں اور باتفاق یہاں استغراق حقیقی ہے

میں بھی آیت کے معنی یہی ہوں گے کہ آپ بعض انبیاء مخصوص کے خاتم اور آخر میں اور یہ معنی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے سب انبیاء پر صادق ہیں، ادھر صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے :-

”مجھے چھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر نفیلت دی ہے اور ان چھ میں اپنا خاتم النبیین ہونا بھی ذکر فرمایا ہے“ (رواہ مسلم فی الفضائل)

نتیجہ یہ نکلا کہ خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ نے استغراقِ حقیقی کے اور کسی معنی کے لئے نہیں بن سکتا، اور اس لفظ سے تمام افراد انبیاء کا اختتام مراد ہے، اور یہی پہلا دعویٰ ہے، ولہذا الحمد۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ آیت مقصود بالذکر وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے مفردات اور جُزْأً جُزْأً کلمات کے متعلق تھا، اس کے بعد پورے جملہ اور تمام آیت کی تفسیر لغت اور محاورات عرب کے اعتبار سے معلوم کرنا بھی کچھ دشوار نہ رہا، اور آیت کا مطلب صاف یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے فردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام افراد انبیاء کے آخر میں آنے والے یا ختم کرنے والے ہیں، اس میں نہ کسی قسم کی تخصیص ہے اور نہ کسی فرد کا استثناء اور نہ کسی تاویل کی گنجائش، نہ تشریحی اور غیر تشریحی کی کوئی قید۔ اتنی تصریح کے بعد بھی اگر کوئی شخص جیلے بہانے ڈھونڈھے، اور آیت کی تاویل بلکہ تحریف کے درپے ہو تو وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے، اور روزِ قیامت کے لئے کوئی جواب سوچ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا الشُّرُوفِيُّ إِلَّا مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

آیت مذکورہ کی تفسیر | فسران مجید کی حقانیت کے روشن دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے خود فسران مجید سے کہ اس کا بعض اپنے بعض کی تفسیر کرتا ہے، اس لئے آئیے ہم آپ کو یہ دکھلائیں کہ خود کتاب میں اس آیت کی کیا تفسیر کرتی ہے۔

ختم نبوت کا مسئلہ جیسا کہ اہم تھا قرآن عزیز نے اس کی اہمیت کا لحاظ رکھتے ہوئے تفسیریتاً سوائے زائد آیات میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے جن کو انشاء اللہ تعالیٰ مستقلاً ہدیئے ناظرین کیا جائے گا۔

یہاں صرف چند آیتیں پیش کی جاتی ہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ آیت خاتم النبیین کی

تفسیر اور اس کے مطلب کی توضیح کے لئے کافی ہیں، جن میں پہلے اسی آیت کی ایک دوسری قرأت کو پیش کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے آیت کے معنی بالکل صاف حل ہو جاتے ہیں۔

عامہ مفسرین مثل ابن جریر طبری اور ابن کثیر و سیوطی وغیرہم نے اپنی اپنی تفسیروں میں اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت یہ نقل کی ہے :-  
 وَذَلِكَ لَنْ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ . | " لیکن آپ ایک ایسے نبی ہیں جس نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا "

اس قرأت نے ان تمام تحریفات کی جڑ کاٹ دی جو لفظ خاتم کے متعلق مرزا یوں کی جانب سے ابھی نقل کی جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت آیت کے معنی صاف یہ ہوئے کہ آپ ایسے نبی ہیں جس نے تمام انبیاء کو ختم کیا۔  
 اسی طرح آیت ذیل بھی اسی معنی کا اعلان کرتی ہے :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَذِيكُمُ الَّذِي  
 اتَّخَذْتُمْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ (مائدہ، پ) | " ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی "

اس آیت نے صاف یہ بتلا دیا کہ دین اسلام اور نعمت نبوت و وحی وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے، اس آیت کی تفسیر اور مفصل تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب عرض کی جاوے گی۔  
 نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد خداوندی ہے :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ  
 اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَنِيفًا لِّدِينِ اللَّهِ  
 مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . | " آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کا ملک ہے "

(اعراف، پ)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً  
 لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا . | " ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر "

(سبا، پ ۲۲)

ان دونوں آیتوں اور ان کی امثال اور چند آیتوں میں بھی صاف اعلان فرما دیا

گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان انسانوں سے صرف وہ انسان مراد ہیں جو آپ کے زمانہ مبارک میں تھے یا آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان میں شامل ہیں۔ پہلی صورت میں تو یہ لازم آتا ہے کہ صرف صحابہؓ ہی کے رسول ہیں، اور بس، اور آپ کی رسالت نبوت صرف صحابہ میں ختم ہو گئی، اور یہ ایک ایسا گستاخانہ کلمہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔

رہی دوسری صورت کہ تمام انسانوں سے حضرات صحابہؓ کے ساتھ بعد میں آنیوالی نسلیں بھی مراد ہیں، اولیٰ آیت بلفظ جَمِيعًا اور كَانَتْہ کے معنی ہیں کہ آپ تمام دنیا کے موجودہ انسانوں اور آئندہ پیدا ہونے والے سب انسانوں کے رسول ہیں (اور یہی معنی صحیح اور درست ہیں) تو اس میں صاف ہمارا مدعا ثابت ہوتا ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کی رسالت قیامت تک تمام انسانوں کے لئے عام اور شامل ہے تو پھر کیا معاذ اللہ آپ کی نبوت و رسالت میں کوئی نقصان تھا، کہ وہ ان کی ہدایت کے لئے کافی نہ ہوئی اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت پڑی، اس آیت کی بھی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آئے گی۔

نیز تشریح مجید ارشاد کرتا ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

”ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام عالم والوں کے لئے“

جس طرح کہ باتفاق دنیا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں عالمین سے تمام عالم بلا کسی تخصیص کے مراد ہیں اسی طرح اس جگہ بھی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔

لہ اور دوسری آیات و احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ تمام جنات کے لئے بھی رسول ہیں چونکہ اس وقت گفتگو انسانوں کے معاملہ میں ہے اس لئے صرف انہی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ۱۳ منہ  
 لہ حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہُوَ اَنَا رَسُوْلٌ مِّنْ اَدْنٰكَ حَتّٰى تَدْرُوْنَ مَوْلٰىكَ بَعْدِي ۝ یعنی میں تمام لوگوں کا بھی رسول ہوں جو اب زندہ ہیں اور ان کا بھی جو میرے بعد پیدا ہوگا۔  
 و سیاتی الحدیث فی بابہ انشاء اللہ تعالیٰ ۱۴ منہ

پس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم والوں کے لئے رحمت ہیں، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی نبوت و رسالت عام ہو، اور آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہو ورنہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو تو اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان لانے والا اور آپ کے احکام و سنن کا پورا اتباع کرنے والا اس پر ایمان نہ لایا تو اس کی ساری کوششیں کارت اور سارے اعمال حبط ہوں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ اللعالمین ہونے کے منافی ہے، بلکہ اس صورت میں آپ کی ذات مبارک اور آپ کا اتباع صرف انہی لوگوں کے لئے رحمت ہو گا جو دوسرے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام عالم کے لئے رحمت ہونا ثابت نہ ہو گا۔

ان کے علاوہ اور بھی تشریح کی بہت سی تصریحات و اشارات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے جس کو انشاء اللہ تعالیٰ مستقل طور سے بدیہ ناظرین کیا جائے گا۔ ان تمام آیات قرآن مجید سے ناظرین یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سب خاتم النبیین کے اسی معنی کی تائید کرتی ہیں جو اوپر عرض کئے گئے ہیں۔

اور اس کل گزارش سے یہ ثابت ہو گیا کہ آیت مذکورہ میں خاتم النبیین کی وہی تفسیر ہے جو اوپر لغت عرب سے نقل کی گئی ہے، اور خود قرآن مجید کی دوسری آیات اسی تفسیر کو بیان کرتی ہیں۔

چونکہ اس بحث کو عنقریب تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے اس لئے اس موقع پر صرف دو تین آیات پر اکتفا کیا، اور ان کے بیان میں بھی اختصار سے کام لیا گیا۔ آیت مذکورہ کی تفسیر

تفسیر قرآن مجید کی جو ترتیب ہم اوپر ذکر کر گئے ہیں، اس میں احادیث سے

دوسرا درجہ حدیث کا ہے۔ سو اس کے متعلق یہ گزارش ہو کہ آیت کی وہ تفسیر جو ہم اوپر لغت عرب اور خود قرآن عزیز سے نقل کر چکے ہیں، احادیث میں بھی ایک بہت بڑا فرق اس تفسیر کا شاہد ہے، جس کے دیکھنے کے بعد ایک مسلمان کو کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا تفسیر کے علاوہ اور کوئی تفسیر آیت خاتم النبیین کی نہیں ہو سکتی۔

لیکن چونکہ ہمیں ان تمام احادیث کو ایک مستقل حصہ کی صورت میں مفصل

ہدیہ ناظرین کرنہے، اس لئے اس جگہ بعض تفسیر چند احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور ایک سلیم الطبع مسلمان کے لئے وہ بھی کفایت سے زائد نہیں۔ حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

قیامت اُس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک کہ بیت و جلال اور جھوٹے نہ اٹھائے جائیں جن میں سے ہر ایک یہ حکم ہو کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں تو خاتم النبیین ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے

لَا تَعُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُنْعَثَ  
وَجَاءَ لَوْنٌ كَذَّابُونَ كَلَّمَهُمْ  
يُرْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ  
النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي .  
(ابوداؤد، ترمذی)

اس حدیث میں خود اُس مقدس ذات نے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا جھگڑے کا قطعی فیصلہ کر دیا اور بتلادیا کہ مسلمانو! خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ نہ خاتم کے معنی اس جگہ مہر و انگشتری کے ہیں اور نہ النبیین میں کوئی تخصیص۔ کیونکہ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں لائی نفی جنس کے ذریعہ سے اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا گیا، جس کی تفصیل اپنی بحث میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ نیز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی الفاظ مرفوعاً روایت کئے گئے ہیں۔

”حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے“

وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي  
اخرم احمد والطبرانی

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :-

”کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا ہو اور اس کو آراستہ پر آراستہ کیا ہو مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو اور لوگ اس کے پاس چکر لگاتے اور خوش ہوتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی (کہ تعمیر مکمل ہو جاتی)

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَادِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوُونَ بِهَا وَيَعِجِبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَإِنَّا اللَّبْنَةُ

فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پس  
وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، اور میں ہی  
خاتم النبیین ہوں۔

وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ .  
(بخاری و مسلم وغیرہما)

اے مسلمان! کا دعویٰ کرنے والو! اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار  
کرنے والو! کیا اس جیسے کھلے کھلے بیانات کے بعد بھی تمہیں اس میں کوئی شک ہے  
کہ آیت میں خاتم النبیین کے معنی صرف وہی ہیں جو ہم نے عرض کئے، اور کیا آپ  
ان تمام نصوص و تصریحات میں کہیں غیر تشریحی یا ظلی اور بروزی نبی کا استثناء  
دیکھتے ہیں؟ خود وہ نبی مجتبیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس پر یہ کلام مقدس نازل ہوا (فذا  
رُوحی و ابی و اُمی) نہایت صاف صاف مثالیں دے کر بتلاتا ہے کہ خاتم النبیین  
کے معنی آخر النبیین ہیں یعنی تمام افراد انبیاء کے بعد میں مبعوث ہونے والا کہ  
جس کے بعد نبوت کا استحکام اور مزین محل بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اور کسی نبی کے مبعوث  
ہونے کی ضرورت اور گنجائش نہیں رہتی، اس تصریح نبوت کی تکمیل کے بعد نہ  
تشریحی نبوت کی اینٹ کی اس میں ضرورت و گنجائش ہے اور نہ غیر تشریحی یا ظلی بروزی  
کی، قَبَائِمِ حَدِيثِ بَعْدَ كَا يُؤْمِنُونَ ۞

نیز حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اپنے فرمایا،  
مجھے تمام انبیاء پر چھ وجہ سے فضیلت دی گئی،  
ایک یہ کہ مجھے کلمات جامعہ عطا فرمائے گئے  
دوسرے یہ کہ رب کے ذریعے میری مدد کی گئی،  
تیسرے میرے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا،  
چوتھے میرے لئے تمام زمین کو نماز پڑھنے  
کی جگہ اور نذرانہ تم پاک کرنے والی بنایا گیا،  
پانچویں مجھے تمام خلقت کی طرف سے محبوب کیا گیا،  
چھٹے میرے ساتھ تمام انبیاء کو ختم کیا گیا؛

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ  
أَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ نَصَرْتُ  
بِالرَّعْبِ وَ أَحَلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ  
وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا  
وَ طَهْرًا وَ أُرْسِلْتُ إِلَى  
الْخَلْقِ كَأَفْهَى وَ خْتِمًا لِي  
النَّبِيِّينَ .

(رواہ مسلم فی الفضائل)

اس حدیث میں اس تحریف کی بھی جرکات دی گئی، جو لفظ خاتم میں کی جاتی ہے،  
لفظ خاتم کے بجائے ختم بی النبیین رکھ دیا گیا اور کیا اس میں کہیں غیر تشریحی یا ظلی

بروزی نبی کا استثناء موجود ہے۔

اور حضرت ابو امامہ باہلیؓ ایک طویل حدیث کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

أَنَا خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ خَيْرُ الْأُمَّمِ، رِوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بَابُ قِتْنَةِ الرَّجَالِ، | "میں سب انبیاء میں سے آخری ہوں اور تم سب امتوں میں سے آخری ہو۔"

کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا گیا کہ خاتم النبیین کے وہی معنی اور صرف وہی معنی ہو سکتے ہیں اور میں جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، یعنی آپ سب انبیاء میں سے آخری اور سب کے ختم کرنے والے نبی ہیں، اور پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ تم آخری امت ہو، جس نے یہ بات صاف کر دی کہ آپ کے بعد کوئی شخص اس امت کے لئے نبی بنا کر نہ بھیجا جائے گا جس کے لئے ایک دوسری امت ہو۔

اے عقل کے معنی! اسلام کے دم بھرنے والو! تمہیں اب بھی یقین ہو کہ آیت میں خاتم النبیین کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں جو ہم نے اوپر عرض کئے، اس میں تشریح کی تخصیص بھی غیر تشریحی اور بروزی وظلی کی۔

نیز حضرت عرباض ابن ساریہؓ روایت فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّ أَدَمَ الْمُنْجَبِلُ فِي طَيْبَةِ . | "تحقیق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت میں لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی ہی میں تھے۔"

اور حضرت حابرؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :-

أَنَا قَائِمٌ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ . | "میں تمام رسولوں کا سر ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں تمام انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت ہوں اور کوئی فخر نہیں۔"

(مشکوٰۃ عن الدارمی)

وہ حضرات جو آیت خاتم النبیین میں تحریفیات کے جال پھیلاتے ہیں، اور النبیین کے الف لام میں جھگڑے ڈال کر یہ چاہتے ہیں کہ نبیین سے تمام انبیاء مراد نہ لئے جائیں، تاکہ قادیانی نبی کے آنے کی گنجائش نکل آئے، ذرا عنایت فرما کر یہ تو بتلا کر کہ قائد المرسلین میں الف لام استغراق حقیقی کا ہے یا نہیں اور کیا اس جگہ مرسلین سے تمام مرسلین بلا استثناء اور بلا تخصیص مراد ہیں یا نہیں؟

اگر نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ سب انبیاء کے سردار اور رہبر نہیں بلکہ صرف بعض کے ہیں، اور یہ بات جیسا کہ تمام نصوص شرعیہ آیات و سترائے تصریحات احادیث کے سراسر خلاف ہے، اسی طرح مرزائی جماعت کے مسلمات کے بھی خلاف ہے کیونکہ کم از کم زبانوں سے تو وہ بھی استرار کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور رہبر ہیں۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اس جگہ المرسلین میں الف لام استغراق حقیقی کے لئے ہے اور مرسلین سے تمام افراد مرسلین کے بلا کسی استثناء تخصیص کے مراد ہیں تو میرے عنایت فرماؤ مجھے یہ بتلا دو کہ پھر لفظ النبیین نے جو اس کے بعد ہی مذکور ہے ان کا کیا تصور کیا ہے کہ وہ اس میں طرح طرح کے چیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور اس میں تمام افراد انبیاء کو داخل نہیں ہونے دیتے۔

کیا اس جگہ قائد المرسلین اور خاتم النبیین میں اس کے سوا کوئی فرق ہو کہ قائد المرسلین اگر عام بھی رہ گیا اور تمام مرسلین کو شامل ہو گیا تو مرزا صاحب اور ان کے اذنان کے پٹے ہوئے خیالات میں کوئی شبہ نہیں لگتی، اور مرزا صاحب کی نبوت نہیں بگڑتی اور خاتم النبیین میں اس لئے چیلے بہانے کئے جاتے ہیں کہ اگر یہ عام رہا تو مرزا صاحب کی نبوت کا کہیں پتہ نہ چلے گا۔

نیز ابن ابی الدنیا اور ابوالیعلیٰ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کیا ہے کہ جب فرشتے (منکر و نکیر) قبر میں مردہ سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے تو وہ کہے گا:-

ربی اللہ والاسلام دینی	میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور اسلام
و محمدی نسبتی و خاتم النبیین	میرا دین ہے، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
النسبتین یقولون لہ	میرے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ شکر

صَدَّ قَتَّ - | سرفتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا؟

(تفسیر درختور، ص ۱۶۵)

منکر و تکبر بھی اس شخص کی تصدیق کرتے ہیں جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور تمام انبیاء کا ختم کرنے والا سمجھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں، مختلف مجموعوں میں، مختلف عنوانات اور بیانات سے اس آیت کی تفسیر احادیث میں فرمائی ہے، جن میں سے اس جگہ صرف چند حدیثیں بقدر ضرورت آیت مذکورہ کی تفسیر میں پیش کر دی گئیں جن کو پڑھ کر ایک خدا سے ڈرنے والا اور رسول پر ایمان لانے والا مسلمان اس پر یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آیت خاتم النبیین کے معنی اور اس کی تفسیر وہی ہے جو احقر نے الی لغت عرب سے اور پھر خود قرآن کریم سے نقل کی ہے، باقی احادیث کو انشا اللہ تعالیٰ مفصل حصہ دوم "ختم النبوة فی الحدیث" میں ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ آیت خاتم النبیین کے معنی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں بتلائے وہ یہی ہیں کہ آپ سب انبیاء میں آخری نبی اور تمام انبیاء کے ختم کرنیوالے ہیں، نہ اس میں کسی تشریحی نبی کی تخصیص ہے اور نہ غیر تشریحی ظلی بروزی وغیرہ کا استثناء مسلمانو! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اتباع کا دم مہینے والا! لغت عرب نے آپ کو ان معنوں کی طرف ہدایت کی، خود قرآن کریم نے پکار پکار کر ارشاد فرمایا کہ میری مراد یہ ہے، قرآن عزیز جس مقدس ذات پر نازل ہوا اس نے خود بار بار مختلف مجلسوں میں متعدد بیانات کے ساتھ اس کا اعلان کیا کہ آیت مذکورہ کے یہی معنی ہیں کہ آپ تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، اور حدیث کے عظیم الشان دفتر میں ایک جگہ بھی تشریحی غیر تشریحی کی تفصیل نہ فرمائی اور نہ بروزی یا ظلی کا استثناء کیا، پس کیا اس کے بعد بھی آپ کو کوئی شک باقی رہا، ذیاتی حدیث بعد اذین المؤمنین صحت و تالیف سے | آیت مذکورہ کی تفسیر کا تیسرا اور چوتھا درجہ صحابہ و تابعین کی تفسیریں اور ان کے اقوال و دہارہ تفسیر ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس کا استیعاب بھی کسی کی قدرت میں نہیں، اس لئے اقوال صحابہ

تابعین میں سے بھی بقدر ضرورت محدودے چند ہدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں جن سے ان کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اُمت کے ان اسلاف نے اس آیت کے کیا معنی سمجھے ہیں، جنہوں نے یہ سبق اس استاذ سے پڑھا ہے جس کا استاذ بلا واسطہ خدائے قدوس ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبریؒ اپنی عظیم الشان تفسیر میں حضرت قتادہؓ سے خاتم النبیین کی تفسیر میں روایت فرماتے ہیں :-

عَنْ قَتَادَةَ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
وَ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ أَمَىٰ أَخْرَجَهُمْ  
۱۲۲۳

• حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے  
آیت کی تفسیر میں فرمایا، اور لیکن آپ اللہ  
کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخر النبیین ہیں؟

حضرت قتادہؓ کا یہ قول شیخ حلال الدین سیوطیؒ نے تفسیر درمنثور میں عبد الرزاق اور عبد بن حمید اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم سے بھی نقل کیا ہے (درمنثور ص ۲۰۵ ج ۵) اس قول نے بھی صاف وہی بتلا دیا کہ جو ہم اور لغت اور قرآن عزیز اور احادیث سے نقل کر چکے ہیں، کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں، کیا اس میں کہیں تشریحی غیر تشریحی اور روزی و ظلی وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے؟

نیز حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے تو آپ معلوم کر چکے ہیں ان کی قرارت ہی آیت مذکورہ میں وَ لَكِنَّ نَبِيًّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ ہے، جو خود اسی معنی کی طرف ہدایت کرتی ہے جو بیان کئے گئے۔

اور سیوطیؒ نے درمنثور میں بحوالہ عبد بن حمید حضرت حسنؓ سے نقل کیا ہے :-

عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ وَ خَاتِمَ  
النَّبِيِّينَ قَالَ خَتَمَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ  
بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَ كَانَ آخِرَ مَنْ يُعْتَقَدُ .  
(درمنثور ص ۲۰۵ ج ۵)

• حضرت حسنؓ سے آیت خاتم النبیین  
کے بارہ میں یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ اللہ  
تعالیٰ نے تمام انبیاء کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
پر ختم کر دیا اور آپ ان رسولوں میں سے  
جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے  
آخری ٹھہرے؟

کیا اس جیسی صراحتوں کے بعد بھی کسی شک یا تاویل کی گنجائش ہے؟ اور روزی یا ظلی کی تاویل چل سکتی ہے؟ اور درمنثور میں سیوطیؒ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے

حضرت عائشہ صدیقہ کا قول یہ نقل کیا ہے۔  
 قَوْلُوا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا  
 لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (درمنثور ص ۲۰۳)  
 آپ کو خاتم النبیین تو کہہ سکتے ہیں یہ نہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے والا نہیں ہے۔  
 حضرت صدیقہ کا یہی ارشاد ابن قتیبہ نے تادل الاحادیث میں بھی روایت کیا ہے۔

نیز درمنثور میں بحوالہ معنف ابن ابی شیبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بھی اس قسم کا قول نقل فرمایا ہے، دیکھو ہذا۔

حضرت شعبی جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے یہ کہا کہ درود صحیح اللہ تعالیٰ جناب محمد پر جو کہ خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت مغیرہ نے فرمایا جب تم کہو تو تمہارے لئے خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں تو وہ آپ سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی ہوں گے۔

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَسْبُكَ إِذَا أَتَيْتَ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّكَ لَتَأْخُذُ بِحَدِيثِ مَنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجٌ فَإِنَّهُ خَارِجٌ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ دَبْعَدَهُ .

(درمنثور ص ۲۰۳/۵۵)

دونوں کا مطلب صاف اور ظاہر ہے کہ کلمہ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ سے چونکہ بظاہر یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نیا یا پرانا نہیں آسکتا، جس سے اسلام کے اجماعی عقیدہ اور صحابہ کے متفقہ اعتقاد، نزول عیسیٰ علیہ السلام پر عامیانہ نظروں میں صدہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

اس لئے حضرت صدیقہ اور مغیرہ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے لفظ بھی اختیار نہ کرو کہ جن سے اجماعی عقیدہ کے خلاف کا گمان یا دوہم ہو سکے، بلکہ جس مقصد سے ختم نبوت کو تم بیان کرنا چاہتے ہو وہ تو صرف لفظ خاتم النبیین سے

پورے طور پر واضح ہو سکتا ہے، اور اتنا ہی کافی ہے، اگلا فقرہ یعنی لَا نَبِيَّ بَعْدِي ؕ بھی اگرچہ فی نفسہ اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے، لیکن تاہم چونکہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کا ایہام ہوتا ہے، اس لئے صرف خاتم النبیین پر محالکتاً کرنا مقصود کے ادا کرنے کے لئے کافی اور ایہام خلافت سے بچنے کے لئے اولیٰ اور تہریر کیونکہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں، اور یہ معنی نزول مسیح کے کسی طرح مخالف نہیں سمجھے جاسکتے، اس لئے کہ اس کے معنی اس کے سوا نہیں کہ عالم دنیا میں آپ کے ساتھ عہدہ نبوت سب انبیاء کے بعد میں متعلق ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمان سے آخر زمانہ میں نازل ہوئے تو عہدہ نبوت اُن کو اُس وقت نہیں دیا جائے گا بلکہ اُن کا وصف نبوت جس وقت سے کہ خداوند عالم نے اُن کو عطا فرمایا تھا اسی وقت سے ہمیشہ اسی طرح باقی رہا اور رہے گا۔

اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول لفظ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے کسی طرح خلاف نہیں، کلام کے یہ معنی ہماری ایجاد نہیں بلکہ خود مرفوع حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔

دیکھو تفسیر ابن کثیر صفحہ ۴۸ جلد ۸ تخریج ابن ابی حاتم حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں:-

• میں پیدائش میں تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے تھا اور بعثت میں سب سے

آخر میں ؟

أَنَا أَوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ  
وَأَخِيرُهُمْ فِي الْبَعْثِ -  
(ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان)

۱۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ حدیث "لابی بعدی" کے تحت حصہ دوم میں آئے گی ۱۲ منہ  
۲۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ عالم ارجح میں سب سے پہلے منصب نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو جس کے لحاظ سے آپ جس طرح خاتم النبیین ہیں اسی طرح اول النبیین بھی ہیں، مگر اس جگہ کلام اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہوا اس کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے آخر میں منصب نبوت پر فائز ہوئے ہیں ۱۲ منہ

جس نے صاف بتلا دیا کہ خاتم النبیین اور آخر التبیین کے معنی یہی ہیں کہ آپ کا وصف نبوت باعتبار جنت کے سب انبیاء علیہم السلام کے بعد میں ہے، اور اس بنا پر کسی پہلے نبی کا آپ کے بعد باقی رہنا یا اس دنیا میں آنا آیت کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا۔

اسی مضمون کو تفسیر روح المعانی صفحہ ۶۰ ج ۷، اور کشاف صفحہ ۲۱۵ ج ۲ میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اِنْ شِئْتَ فَاَرْجِعْ اِلَيْهِ، اس کے علاوہ اگر لغت عرب اور محاورات پر نظر ڈالی جائے تو تھوڑے سے غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ آخر التبیین اور اول التبیین اور آخر العلماء اور آخر الطلاب اور آخر القامین، آخر المؤمنین، آخر الشاہدین، آخر القادین، آخر الاولاد وغیرہ محاورات میں صرف اسی معنی کے لئے آتے ہیں کہ اولیت اور آخریت باعتبار وصف مضاف الیہ کے لی جاتی ہے، جب تک کہ کوئی قید اس سے پھیرنے کے لئے نہ لگائی جائے جیسے اول المؤمنین ہجرۃً مثلاً یعنی اول باعتبار ہجرت کے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عربیت علامہ زمخشری نے خاتم النبیین کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ لَا يُنْبَأُ أَحَدًا اَبَعَدَ تَعْلِيفِ كِتَابِ صَفْحَةِ ۲۱۵ ج ۲) یعنی آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنایا جائے گا۔

خاتم النبیین کے معنی محاورات عرب اور احادیث مرفوعہ اور تفسیر محققین پر نظر ڈالتے ہوئے کسی تھوڑی سی عقل رکھنے والے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں شک و شبہ پیدا نہیں کر سکتے، البتہ لابی بعدی کے ظاہری لفظ سے ایک سطحی نظر والے عامی آدمی کو اس میں کچھ دہم پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ کچھ غور کرنے سے بعد وہ بھی بلا کھٹ زائل ہو سکتا ہے، جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے محل میں عرض کیا جائے گا۔

اسی ظاہری اور سطحی دہم کو دفع کرنے کے لئے حضرت صدیقہ اور حضرت مغیرہؓ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے الفاظ امت اختیار کر دو کہ جن سے عوام کو سطحی نظر میں کوئی شبہ پیدا ہو سکے۔ باقی رہا یہ شبہ لابی بعدی احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً آیا کیا گیا ہے پھر اس لفظ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، سو ظاہر ہے کہ حضرت صدیقہ اور مغیرہؓ کی غرض اس کلام سے یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ الفاظ غلط ہیں یا ان کا بیان کرنا ناجائز ہے؛ بلکہ ان کی غرض محض عقیدہ عوام کی اصلاح اور غیر مقصود کے ایہام سے بچانا ہے،

اور یہ ایک ایسی غرض ہے کہ اس کے لئے بہت سی احادیث مرفوعہ کو عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی اولیٰ سمجھا جاتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں اس پر مستقل باب منعقد کیا ہے۔  
 بَابٌ مِّنْ تَرَكٍ بَعْضَ الْاِخْتِيَارِ مَخَافَةَ اَنْ يَقْصُرَ فَهَمُّ بَعْضِ  
 النَّاسِ عَنْهُ فَيَقْعُوْا فِيْ اَشَدِّ مِثْلِهٖ

” یعنی امر مختار کے اظہار میں اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کم فہم لوگ ایسی خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے جو امر مختار کے ترک سے زیادہ مضر ہے، تو علماء کو چاہئے کہ اس مختار کو ترک نہ فرمادیں، اور غیر مختار کو قائم رکھیں۔“

پھر اس ترجمہ کے ذیل میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔

” حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ! اگر تیری قوم نو مسلم قریب العہد بالکفر نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ کر اس کے دو دروازے کر دیتا، ایک دروازہ سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکلتے، (جیسا کہ اصل بنا، ابراہیمی میں تھا) چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی مرثد نے (اپنے زمانہ خلافت میں) ایسا ہی کیا، (رواہ البخاری فی کتاب العلم ۲/۲۴۰)“

مطلب یہ ہے کہ قریش چونکہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر کعبہ کو توڑا جائے گا تو وہ بدگمان ہو جائیں گے اور یہ نہ سمجھیں گے کہ اس کی غرض درحقیقت کعبہ کو اصل بنا، ابراہیمی پر قائم کرنا ہے۔

اس حدیث کو پڑھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کا برحق رسول بنا، کعبہ کی اصلاح کی تمنا اپنے دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح اس لئے نہیں کرتا کہ مبادا کم فہم لوگ اسی نہ سمجھ جائیں، اور سچاے نفع کے نقصان پہنچ جائے، پس اگر حضرت صدیقہؓ جو خود اس واقعہ کی راوی بھی ہیں، اس قسم کے امور کی زیادہ رعایت کریں، اور ایک کلمہ حق کے عام طور پر کہنے سے اس لئے منع فرمائیں کہ مبادا لوگ اس سے کسی غلط فہمی میں پڑ جائیں تو کیا بعید ہے۔

اسی طرح حضرت علیؓ نے فرمایا ہے۔

حَدَّثَنَا النَّاسُ بِمَا يَخْتَرُونَ | یعنی لوگوں سے وہ باتیں بیان کر دیں جو

أَلْتَجِدُونَ أَنَّ يَكْذِبَ اللَّهُ وَ  
رَسُولَهُ - (رواہ البخاری)

وہ سمجھیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ مخلوق  
عالم اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟

الغرض حضرت عائشہؓ اور حضرت مغیرہؓ کے اقوال میں لائمی بعدی کے لفظ سے  
مانعت مصلحت عوام اور ان کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے ہے، فی نفسہ ان الفاظ کی  
مخالفت نہیں، ورنہ عیاذ باللہ ان دونوں حضرات کے اقوال ایک متواتر حدیث  
نبوی کے مخالف اور معارض ہوں گے جس کو کوئی سمجھدار انسان گوارا نہیں کر سکتا،  
پھر اگر بالفرض ایسا ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت امت کے لئے راہ عمل اور  
قابل اعتماد وہی فرمان ہوگا جو خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت  
ہوئے کہ دو صحابی کے اقوال جن کی سند کا سبھی کچھ تہہ نہیں۔

ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا کہ آیت مذکورہ کی جو تفسیر عرض کی گئی اس کے شاہد  
حضرت قتادہ اور عبداللہ بن مسعود اور حضرت حسن اور صدیقہ عائشہ اور مغیرہ بن شعبہ  
جیسے حضرات ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت جابر اور حضرت ابوسعید خدری، حضرت  
ابوالطفیل اور حضرت ابوہریرہ اور حضرت انس اور حضرت عفان بن مسلم اور حضرت  
ابومعاویہ، حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، حضرت ابی بن  
کعب اور حضرت حذیفہ اور حضرت ثوبان، حضرت عبادہ بن الصامت، حضرت  
عبداللہ بن عباس، حضرت عطار بن یسار، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عباس  
بن ساریہ، حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابوموسیٰ اشعری، حضرت ام کرزہ، حضرت  
فاروق اعظم، حضرت ام امین، وغیرم، چونسٹھ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و  
عنہما جمعین سے بھی ختم نبوت کے وہی معنی بالفاظ مختلفہ منقول اور ثابت ہیں، جو کلمہ  
عرض کئے گئے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا  
کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔

اگر قلب میں کوئی احساس اور دماغ میں سمجھنے کا کچھ مادہ ہے، تو کوئی مسلمان  
بلکہ کوئی منصف مزاج کا فیر بھی ان چونسٹھ حضرات صحابہ کی شہادتوں کے بعد ہمارے

دعوے کے ثبوت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کر سکتا، ورنہ پھر ہدایت و ضلالت  
 کبھی بشر کے قبضہ میں نہیں، **بَلِ الْأَمْرِ بِيَدِ اللَّهِ يُصَيِّرُ كَيْفَ يَشَاءُ**۔  
 آیت مذکورہ کی تفسیر | خداوند علیم و خیر ہی کو معلوم ہے کہ کتنے متقدمین اور متاخرین  
 ائمہ تفسیر کے اقوال سے بڑے اور چھوٹے علماء و صلحاء نے اس وقت تک تفسیر میں  
 کتابیں لکھی ہیں اور کتنی موجود ہیں۔

لیکن اجمالاً یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اتنی کثیر ہیں کہ سب کا احاطہ کسی بشر سے  
 نہیں ہو سکتا، مجھے تو اپنے اس مفہوم میں سب کے استیعاب کی نہ ضرورت ہے، اور  
 نہ میری قدرت میں ہے، بلکہ صرف چند مشہور و معتبر تفاسیر کے حوالے اور مفسرین کے  
 اقوال ہدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں تاکہ ناظرین ان سے یہ اندازہ کر لیں کہ جن بزرگان دین  
 نے اپنی تمام عمر کو اسی میدان کی سیاحت میں ختم کر دیا ہے، انہوں نے اس آیت  
 کریمہ کی مراد کیا سمجھی ہے اور اس کی تفسیر کیا کی ہے۔

امام المفسرین حضرت ابو جعفر ابن جریر طبری اپنی عظیم الشان تفسیر میں نقل فرماتے ہیں:-

” لیکن آپ اللہ کے رسول میں اور خاتم  
 النبیین یعنی وہ شخص جس نے نبوت کو ختم کر لیا  
 اور اس پر مہر لگا دی پس وہ آپ کے بعد کسی  
 لئے نہ کھولی جائے گی قیامت کے قائم  
 ہونے تک اور ایسا ہی ائمہ تفسیر صحابہ و

وَلَكِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتِمُ  
 النَّبِيِّۦۙنَ الَّذِیْۤ اٰتَمَّ النَّبُوَّةَ  
 نَطَبَعَ عَلَیْهَا فَلَا تُفْتَحُ لِاَحَدٍۢۙۤ اٰتَمَّ  
 اِلٰی قِیَامِ السَّاعَةِ وَبِحَوْلِ الَّذِیْ  
 قُلْنَا قَالَ اَهْلُ السَّادِیْنِ -

تابعین نے سنرایا ہے :-

(ابن جریر، منہج، ۱۱، جلد ۲۲)

امام المفسرین ابن جریر کی اس عبارت کے بعد بھی کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ  
 خاتم النبیین سے صرف انبیاء و اصحاب شریعت کا اختتام ثابت ہوتا ہے، مطلقاً  
 ختم النبوت ثابت نہیں ہوتا جب کہ انہوں نے تاکید در تاکید کے ساتھ یہ بھی صاف  
 صاف فرمایا کہ لَا تُفْتَحُ لِاَحَدٍۢۙۤ اٰتَمَّ بَعْدَہُ یعنی منصب نبوت عطا کرنے کا دروازہ آپ  
 کے بعد کسی کے لئے مطلقاً قیامت تک نہ کھولا جائے گا۔

اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے اور اجتہاد ہے بلکہ جیسا کہ انکی عادت  
 ہے یہ بھی تصریح فرمادی کہ یہی تفسیر صحابہ و تابعین وغیر ہم سے مروی ہے، اور جس کو

اس کے بعد متعدد اسانید کے ساتھ متعدد حضرات کی روایت کیا ہے۔  
حضرت علی بن حسینؑ سے ابن جریر نقل فرماتے ہیں :-

بِكسِبِ الشَّاءِ مِنْ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ  
بِمَعْنَى أَنَّهُ خَتَمَ النَّبِيِّينَ  
رَالِقَوْلِهِ، وَقَرَأَ ذَلِكَ فِيمَا يَذْكُرُ  
الْحَسَنُ وَالْعَاصِمُ وَخَاتِمُ  
النَّبِيِّينَ بِمَعْنَى الشَّاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ  
أَخْرَجَ النَّبِيِّينَ (ابن جریر، ص ۱۱۱)

ع غاتم انبیین بجز التار، اس معنی میں  
آپ نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا اور جیسکہ  
نقل کیا جاتا ہے، قرار میں سے حسن اور  
عاصم نے اس لفظ کو غاتم انبیین بمعنی  
التار پڑھا ہے اس معنی میں کہ آپ آخر  
انبیین ہیں :-

حضرت حسینؑ نے یہ بھی فیصلہ فرمادیا کہ جمہور کی قرارت بجز التار کو اختیار  
کیا جائے، یا حسن اور عاصم کی قرارت بفتح التار کو، بہر حال ان کا حامل ایک ہی  
صرف ترجمہ لفظ اور تخریج صیغہ کا فرق ہوگا۔

رئیس المفسرین حافظا عماد الدین ابن کثیر اپنی مقبول و مستند تفسیر میں آیت مذکورہ  
کی تفسیر کرتے ہوئے ہمارے دعوے کو نہایت وزن دار الفاظ میں روشن فرماتے ہیں :-

فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ  
بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ  
فَلَا رَسُولَ بِالطَّبِيعِ الْأُولَى  
وَالْأُخْرَى لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ  
أَخْصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ  
كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَتَعَكَّسُ وَ  
بِذَلِكَ وَرَدَّتْ الْأَحَادِيثُ  
أَلَمْ تُؤَاتِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَلِيبٍ  
جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ (ابن کثیر، ص ۸۹، ۸۷)

”پس یہ آیت اس بات میں نص مرتب ہو  
کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور  
جب کوئی نبی نہ ہو تو رسول بدیع اولی نہ  
ہوگا کیونکہ مرتبہ رسالت کا نسبت مرتبہ  
نبوت کے خاص ہے، ہر رسول کا نبی ہونا  
ضروری ہے اور ہر نبی کا رسول ہونا ضروری  
نہیں (جیسا کہ ہم نے مقدمہ رسالہ میں مفصل  
عرض کیا ہے) اور اسی پر رسول اللہ صلی  
علیہ وسلم سے احادیث متواتر وارد ہوئی  
ہیں جس کو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت  
نے آپ سے نقل کیا ہے :-“

ابن کثیر بھی ساتویں صدی ہجری کے اُن علمائے اہل حق میں سے ہیں جن کو حجۃ الاسلام

کہا جاسکتا ہے، تفسیر میں ان کی اس کتاب کا مرتبہ سلفاً و خلفاً مسلم ہے۔  
 اس جلیل القدر مفسر کے الفاظ کو ملاحظہ فرمائیے اور اندازہ کر لیجئے کہ آیت مذکورہ  
 کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ کس طرح قرآن و حدیث اور آثار صحابہ اور اقوال  
 ائمہ کا ٹھیک اُردو ترجمہ ہے، اس میں درحقیقت ہمارا کوئی تصرف نہیں۔  
 ابن کثیر نے یہ بھی صاف کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت  
 و رسالت کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ رسول تو صاحب شریعت نبی کو کہا جاتا ہے اور  
 نبی عام ہے صاحب شریعت ہو یا غیر صاحب شریعت۔ چونکہ آیت میں بجائے  
 ختم المرسلین کے خاتم النبیین فرمایا ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی نبوت کا انتقام  
 بتلانا منظور ہے، تشریحی ہو یا بقول مرزا غیر تشریحی، یا بصورت ظلیت و بروزیت  
 یا اور کسی صورت سے۔

نیز اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں اور ان کی  
 روایت کرنے والی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے۔  
 اس کے بعد ابن کثیر نے بہت سی احادیث ختم نبوت پر پیش فرمائی ہیں، جن کو  
 انشاء اللہ تعالیٰ حصہ احادیث میں مستقل طور پر ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔  
 اخیر میں اس جلیل القدر مفسر نے نتیجہ کے طور پر عقیدہ ختم نبوت پر ایک مفصل اور مؤکد  
 تحریر فرمائی ہے جو خصوصیت کے ساتھ قابل ملاحظہ ہے، جس کو دیکھ کر یہ گمان ہونے  
 لگتا ہے کہ علامہ ابن کثیر اب سے سات سو برس پہلے شاید قادیانی مرزا کے حالات  
 سے بطریق کشف مطلع ہو کر ان کی تردید کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے عبارت ذیل :-

فَبَيْنَ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادِ  
 اِرْسَالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
 سَلَّمَ اِيْتِهِمْ ثُمَّ مِنْ تَشْرِيْفِهِ لَهُ خَتْمُ  
 الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ بِهٖ وَ  
 الْكَمَالِ الَّذِيْنَ الْخَنِيْفُ لَهُ وَ  
 اَخْبَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي  
 كِتَابِهٖ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”پس بندوں پر خدا کی رحمت ہی ہے،  
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف بھیجا،  
 پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں سے یہ بات  
 بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تمام انبیاء  
 اور رسل علیہم السلام کو ختم کیا اور دین  
 حنیف کو آپ کے لئے کامل کر دیا اور

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے اپنی احادیث متواترہ میں خبری ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں تاکہ امت جان لے کہ ہر وہ شخص جو آپ کے بعد اس مقام (نبوت) کا دعویٰ کرے وہ بڑا جھوٹا، افتراء پر باز، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، اگرچہ آگ بھڑکائے اور شیعہ بازی کرے اور قسم قسم کے جادو اور طلسم اور نیز بھیا دکھلائے، اس لئے کہ یہ سب کا سب عقلاء کے نزدیک باطل اور گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود ہنسی (مدعی نبوت) کے ہاتھ پرچین میں اور مسیلہ کذاب (مدعی نبوت) کے ہاتھ پر پیام میں احوالی فاسدہ اور اقوال بارہ ظاہر کئے جن کو دیکھ کر ہر عقل و فہم اور تیز دلائیہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں جھوٹے اور گمراہ کرنے والے ہیں، خداوندان پر لعنت کرے اور ایسے ہی قیامت تک ہر مدعی نبوت پر یہاں تک کہ وہ مسیح دجال پر ختم کر دیئے جائیں گے جس کا تہمتہ تعالیٰ ایسے امور پیدا فرماوے گا کہ علماء اور مسلمانان اس کے جھوٹے ہونے کی شہادت دیں گے؟

فِي الشَّئَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ أَنَّهُ  
لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ كُلَّ  
مَنْ ادَّعَىٰ هَذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ  
فَهُوَ كَذَّابٌ أَفَّاكَ دَجَالٌ  
مَّنَالٌ مُّغِيبٌ وَلَوْ تَحَوَّرَ وَ  
تَشَعَّبَ وَ أَلَىٰ بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ  
وَ الطَّلَاسِمِ وَ التَّعْيِينِ حَيَاتٍ  
تَكَلَّمَا مَخَالٍ وَ مَنَالٍ عِنْدَ  
أُولِي الْأَلْبَابِ كَمَا أَخْبَرَىٰ  
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ عَلَىٰ يَدِ الْأَنْبِيَاءِ  
لِعَيْسَىٰ بِالْيَمِينِ وَ مَسِيحَةَ الْكَلْبِ  
بِالْيَمَانَةِ مِنَ الْأَحْوَالِ الْفَاسِدَةِ  
وَ الْأَقْوَالِ الْبَارِدَةِ مَا عَلِمَ كُلُّ  
ذِي لُبٍّ وَ فَعْمٍ وَ حِجْبِي أَنَّهُمَا كَاذِبَانِ  
مَنَالَانِ لَعَنَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ  
كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ دَعَىٰ لِيْكَ إِلَىٰ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَخْتَمُوا بِالْمَسِيحِ  
الَّذِي جَالٍ يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَعَهُ  
مِنَ الْأُمُورِ مَا يَشْهَدُ الْعُلَمَاءُ وَ  
الْمُؤْمِنُونَ بِكَذِّبٍ مَنْ جَاءَ  
بِهَذَا (ابن کثیر ص ۹۱ ج ۸)

خط کشیدہ الفاظ کو غور سے پڑھئے، کیا ابن کثیر جیسے امام کی اس بلند اور پرچوش آواز نے بھی آپ کو بیدار نہیں کیا، کیا ایسے ایسے صاف بیانات کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی کسی قسم کا نبی پیدا ہو سکتا ہے؟

اور شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی مفصل تفسیر درمنثور، صفحہ ۲۰۴، جلد ۵ میں بھی صحابہ تابعین اور ائمہ مفسرین کے اقوال پر اعتماد کرتے ہوئے آیت مذکورہ کی تفسیر وہی قرار دی ہے جو مکرر عرض کی گئی۔

نیز اپنی مختصر تفسیر جلالین میں بھی اسی مضمون کو واضح بیان فرمایا ہے۔ اور علامہ زمخشری نے اپنی مشہور و مقبول تفسیر کشاف میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”خاتم بفتح التاء یعنی آئمہ مہر اور بکسر تاء  
بمعنی مہر کرنے والا یا ختم کرنے والا اور کسی  
معنی (یعنی ختم کرنے والا) کی تقویت کرتی ہے  
حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسرات  
وَلَكِنْ نَسِيًا نَحْمُ الْبَنِيَّيْنَ، پس اگر آپ سے  
کہیں کہ آپ آخر الانبیاء کس طرح ہو سکتے  
ہیں حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں  
آسمان سے اتریں گے، تو ہم کہیں گے کہ  
آپ کے آخر الانبیاء ہونے کے یہ معنی ہیں کہ  
آپ کے بعد کوئی شخص نبی بنایا جائے گا،  
تو اب نزول عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ اوتر

خَاتَمٌ يَفْتَحُ النَّارَ بِمَعْنَى الطَّائِبِ  
وَيَكْسِبُهَا بِمَعْنَى الطَّائِبِ وَفَاعِلُ  
النَّحْمِ وَتَقْوِيَةٌ تَعْرَافُ عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ مَسْعُودٍ وَوَلَكِنْ نَسِيًا نَحْمُ  
النَّبِيِّيْنَ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ كَانَ  
أَخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَعَيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
يَنْزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قُلْتَ  
مَعْنَى كَوْنِهِ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّهُ  
لَا نَسِيًا أَحَدٌ بَعْدَهُ وَعَيْسَى  
مِمَّنْ نُبِيٌّ قَبْلَهُ ۗ

(کشاف مصری، صفحہ ۲۱۵)

نہیں ہو سکتا کیونکہ عیسیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنا کر بھیجے گئے۔“

علامہ زمخشری جو علاوہ فنون تفسیر کے لغت عرب اور فنون عربیت کے بیکتا امام مسلم ہیں، انہوں نے خاتم النبیین کے معنی یہی سمجھے کہ کوئی کسی قسم کا نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا، اور اسی لئے ان کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جواب دینا پڑا کہ خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ ”آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا“، دلہذا نزول عیسیٰ علیہ السلام اس کے مخالف نہ ہوا، کیونکہ وہ اُس وقت نبی نہ بنیں گے بلکہ وہ اپنی پہلی نبوت پر بدستور باقی ہیں، جیسا کہ ہم اوپر کسی قدر تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں۔

نیز امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر، صفحہ ۶۱۷ جلد ۶ مطبوعہ مصر میں بھی اسی مضمون اور

تفسیر کی تائید فرمائی ہے۔

اور سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور دستاویز تفسیر روح المعانی میں آیت کو دو کی تفسیر نہایت شرح و بسط کے ساتھ لکھتے ہوئے فرمایا ہے :-

” اور نبی سے مراد وہ ہے جو رسول سے عام ہے پس آپ کے خاتم النبیین ہونے سے خاتم المرسلین ہونا بھی لازم ہوگا

وَالْمُرَادُ بِالنَّبِيِّ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ  
الرَّسُولِ فَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ  
مَعَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ  
كَوْنَهُ خَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ (ج ۷، ص ۶۰)

جیسا کہ اوپر ابن کثیر سے نقل کیا جا چکا ہے، شیخنا سید محمود آلوسی بھی وہی فرمایا ہے ہیں جس میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ خاتم النبیین سے مطلقاً انبیاء کا اختتام بتلانا منظور ہے، اس میں کسی قسم کی تخصیص یا استثناء نہیں ہے۔

مگر اس سے جو ایک سطحی اور سرسری نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا خلاف سمجھا جا سکتا تھا اس کے ازالہ کے لئے فرماتے ہیں :-

” اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اس عالم میں وصف نبوت کے ساتھ متصف ہونے کے بعد وصف نبوت پیدا ہونا بالکل منقطع ہو گیا جن دانس میں سے کسی میں اب یہ وصف پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ مسئلہ ختم نبوت اس عقیدے سے ہرگز معارض نہیں، جس پر امت نے اجماع کیا ہے، اور جس میں احادیث شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں اور شاید جو تو اتر مغربی کو پہنچ جائیں اور جس پر مسرآن نے تصریح کی اور جس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے منکر مشلاً فلاسفہ کو کافر سمجھا گیا ہے، یعنی نزول

وَالْمُرَادُ بِكُونِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ  
السَّلَامُ خَاتَمَهُمْ انْقِطَاعُ حُدُودِ  
وَصِفِ النَّبُوَّةِ فِي أَحَدٍ مِنَ  
التَّقْلِينَ بَعْدَ تَحْلِيَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ بِهَا فِي هَذِهِ النَّشْأَةِ  
وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ مَا أَجْمَعَتْ  
عَلَيْهِ الْأُمَّةُ وَاشْتَهَرَتْ فِيهِ  
الْأَخْبَارُ وَلَعَلَّهَا بَلَّغَتْ مَبْلَغَ  
النُّوَابِ الْمَعْنَوِيِّ وَتَعَلَّقَ بِهِ  
الْكِتَابُ عَلَى قَوْلٍ وَدَحَبَ الْأَسَانِيدُ  
بِهِ وَكَفَّرَ مُنْكَرُهُ كَالْفَلَا سِفَةِ  
مِنْ نَزُولِ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
أَخِرَ الزَّمَانِ لِإِنَّهُ كَانَ نَسِيًّا

قَبْلِ نَحْلِي نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بِالشُّبُوحِ فِي هَذِهِ الشَّأَةِ .  
(روح المعاني ص ۶۰ ج ۷)

یعنی علیہ السلام آخر زمانہ میں، کیونکہ وہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں  
نبوت طے سے پہلے وصف نبوت کے ساتھ  
متصف ہو چکے تھے ؟

عبارت مذکورہ الصدر میں جس صراحت و وضاحت کے ساتھ ختم نبوت اور  
اس کے صحیح مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں کسی مسلمان پر یہ گمان  
نہیں کر سکتا کہ اب بھی اس کو کوئی شک باقی ہے۔

نیز اسی آیت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ  
قابل ملاحظہ ہے :-

وَكُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَاتِمَ النَّبِيِّينَ مِمَّا نَطَقَ بِهِ  
الْكِتَابُ وَصَدَّ عَنْهُ بِه السَّنَةُ  
وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيَكْفُرُ  
مُدَّعِي خِلَافِهِ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصْرَ  
(روح المعاني ص ۶۵ ج ۷)

• اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر  
انبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر  
قرآن بول اٹھا اور جن پر احادیث نے صاف  
صاف تقریر کی اور جس پر امت نے اجماع کیا،  
اس لئے اس کے برخلاف کلام کوئی کرنے  
والے کو کافر سمجھا جائے گا، اور اگر توہینہ  
کمرے تو قتل کر دیا جائے ؟

اور تفسیر کی مشہور و مستند کتاب خازن میں ہے :-

خَاتِمَ النَّبِيِّينَ خَتَمَ اللَّهُ بِهِ  
الشُّبُوحَ فَلَا بُدَّ بَعْدَ كَأَمِي  
وَلَا مَعَهُ (خازن صفحہ ۳۶)

• خاتم النبیین یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ  
پر نبوت ختم کر دی، پس نہ آپ کے بعد کوئی  
نبوت ہو اور نہ آپ کے ساتھ ہے ؟

اور علامہ نسفی نے اپنی مستند و معتبر تفسیر مدارک التنزیل میں لکھا ہے :-

خَاتِمَ النَّبِيِّينَ بِعَنِّي التَّائِي عَامِمٌ  
بِعَنِّي الطَّابِعِ آمِي أَخْرَجَهُمُ بَعْنِي  
لَا يَنْبَأُ أَحَدٌ بَعْدَكَ وَعِيسِي  
عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّنْ نَبِيٌّ قَبْلَكَ وَعَلَيْهِ

• خاتم النبیین عامم کی قرأت میں بفتح  
التاء بمعنی مہر جس سے مراد آخر ہو، یعنی آپ  
کے بعد کوئی شخص نبی نہ بنا یا جائے گا اور  
علیہ آپ سے پہلے نبی بناے گئے تھے

بِكْسِرِ الشَّاءِ بِمَعْنَى الطَّايِبِ وَ  
فَاعِلٌ لِحُكْمِهِ وَتَقْوِيهِ قِرَاءَةٌ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .

(مدارک بر معاشیہ خازن، ص ۳۷۰ ج ۳)

اس لئے اُن کے نزول سے کوئی اعتراض  
نہیں ہو سکتا اور علاوہ عامم کے سب  
قرآن کے نزدیک بحسب التاب یعنی مہر کر نیوالا  
اور ختم کر نیوالا اور اسی معنی کی تائید کرتی ہے  
عبداللہ بن مسعود کی قرأت ہے :

اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں ۲۶ ج ۵ میں آیت مذکورہ کی

توضیح کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

وَمِنْهَا (بِعْنِي مِنْ خَصَائِصِهِ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ خَاتِمُ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ كَمَا  
قَالَ تَعَالَى وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ  
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ أَمْيَ أَخْرَجَهُمُ  
الَّذِي حَمَلَهُمْ أَوْ خَتَمَ بِهِ  
عَلَى قِرَاءَةِ عَاصِمٍ بِالْفَتْحِ وَرَوَى  
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ  
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعًا  
أَنَّ الرِّسَالَةَ وَالسُّبُوتَ قَدْ  
انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي  
وَلَا نَبِيٍّ قَبِيلَ مَنْ لَأَنْبِيَّ بَعْدَهُ  
يَكُونُ أَشْفَقَ عَلَى أُمَّتِهِ وَهُوَ  
كَوَالِدٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَفْتَدِي  
نَزُولَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَهُ  
لِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى دِينِهِ مَعَ أَنَّ  
الْمُرَادَ أَنَّهُ أَخْرَجَ مَنْ كَتَبَ .

(زرقانی شرح مواہب ۳۷۵ ج ۵)

” اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات  
میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سب انبیاء اور  
رسل کے ختم کر نوالے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ  
نے فرمایا ہے ” وَ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ ” یعنی آخر النبیین جن نے انبیاء  
کو ختم کیا یا وہ جس پر انبیاء ختم کئے گئے،  
اور یہ یعنی عامم کی قرأت یعنی بالفتح پڑھنے  
کے وقت میں اور امام احمد اور ترمذی اور  
حاکم نے باسناد صحیح حضرت انس سے  
روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا ہے کہ رسالت و نبوت منقطع ہو چکی  
نہ میرے بعد کوئی رسول ہو اور نہ نبی، کہا  
جاتا ہے کہ جس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو وہ  
اپنی امت کے لئے زیادہ شفیق ہوگا اور  
مثل اس باپ کے ہے کہ جس کی اولاد  
کے لئے اس کے بعد تربیت اور نگرانی  
کرنے والا نہ ہو، اور نزول عیسیٰ علیہ  
السلام سے ختم نبوت پر کوئی اعتراض

نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے، علاوہ بریں ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ آپ سب کے آخر میں نبی بنائے گئے اور ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بن چکے ہیں :-

اور ابو حیان اپنی عظیم الشان تفسیر بحر محیط ص ۲۳۶ ج ۷ میں اسی مضمون کی حرف بھرت تائید فرماتے ہیں۔

اسی طرح علامہ ابوالسعود اپنی تفسیر میں یعنی یہی مضمون بیان فرماتے ہیں، دیکھو تفسیر ابوالسعود بر حاشیہ تفسیر کبیر، ص ۷۸۸، ج ۶۔

اور علامہ احمد صاحب معروف بملاً جیون دہلوی، استاذ عالمگیری تفسیر احمدی میں بھی یہی فرماتے ہیں۔

اور قاضی عیاض نے شفا میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس قدر وضاحت اور صفائی کے ساتھ ہمارے دعوے کو ثابت فرمایا ہے وہ بھی خصوصیت کے ساتھ

قابل ملاحظہ ہے، وہ یوں ہے :-

وَمَنْ ادَّعى السَّبُوَةَ لِنَفْسِهِ اَوْ  
جَوْرًا اَلتَّسَابُهًا وَ اَلْبُلُوغَ اَصْفَاءِ  
اَلْقَلْبِ اِلَى مَرْتَبَتِهَا كَاَلْفَلَا سَفَةِ  
وَ اَلْعَلَاةِ اَلْمَتَّصِفَةِ وَ كَذَلِكَ  
مَنْ ادَّعى مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يُوْحَى  
اِلَيْهِ وَ اِنْ كُنَّ يَدْعُ السَّبُوَةَ  
اَوْ اَنَّهُ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَ  
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ يَأْكُلُ مِنْ اَشْجَاهِهَا  
وَ يُعَانِقُ اَلْحُوْرَ الْعِيْنَ فَهُوَ اِدَّعى  
كُلِّهِمْ كُفْرًا وَ مُكذَّبُوْنَ لِلنَّبِيِّ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِاَنَّهُ  
اَخْبَرَانَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ  
خَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ

اور جو شخص اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرے  
یا صفائی قلب کے ذریعے نبوت کے مرتبہ  
تک پہنچنے اور اس کے حاصل کرنے کو جائز  
سمجھے مثل فلاسفا اور حدود شریعت سے  
تجاوز کرنے والے مدعیین تصوف کے،  
اور ایسے ہی وہ شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ  
اس پر وحی آئی ہے اگرچہ نبوت کا دعویٰ  
نہ کرے یا جو یہ کہے کہ وہ آسمان پر چڑھتا  
اور جنت میں داخل ہوتا ہے اور  
وہاں کے میوے کھاتا ہے اور جہنوں سے  
معاذت کرتا ہے پس یہ سب کے سب  
کفار ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کی تکذیب کرنوالے ہیں اس لئے کہ آپ

وَأَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ  
خَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ أُرْسِلَ  
إِلَى كَانَةِ النَّاسِ وَأَجْمَعَتْ  
الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ  
عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ مَقْهُومَهُ  
الْمُرَادِيهِ دُونَ تَادِيلِ وَ  
لَا تَخْصِيصِ فَلَا شَكَّ فِي كُفْيِ  
هَذَا لِإِطْوَالِ الْكَلِمَاتِ مُكَلِّهَا قَطْعًا  
اجْتِمَاعًا وَرَسْمًا.

(شفا، مطبوعہ بریل، ص ۱۳۶۲)

خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور  
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور خدا کی طرف  
سے قرآن میں یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین  
ہیں اور یہ کہ آپ تمام عالم کے انسانوں کی  
طرف رسول ہیں، اور امت نے اجماع  
کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر عمل کیا  
جائے، اور اس پر کہ اس آیت کا نفس  
مفہوم ہی مراد ہے بغیر کسی تادیل و تخصیص  
کے، پس ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی  
شک نہیں، بلکہ قطعی طور سے اجماعاً  
اور نفیاً ثابت ہے ۵

اس ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ پر سکر غور کیجئے کہ قادیانی و جبل و فریب کو کس طرح  
مٹا یا گیا ہے، کہ لفظوں سے جو معنی ظاہر ہیں یعنی تمام انبیاء کے ختم کرنے والے اور  
آخر میں معنی مراد ہیں، اور ان میں نہ ظلی اور بروزمی مستثنیٰ ہیں اور نہ کوئی غیر شرعی۔  
اور تفسیر مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید، جلد دوم میں بھی آیت مذکورہ کی  
تفسیر کرتے ہوئے فرمایا:-

وَلْتَمَيِّمَةٌ نَبِيِّنَا خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ  
لِأَنَّ الْخَاتِمَ آخِرُ الْقَوْمِ قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ  
وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ قَالَ وَ  
نَفِي الْأَعْمِ يَسْتَلْزِمُ نَفِي الْأَخِي  
(کلمات الباقی، ص ۳۱۹)

” اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو  
خاتم النبیین کہنا اس لئے ہے کہ خاتم کے معنی  
آخر القوم کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا  
ہو وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ اور  
نفی عام کی مستلزم ہو نفی خاص کے لئے  
یعنی آپ کے بعد نبوت کی نفی رستا کی نفی کو  
مستلزم ہے ۵

اور شرح تعرف میں ابوالبرہیم بخاری نے بھی آیت مذکورہ کی یہی تفسیر کر کے تصریح فرمایا  
ہے کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا (دیکھو شرح تعرف ص ۱۵۱۳ ج ۱)

اور حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ جو علوم ظاہرہ و باطنہ کے مسلم امام ہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک ایسا مضمون تحریر فرماتے ہیں کہ گویا قادیانی فتنہ ان پر منکشف ہو گیا تھا، اسی کے رد کے لئے یہ الفاظ لکھے ہیں۔

اِنَّ الْاُمَّةَ قَدْ فِيعَتْ مِنْ  
هَذَا الْكَلْفِ اِنَّهٗ اَنْفَعَمَ عَدَمَ  
نَبِيٍّ بَعْدًا اَبَدًا وَّعَدَمَ رَسُوْلٍ  
بَعْدُوْهُ اَبَدًا وَّ اِنَّهٗ لَيْسَ فِيْهِ  
تَاْوِيْلٌ وَّلَا تَحْصِيْشٌ فَاَكْلَامُهٗ  
مِنْ اَلْوَاغِ الْهٰذِيَا نِ لَا يَمْنَعُ  
الْحُكْمَ بِتَفْكِيرٍ اِلَّا مَنَءُ  
مُكْتَوَّبٌ لِيَهْدِيَ النَّفْسَ الَّذِيْ  
اَجْمَعَتْ الْاُمَّةَ عَلٰى اِنَّهٗ غَيْرُ  
مُاَدَّلٍ وَّلَا مَخْصُوْصٍ .

کتاب الاقتصاد للامام الغزالی

• خوب سمجھ لو کہ تمام امت نے خاتم النبیین کے الفاظ سے ہی سمجھا ہے کہ یہ آیت یہ لایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول، اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے کہ نہ اس آیت میں کوئی تاویل ہو اور نہ تخصیص اور میں نہیں نے اس آیت میں کسی قسم کی تخصیص کے ساتھ کوئی تاویل کی اس کا کلام ایک بھاس و ہڈیان ہو، اور یہ تاویل اس کے اوپر کفر کا حکم کرنے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس نص صریح کی تکذیب

کرتا ہے جس کے متعلق آیت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی تاویل و تخصیص نہیں ہے۔

آیت خاتم النبیین میں | امام حدیث علامہ شاطبی جو آٹھویں صدی ہجری کے مشہور تاویل کرنیوالا قتل کیا گیا | و معروف امام ہیں اپنی کتاب اعتصام میں ان کو گونگی ایک مختصر فہرست شمار کرتے ہیں، جنہوں نے نبوت یا وحی یا عصمت کا دعویٰ کیا اور با اتفاق و باجماع امت ان کو کافر و مرتد واجب القتل سمجھا گیا (دیکھو اعتصام، ص ۲۶۳ ج ۲)۔

اسی سلسلہ میں امام موصوف نے قازازی نام کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور بہت سے ایسے امور دکھلائے جو کرامت و خارق عادت سمجھے جاتے ہیں، عوام ہرزمانہ میں عجائب پرست ہوتے رہے ہیں، اُس وقت بھی ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گئی، یہ بھی مرزائی قادیانی کی طرح اتباع و ترآن کا مدعی تھا، اس لئے اس نے آیت خاتم النبیین میں ایسی تاویلات شرح کیں جن کے ذریعہ کسی نبی کی گنجائش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکل آئے، مگر با اتفاق

علماء وقت اس کا دعویٰ اور تاویلات سب کفر و الحاد قرار دی گئی، اور اُس زمانہ کے امام مقتدر شیخ المشائخ ابو جعفر ابن زبیر رحمہ اللہ کے فتویٰ پر اس کو قتل کر دیا گیا۔

(کتاب الاعتصام للشاطبی ص ۳۶۳)

اس واقعہ نے بھی اس پر مہر کر دی کہ علماء امت آیت مذکور میں کسی قسم کی تادیل و تخصیص کرنے کو بھی کفر و الحاد قرار دیتے ہیں۔

چند اہام اور ان کا انا لہ | آیت خاتم النبیین کی مذکورہ بالا مفصل و مبرہن تفسیر کے بعد اگر یہ کسی مسلمان بلکہ کسی سلیم الطبع منصف انسان کو کسی وہم و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن دنیا میں ہمیشہ وہ لوگ بھی ہوتے رہے ہیں، جن کو اپنے اہام کے مقابلہ میں کوئی روشن دلیل کارگر نہیں، بغض و عناد کی دیوار اُن کی آنکھوں اور کانوں کے سامنے حجاب بن جاتی ہے۔

اور اس سے زیادہ قابل تعجب یہ کہ اپنی شہرہ چشمی کو آفتاب کا عیب قرار دینے لگتے ہیں، اور اپنی کج فہمی کو دلیل کا تصور بتانے لگتے ہیں۔

مسئلہ ختم نبوت اور آیت خاتم النبیین بھی ان حضرات کی دست دراز یوں سے نہ سچی، ہر صورت سے آیت کی تحریف پر زور مارے اور قرآن و حدیث اور اقوال صحابہؓ و تابعینؓ اور قواعد لغت کے خلاف احتمالات ایجاد کئے۔

چونکہ مرزائی فرقہ کی چریب لسانی اور مکر و فریب کی مہر سازی نے ان شبہات کو عوام کے سامنے ایک خوبصورت رنگ میں پیش کیا ہے، جس سے ناواقف لوگوں کے اشتباہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اس لئے مناسب یہ کہ اس کے ساتھ ہی اُن شبہات کی بھی قلعی کھول دی جائے، وَادَّلهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ۔

پہلا شبہ | اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا، تو آخر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام جو متفق علیہ نبی ہیں کیسے آسکتے ہیں حالانکہ اُن کا آخر زمانہ میں آنا مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ اور قرآن و حدیث کا صریح مدلول ہے۔ غرض یا ختم نبوت سے انکار کیجئے اور یا نزول مسیح سے ہاتھ اٹھائیے، یہ وہ شبہ ہے جو فرقہ مرزائیہ کا مایہ ناز اور کار گزار حربہ سمجھا جاتا ہے، خود مرزا صاحب اور ان کے اذنان نے اس کو لانیخل جمعہ اور ناواقف عوام کے راستے سے ہٹانے

کے لئے ایک خوش نامتدیر سمجھ کر مختلف مواقع میں پیش بھی کیا ہے۔

**جواب مشہور** | ۱ | اول خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی از روئے لغت محاورات عرب یہ ہوتے ہیں کہ آپ وصف نبوت کے ساتھ (اس عالم میں) سب سے آخر میں متصف ہوئے، جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت نہ دی جائے گی، اور اس وصف نبوت کے ساتھ آئندہ کوئی شخص متصف نہ ہو سکے گا، نہ یہ کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء و نفات پاگئے ہوں، کلام عرب کی مدد نظر اس کی شہادت کے لئے موجود ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے:-

اخیر الأَوْلَادِ یا خاتِمُ الأَوْلَادِ تو باتفاق اہل عربیت اور باجماع عقلاء دنیا اس کے یہی معنی سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بچے سب سے آخر میں پیدا ہوا، اس کے بعد کسی بچہ کی ولادت نہیں ہوئی، نہ یہ کہ اس سے پہلی تمام اولاد اور سب بچوں کا مافیاء ہو چکا، اور سب مر چکے، چنانچہ خود مرزا صاحب تریاق القلوب میں اس کو تسلیم کرتے ہیں، جس کی عبارت مع والہ عنقریب آتی ہے۔

اسی طرح بولا جاتا ہے خاتِمُ المہاجرین تو کسی عقلمند انسان کے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ پہلے تمام مہاجرین مر چکے، بلکہ ہر تمیز دار بچہ بھی اس کے یہی معنی سمجھتا ہے کہ اس شخص نے سب سے آخر میں ہجرت کی، اور وصف ہجرت اس کے ساتھ سب سے آخر میں لگا، اب کسی پہلے مہاجر کا دنیا میں باقی رہنا یا آنا اس کے کیا مخالف ہو سکتا ہے۔

اسی طرح آخر الباقین، آخر الراجلین، آخر الترابین، آخر الذاہین، آخر القادیمین، آخر الفاتحین، آخر المساجد وغیرہ کلمات میں کسی کو یہ وہم بھی نہیں گزرتا کہ جو لوگ وصف مضاف الیہ کے ساتھ پہلے متصف ہو چکے ہیں وہ اس آخر اور خاتم کے آنے سے لقمہ موت ہو گئے، بلکہ ان سب کلمات اور ان کی امثال میں ہمیشہ آئندہ کے لئے وصف مضاف الیہ کا انقطاع مراد ہوتا ہے اور بس، اور اسی لئے اگر کسی شخص کو آخر الجاہلین یا خاتم الجاہلین کہا جاتا ہے تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ یہ شخص سب سے آخر میں بیٹھا، نہ یہ کہ پہلے بیٹھنے والے سب مر گئے، اور آخر الراجلین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص نے آخر میں سفر کیا، نہ یہ کہ

پہلے سفر کرنے والے سب مر گئے ، اور اب اُن کا دنیا میں باقی رہنا یا اپنے وطن میں آنا محال ہے ، پھر معلوم نہیں کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین سے یہ کیسے سمجھا گیا کہ تمام انبیاء سابقین پر موت طاری ہو چکی ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اب دنیا میں آنا آپ کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف ہے۔

اس لفظ کے تمام نظائر مذکورہ کی طرح اس کے بھی یہی معنی کیوں نہیں لئے جاتے کہ آپ سب انبیاء کے بعد متصف بالنبوة ہوئے ، اور آپ کے بعد کسی شخص کو یہ عہدہ نبوت نہیں دیا جائے گا ، اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بعد عہدہ نبوت نہیں ملا ، بلکہ آپ سے پہلے مل چکا ہے ، اور وہ اس وقت سے آخر عمر تک برابر اس وصف کے ساتھ متصف ہیں۔

پھر نہیں معلوم کہ آپ کے خاتم النبیین اور آخر النبیین ہونے اور نزول صحیح علیہ السلام کے عقیدہ میں کیا تعارض ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ حضرت سہیل بن سعد الساعدی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت کے لئے درخواست کی ، آپ نے فرمایا :-

<p>”اے میرے چچا اپنی جگہ ٹھہرے رہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ہجرت ختم کر دی ہو؛ جیسا کہ محمد پر انبیاء کو ختم کر دیا ہے“</p>	<p>يَا عَمُّ اَقِيْمْ مَكَانَكَ اَنْتَ بِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ خَتَمَ بِكَ الْهِجْرَةَ كَمَا خَتَمَ بِي النَّبِيَّوْنَ رَوَاهُ</p>
---	--

الطبرانی والبنعیم والبوعلی وابن عساکر وابن النجار

دیکھئے خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو ختم ہجرت کی تشبیل میں پیش فرما کر بحث کا خاتمہ فرما دیا۔

کسی ادنیٰ سمجھ بوجھ والے آدمی پر بھی یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ وہ حضرت عباسؓ کے خاتم المہاجرین ہونے کو اُن سے پہلے ہماجرین کے دنیا میں باقی رہنے کا مخالف و معارض سمجھے ، یا حضرت عباسؓ پر ختم ہجرت کا یہ مطلب قرار دے کہ اُن سے پہلے ہماجرین سب مر چکے۔

پھر ختم نبوت اور خاتم النبیین ہی میں نہ معلوم کس راز کی بنا پر یہ معنی لئے

جاتے اور خواہ مخواہ اس کو حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف بتایا جاتا ہے، کیا اس کی وجہ یہی نہیں کہ خاتم النبیین کے صحیح معنی سے مرزا صاحب کی مختصر عمر نبوت کو ٹھیس لگتی اور ختم ہجرت کے کچھ معنی ہوں اُن کو اس سے کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔

(۳) حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ کریمہ  
وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ذَرِينًا نُوْحٍ كِي تَفْسِيْرٍ مِّنْ فُرَايَا؛  
كُنْتُ اَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ | "میں خلقت میں سب انبیاء سے پہلے  
وَ اٰخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ" ذکرہ | اور بعثت میں سب کے آخر میں ہوں؛

ابن کثیر فی تفسیرہ ۱/۱۰۹ عن ابن حاتم و ابن مردويه و ابی نعیم و

الدہلی و ابن عساکر و ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن سعد)

اس حدیث نے بھی خاتم النبیین کے معنی کو بالکل صاف کر دیا کہ مراد یہ ہے کہ آپ کی بعثت دنیا میں سب سے آخر میں ہوئی، نہ یہ کہ آپ سے پہلے سارے انبیاء علیہم السلام وفات پا چکے، لہذا آپ کا خاتم النبیین ہونا کسی وجہ سے نزولِ مسیح علیہ السلام کا معارض نہیں ہو سکتا۔

(۴) ابھی عنقریب بروایت ابو ہریرہؓ گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک محل بالکل تیار ہو صرف ایک اینٹ کی کمی باقی ہو، اور پھر وہ اینٹ لگا دی جائے تو نبوت کا محل پہلے تیار ہو چکا تھا، اس میں ایک اینٹ کی کمی باقی تھی جس کو پورا کرنے کے لئے میں بھیجا گیا" (ردو ماہ البخاری و مسلم وغیرہ من اصحاب السنن)

اس سے بھی صاف معلوم ہوا کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا صرف یہی مطلب ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیاء کے بعد ہوئی، نہ یہ کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کی وفات ہو چکی، جیسا کہ خاتم کی اینٹ کے لئے دوسری اینٹوں کا معدوم ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ متصور بھی نہیں، اسی طرح خاتم النبیین کے لئے پہلے سب انبیاء کی موت ضروری نہیں۔

(۵) اور ترمذی نے بروایت حضرت انسؓ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

أَنَّ الرِّسَالَةَ وَالشُّبُوحَ قَدْ | بيٹک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی  
انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي | پس میرے بعد کوئی رسول اور نہ کوئی نبی:

وَلَا نَبِيَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ -

اس حدیث میں نبی و رسول کے بجائے وصف نبوت و رسالت کا انقطاع ذکر  
کے اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا گیا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ وصف  
نبوت کے ساتھ متصف ہونا منقطع ہو گیا پہلے انبیاء کا باقی رہنا یا کہیں دنیا میں آنا  
کسی طرح ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

⑥ اُمُّ كُرَيْبٍ رَوَايَتُ كَرْتِي مِمَّنْ كَرَّتِي فِي رَأْسِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِيهَا -

ذَهَبَتِ الشُّبُوحُ وَبَقِيَّتِ | نبوت چلی گئی اور اچھے خواب باقی رہ  
الْمُبَشِّرَاتِ (رواه ابن ماجه) | گئے و

اس میں بھی وصف نبوت کا خاتمہ بیان کر کے ختم نبوت کے وہی معنی واضح کر دیئے  
گئے کہ آئندہ کو وصف نبوت کا انقطاع ہو گیا مگر یہ کسی پہلے نبی کے باقی رہنے یا آنے کا  
مخالف نہیں۔

⑦ حَدِيثٌ فِيهِ أَنَّ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِي رَأْسِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِيهَا -

أَخِيذْ ذَكَرْتُكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ | انبیاء میں سے آپ کے آخرا و اولاد میں:  
(رواه ابن عساکر)

اس حدیث نے بالکل صاف کر دیا کہ خاتم النبیین کی مراد یہی ہے کہ آپ انبیاء  
میں سے آخرا و اولاد ہیں، اور کسی انسان کے نزدیک آخرا و اولاد کا مفہوم پہلی اولاد  
کے مرجانے کو مقتضی نہیں اور نہ ان میں سے کسی کے باقی رہنے کا معارضہ، لہذا آپ کا  
آخرا و انبیاء و خاتم الانبیاء ہونا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے کسی طرح مخالف نہیں ہو سکتا۔

⑧ حَدِيثٌ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِيهَا -

أَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَنَسَّجِدِي | میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد  
خَاتِمُ الْمَسَاجِدِ (رواه مسلم) | خاتم المساجد:

مراد یہ ہے کہ میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم اور آخر ہے، جیسا کہ دینی اور دنیا

اور بزار کی روایتوں میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔

یہ حدیث مسئلہ زیر بحث میں درحقیقت ایک ناطق فیصلہ ہے، کیونکہ خاتم المساجد الانبیاء کے معنی نہیں ہو سکتے کہ آپ کے وجود کے بعد کسی پچھلی نبی کی مسجد یا نبی ہوگی؟ انبیاء سابقین کی متعدد مسجدیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں اور آج تک موجود ہیں، پھر خاتم المساجد کے اگر یہ معنی ہوں گے کہ پہلے انبیاء کی سب مسجدیں فنا ہو چکیں تو بتلاؤ کہ آپ کا یہ فرمان کیسے درست ہوگا، اور جب خاتم المساجد مساجد سابقہ کے بقا کی مخالفت نہیں تو خاتم الانبیاء کسی پہلے نبی کے باقی رہنے یا نزول کے کیوں معارض ہوں گے، بلکہ جس طرح خاتم المساجد کے معنی اس کے سوا نہیں کہ آپ کے بعد کسی نبی جدید کی مسجد تیار نہ ہوگی اسی طرح خاتم الانبیاء کے معنی بھی اس کے سوا نہیں کہ آپ کے بعد عالم میں کسی شخص کو عہدہ نبوت نہ دیا جائے گا۔

⑨ آیت مذکورہ کی تفسیر کے ذیل میں ائمہ تفسیر کے اقوال ابھی گزر چکے ہیں جن میں خود نزول مسیح کا سوال اٹھایا گیا اور پھر وہی جواب دیا گیا ہے جو ہم نے بوجہ مذکورہ الصدر پیش کیا ہے جن میں سے بالخصوص حضرات ذیل کی تفسیریں مکرر ملاحظہ فرمائیں:

سید محمد آلوسی، صاحب روح المعانی؛ زحمری، صاحب کشاف؛ علامہ نسفی، صاحب مدارک۔

⑩ اقراری ڈگری؛ جن حضرات کو قرآن و حدیث اور آثار صحابہ تابعین اور اقوال سلف میں شفاء نہیں ملتی اور ان کا قلب اُس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ مرزا صاحب کی وحی اور ان کی تصانیف میں اُس کو نہ دیکھ لیں وہ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں، تریاق القلوب، مصنف مرزا صاحب ۱۵۶۱ھ

”ضرر ہوا کہ وہ شخص جس پر بتام و کمال دورہ حقیقت آدمیت ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے“

جب خاتم الاولاد کے معنی مرزا صاحب کے نزدیک یہ ہیں کہ عورت کے پیٹ سے کوئی کامل انسان اس کے بعد پیدا نہ ہو تو خاتم النبیین کے بھی یہی معنی کیوں نہ ہوں گے کہ آپ کے بعد کوئی نبی عورت کے پیٹ سے پیدا نہ ہوگا۔

جس سے دو فائدے حاصل ہوئے ، اذلتح یہ کہ ختم نبوت اور نزول مسیح علیہ السلام میں تعارض نہیں ، خاتم النبیین چاہتا ہے کہ عورت کے پیٹ سے اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو ، اور مسیح علیہ السلام آپ کے پہلے پیدا ہو چکے ہیں ۔

دوسرے یہ بھی صاف معلوم ہوا اگر مرزا صاحب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی نبوت خاتم النبیین کے خلاف ہے ۔

تیسرے یہ بھی متعین ہو گیا کہ جس مسیح کے نزول کی خبر احادیث میں دی گئی ہو وہ اُس وقت ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوں گے ، ورنہ خاتم النبیین کے خلاف ہوگا اور اس بنا پر مرزا صاحب مسیح موعود بھی نہیں ہو سکتے (تک عشرہ کاملہ)

دوسرا شبہ | جس کو مرزا صاحب نے اپنی متعدد تصانیف میں اور ان کے اذتاب نے اپنی تحریروں ، تفسیروں میں نہایت پُر زور دعوے کے ساتھ پیش کیا ہے یہ کہ خاتم النبیین میں خاتم کے معنی ” قہر ” ہے اور خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے بعد آپ کی مہر و تصدیق سے انبیاء نہیں گے ۔

جواب شبہ | آزادی کا زمانہ ہے ، ہر بد دین کے ہاتھ میں قلم اور سامنے لاوارث قرآن ہے ، جس کا جس طرح جی چاہتا ہے اس کے مطلب پر حکومت کرتا ہے ، اگر خود خداوند عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو بعید نہ تھا کہ یہ بے خوف بہادر اس کی لفظی و معنوی تحریف میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے ۔

کیا قہر نہیں ہے کہ ایک شخص قرآن کی آیت کے معنی قواعد لغت کے خلاف اذ خود تصریحات قرآن کے خلاف اور پھر ڈیڑھ سو سے زائد احادیث نبویہ کے خلاف اور سیکڑوں صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے خلاف صاف صاف علی الاعلان بیان کرتا ہے ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کہاں سے کہتا ہے ۔

مسلمان ہیں کہ ہنس ہنس کر سنتے ہیں ، کیونکہ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر مویا دوسری بہا رکلیا جاتا ہے ۔ لیکن یاد رہے کہ ہمیشہ یہ صورت رہنے والی نہیں بلکہ عَمَّا قَلِيلٌ لِيُضْجِبِحَ نَادٍ مِثْنٌ (عنقریب وہ نادم و شرمندہ ہوں گے) ۔

مسلمانو ! اگر تم نے خدائے قدوس کے کلام متین کی تحریف کو ٹھنڈے دل سے سنا اور سترآن کو لاوارث سمجھ کر چھوڑ دیا تو یاد رہے کہ خدائے علیم وخبیر

اس کو اس طرح نہ چھوڑے گا، اس نے کلام پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جو شخص اس کی حفاظت پر دست درازی کرے اس کو عذاب خداوندی سے بچنے کے لئے کوئی تعلقہ بنا لینا چاہئے، لیکن لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ۔

اگر مرزا صاحب اپنی امت کوئی صداقت رکھتے ہیں تو لغت عرب اور قواعد عربیت سے ثابت کریں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں، لغت عرب کے طویل و عریض دفتر میں سے زائد نہیں صرف ایک نظیر اس کی پیش کر دیں، یا کسی ایک لغوی اہل عربیت کے قول میں یہ معنی دکھلا دیں۔

اور مجھے یقین ہے کہ ساری مرزائی جماعت مع اپنے نبی اور ابن نبی کے اس کی ایک نظیر کلام عرب یا اقوال لغویین میں نہ دکھلا سکیں گے۔

خود مرزا صاحب نے جو برکات الدرء صفحہ ۱۴، ۱۵ میں تفسیر قرآن کے معیار میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید سے اور دوسرا احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تیسرا اقوال صحابہؓ رکھا ہے، اگر یہ صرف ہاتھی کے دکھلانے کے دانت نہیں، تو خدا را خاتم النبیین کی اس تفسیر کو قرآن کی کسی ایک آیت میں دکھلائیں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو احادیث نبویہ کے اتنے وسیع و عریض دفتر میں ہی کسی ایک حدیث میں یہ تفسیر دکھلائیں، پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ صحیحین کی حدیث ہو یا صحاحِ شریک، بلکہ کسی ضعیف سے ضعیف میں دکھلا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہ معنی بتلائے ہوں کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں۔

اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا (اور ہرگز نہ ہو سکے گا) تو کم از کم کسی صحابی، کسی تابعی کا قول ہی پیش کرو جس میں خاتم النبیین کے یہ معنی بیان کئے ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ

۵۔ نہ خنجر ٹٹھے گا نہ تلوار اُن سے ؛ یہ بازو میرے آئیٹے ہوئے ہیں  
چیلنج | اے مرزائی جماعت اور اس کے مقتدر ارکان ! اگر تمہارے دعوے میں کوئی صداقت کی بو اور قلوب میں کوئی غیرت ہے تو اپنی ایجاد کردہ تفسیر کا کوئی شاہد پیش کرو، اور اگر ساری جماعت بل کر تشریح کے تیس پاروں میں سے کسی ایک آیت میں احادیث کے غیر محصور دفتر میں سے کوئی ایک حدیث میں اگرچہ ضعیف ہی ہو، صحابہؓ و تابعینؓ کے بے شمار آثار میں سے کسی ایک قول میں یہ دکھلا دے کہ

خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں، تو ہم سے پہنچ سونپے نقد انعاماً وصول کر سکتے ہیں۔

صلائے عام ہے یا ان نکتہ داں کے لئے

اگر واقع میں ان کی بیان کردہ تفسیر قرآن کی تحریف نہیں، اور مذکورہ الصدر اصول تفسیر میں ان کا کوئی پتہ ہے تو آئیں، اور پانچ سو روپے وصول کریں۔

لیکن میں بھول اللہ و قوتہ اعلانا کہہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب اور ان کی ساری امت مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے تب بھی ان میں سے کوئی ایک چیز پیش نہ کر سکیں گے **ذَلَّوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا**۔

بلکہ اگر کوئی دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان رکھتا ہے تو قرآن عزیز کی نصوص اور احادیث نبویہ کی تصریحات اور صحابہ و تابعین کے صاف صاف آثار سلف صالحین اور ائمہ تفسیر کے کھلے کھلے بیانات اور لغت عرب اور قواعد عربیت کا واضح فیصلہ سب کے سب اس تحریف کی تردید کرتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کے وہ معنی جو مرزائی فرقہ نے گھڑے ہیں بوجہ ذیل باطل ہیں۔

۱۔ اول اس لئے کہ یہ معنی محاورات عرب کے بالکل خلاف ہیں، اور بلازم آئے گا کہ خاتم القوم اور آخر القوم کے بھی یہی معنی ہوں کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے، اور خاتم المہاجرین کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کی مہر سے مہاجرین بنتے ہیں، اسی طرح خاتم الاولاد کا بھی یہ مفہوم ہو کہ اس کی مہر سے اولاد بنتی ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ کوئی سمجھدار انسان بلکہ ادنیٰ تمیز والا بچہ بھی ان کلمات کے یہ معنی نہیں کر سکتا، پھر نہ معلوم کہ خاتم النبیین کے یہ معنی کیسے اور کہاں سے ہو گئے، حالانکہ مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کے جو معنی تریاق القلوب میں لکھے ہیں وہ خود اس کے خلاف ہیں۔

۲۔ قرآن مجید کی تقریباً سو آیتیں اس تفسیر کو غلط قرار دیتی ہیں جن کو انشاء اللہ عنقریب بیان کیا جائے گا، علاوہ بریں خود اس آیت کی دوسری قراءت جو حضرت ابن مسعود سے نقل کی گئی ہے مرزا صاحب کی اس تحریف کی بھندوب کے لئے کافی ہے، کیونکہ ان کی قراءت میں بجائے لفظ خاتم النبیین کے ختم النبیین بصیغہ ماضی واقع ہے،

جس میں مرزا صاحب کی تحریف کا نام و نشان نہیں رہتا۔

۲۔ یہ تحریف اُن احادیث متواترہ کے بھی خلاف ہے جو اعلیٰ درجہ کی وضاحت و صراحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہیں کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نئی پیلا نہیں ہو سکتا۔

۳۔ یہ تفسیر اس کے بھی خلاف ہی جو صحابہ کرامؓ سے منقول ہو چکی ہے۔

۵۔ ائمہ تابعین اور پھر تمام ائمہ مفسرین سے جو اس آیت کی تفسیر عنقریب نقل کی گئی ہے، یہ تحریف اُن سب کے بھی خلاف ہے۔

جس تفسیر کا یہ حال ہو کہ قواعد لغت اور نصوص قرآن و حدیث اور تصریحات صحابہ و تابعین سب ہی کے خلاف ہو تو اگر وہ بھی قرآن کی تحریف اور افزائے اللہ نہیں ہے تو پھر کوئی بڑی سے بڑی تحریف بھی تحریف کہلانے کے قابل نہ ہوگی، بلکہ ہر ماہل کی جو اس کو تفسیر قرآن ماننا پڑے گا۔

شعبہ مرزائی اولام اور مذہبی حرکات بھی ایک عجیب تماشہ ہیں اور تبارہ ہی ہیں کہ **كَيْفِيْنَ بِهٖ كَشِيْرًا وَّ ذٰلِكَ بِهٖ كَشِيْرًا** یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے بہت سے لوگوں کی گمراہی پختہ کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟

اپنے خیالات و اولام کو قائم رکھنے کے لئے اگر ایک طرف آیات و سنن قرآنہ کی تحریف اُن کے نزدیک ایک آسان بات ہے (وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ الْعَظِيْمُ) تو دوسری جانب اُن کو اس کی بھی پروا نہیں کہ اپنے کلام میں تناقض و تعارض ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہیں کچھ تاویل (بلکہ تحریف) ہے، اور کہیں کچھ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔

انہی متفادات و متہافت اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ **الْبَيْتِيْنَ كَالْفِلاَمِ** عہد خارجی یا ذہنی کے لئے ہو اور **مَجْهُودٌ** مراد انبیاء تشریحی ہیں، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء تشریحی کے خاتم اور آخر ہیں، نہ مطلق انبیاء کے لیکن، ع

آرزوؤں سے بنا کرتی ہیں تدبیریں کہیں

اگر عہد خارجی ہے تو معبود کلام سابق میں مذکور ہونا چاہئے، اور کلام سابق میں

تو کہیں خاص انبیاء تشریحی کا ذکر نہیں، اگر ہے تو کہاں ہے، اور کون سے ستر آں میں ہو؟ ہاں جو نیا قرآن قادیان کے قریب اُترا اور جس کی آیات میں سے **اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا تَرْتِلْنَ الْعَادِيَانِ** ہے، اس میں ہو تو ہو، ورنہ نبی عربی نے جو قرآن اُمت کو دیا ہے اس میں کہیں پتہ نہیں، بلکہ اگر ذکر ہے تو مطلق انبیاء کا ذکر ہے، پڑھو آیت **الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ اِلَيْهِ** یعنی وہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں؛ ظاہر ہے کہ پیغامِ خداوندی کا پہنچانا نفسِ نبوت کے لئے ضروری ہے اور ہر نبی خدا کا پیغمبر ہے نہ کہ فقط انبیا تشریحی۔

الحاصل عہدِ خارجی کی تو کوئی صورت نہیں، اسی طرح عہدِ ہنی کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ درحقیقت حکمِ نکرہ ہوتا ہے (دیکھو مطلق و مختصر وغیرہ) اور اسی لئے عہدِ ہنی اس وقت مراد لیا جا سکتا ہے جیسا استراقِ مراد نہ ہو سکے، جیسے **اَكَلَهُ الَّذِي دَبَّ** (اس کو بھیڑیے نے کھا لیا)، تو ظاہر ہے کہ تمام دنیا بھر کے بھیڑیوں نے اُس کو نہیں کھا یا اس لئے استراقِ مراد نہیں ہو سکتا، اور کوئی خاص بھیڑیا بھی کلام میں ذکر نہیں کیا گیا، اس لئے بالآخر عہدِ ہنی مراد ٹھیرا، بخلاف آیتِ خاتم النبیین کے کہ اس میں بلاسکلف استراقِ درست ہے جیسا کہ آپ اس تحویہ میں بار بار معلوم کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | خاتم النبیین کے معنی میں مرزائیوں نے جو قدرتِ طرائف اختیار کی ہیں اُن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ محض مجاز پر محمول ہے، جیسا کہ اس کی دوسری نظائر، خاتم المحدثین، خاتم المفسرین وغیرہ میں باتفاق یہی معنی مجازی مراد ہیں کیونکہ عرف میں جس شخص کو خاتم المحدثین لکھا جاتا ہے، کسی کے نزدیک اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کوئی محدث پیدا نہ ہوگا۔

مرزائی اپنی اس ابلہ فریبِ تقدیر پر خوش ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بھی اسی مرزائی خوش فہمی کا کرشمہ ہے جو خاص مرزائیت کا کرشمہ ہے، کیونکہ خاتم المحدثین خاتم المعتبرین وغیرہ انسان کا کلام ہے جس کو کچھ خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کتنے آدمی پیدا ہوں گے

اور کتنے مریں گے، اور کتنے عالم ہوں گے اور کتنے جاہل رہیں گے، کتنے محدث و مفسر بنیں گے اور کتنے آوارہ پھریں گے، اس لئے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے لئے خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین وغیرہ الفاظ استعمال کرے، اور اگر کہیں اس کے کلام میں ایسے الفاظ پائے جاویں تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کو مجاز یا مبالغہ پر محمول کیا جائے، ورنہ یہ کلام بالکل لغو اور بے معنی بلکہ جھوٹ ہو جائے گا۔ لیکن کیا خلاق عالم کے کلام کو بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے جس کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں، اور جو اپنے علم و اختیار کے ساتھ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہو۔ پس جب علیم و خیر اور قدوس و حکیم کے کلام پاک ہیں کسی ذات کے متعلق خاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی مراد لئے جائیں جو کہ بلا تکلف بنتے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر مبالغہ یا مجاز پر عمل کیا جائے۔

الغرض انسان کے کلام میں ہم مجبور ہیں کہ ان کلمات کو ظاہری معنی سے پھر کر مبالغہ یا مجاز پر محمول کریں، مگر خدائے قدوس کے کلام میں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور بلا ضرورت حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا اصول مسلمہ کے خلاف ہے۔

اس کے علاوہ جب خاتم النبیین کے معنی خود قرآن مجید کی ایک سو آیات نے واضح طور پر بتلا دیئے ہیں جس میں کسی قسم کے مجاز یا مبالغہ کو دخل نہیں دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو احادیث میں اس کی ایسی شرح کی ہے جس میں کوئی خفا باقی نہیں رہا، اور پھر اجماع صحابہ اور اقوال سلف نے اس کے ظاہری اور حقیقی معنی مراد لینے پر جہر کر دی، تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مجازی معنی مراد لے، اگرچہ الفاظ میں اس کا احتمال بھی ہو، عجب ہے کہ خود مشکل حل مجوز اپنے کلام کے ایک حقیقی معنی بیان فرماتا ہو، اور پھر اس کے رسول جن پر یہ کلام نازل ہوا اسی معنی کی انتہائی وضاحت فرماتے ہیں، اور پھر اُس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام اور پھر تمام علمائے سلف اسی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ کلام اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول ہے، نہ اس میں کوئی مجاز یا مبالغہ ہے، اور نہ تاویل و تخصیص، جیسا کہ ہم اس رسالہ میں بحوالہ اقتصاد امام غزالی اور بحوالہ شفاء قاضی عیاض نقل کر آئے ہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے متعلق چند جملے یہ ہیں :-

وَلَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ  
وَمَنْ أَدْلَهُ بِتَخْصِيصٍ فَكَلَامُهُ  
مِنْ أَنْوَاعِ الْهَدْيَانِ لَا يَمْنَعُ  
الْحُكْمَ بِتَكْفِيرِهِ لِأَنَّهُ مُكَدَّرٌ  
لِهَذَا النَّصِّ الَّذِي اجْتَمَعَتْ  
الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا أَدْلَى  
دَلَالِ لِيَخْصُوصِ .

آیت خاتم النبیین میں نہ کوئی تاویل ہو  
نہ تخصیص اور جو شخص اس میں کسی قسم کی  
تخصیص کی تاویل کرے اس کا کلام نہیانا  
کی قسم سے ہے اور یہ تاویل اس کو کافر  
کہنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ وہ اس  
آیت کی تکذیب کر رہا ہے، جس کے تعلق  
امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ وہ  
ماؤل یا مخصوص نہیں ہے۔

(کتاب الاقتصاد لامام الغزالی)

لیکن مرزائی میں کہ وہ اپنی ”مرغے کی ایک ٹانگ“ بلکے چلے جا رہے ہیں۔

سزا خدا کہ عارف زاہد کسے تکلف و درحیرت کہ بادہ فروش از کجا شنید

الغرض چونکہ ستر آن عزیز اور احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ اور اقوال سلف  
نے اس کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم النبیین اپنے حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول ہے،  
نہ اس میں کوئی مجاز ہے، نہ مبالغہ اور نہ تاویل و تخصیص، تو اب کسی کو سچی نہیں کہ  
اس لفظ کو خاتم الحقیقین وغیرہ الفاظ پر قیاس کر کے اس کی منصوص و منقول تفسیر کو بدلے۔  
شعبہ | خاتم النبیین میں خاتم بمعنی نگینہ انگشتری لے کر زینت مراد لیا جائے  
اور کلام کے معنی یہ ہوں کہ آپ سب انبیاء کی زینت ہیں، اور اس صورت میں آیت  
کو ختم نبوت سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔

جواب شعبہ | لیکن جب ہم اس کو اصول تفسیر پر پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض  
قرآن پر افسر رہے، اس کی ہرگز وہ مراد نہیں۔

۱۔ اول تو اس وجہ سے کہ خاتم بمعنی زینت مراد لینا مجازی معنی میں، اور چونکہ  
اس جگہ حقیقی معنی بلا تکلف درست ہیں تو حسب تصریحات علماء لغت و بلاغت  
اصول، معنی مجازی کی طرف جانے کی کوئی وجہ نہیں۔

۲۔ آیت مذکورہ کی جو تفسیر ہم نے قرآن مجید کی آیات اور خود اس آیت  
کی دوسری قرارت سے پیش کی ہے اس کے خلاف ہے، جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے۔

۳۔ احادیث متواترہ نے جو تفسیر اس آیت کی صاف صاف بیان کی ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔

۴۔ یہ تفسیر اجماع اور آثارِ سلف کے بھی خلاف ہے جیسا کہ ہم نے اوپر مفصل عرض کیا ہے۔

۵۔ ائمہ تفسیر کی شہادتیں بھی اس کے خلاف ہیں۔

پھر کیا کوئی مسلمان قرآن عزیز کے ایسے معنی تسلیم کر سکتا ہے جو قواعدِ عربیت کے بھی خلاف ہوں اور خود تصریحات قرآن مجید کے بھی، احادیث متواترہ اور آثارِ سلف سے بھی اس کو رد کرتے ہوں اور ائمہ تفسیر بھی۔

اور اگر اسی طرح ہر کس و ناکس کے خیالات اور ہر حقیقی یا مجازی معنی قرآن عزیز کی تفسیر بن سکتے ہیں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تمام قرآن مجید میں جہاں کہیں اَلْمَوْلُودُ وغیرہ کے الفاظ سے نماز کی فرضیت کی تاکید کی گئی ہے سب جگہ محض درودِ مسیحا اور دعا کرنا مراد ہے جو لفظِ صلوة کے لغوی معنی ہیں۔

اسی طرح آیہ کریمہ مِنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وغیرہ جن میں روزہ کی فرضیت ثابت ہو، اس کا لغوی ترجمہ اور مطلب یہ ہو کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم رُک جاؤ، کیونکہ لغتِ عرب میں صوم کے حقیقی معنی صرف رُک جانا ہیں۔

اسی طرح حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے الفاظ میں ان سب کے معنی اگر احادیث اور آثارِ سلف وغیرہ سے آنکھیں بند کر کے صرف از روئے لغت کئے جائیں تو مرزا صاحب اور ان کے اذتاب کی عنایت سے سارے فرائض سے چھٹی ہو جائے گی، بلکہ عجب نہیں کہ خود دین اسلام سے بھی آزادی مل جائے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

لیکن آیات مذکورہ میں صوم و صلوة اور حج وغیرہ کے الفاظ سے ان کے اصلی معنی لغوی کو اس لئے چھوڑا جاتا ہے کہ قرآن عزیز کی دوسری آیات اور احادیث متواترہ اور آثارِ سلف سے جو تعمیر ان کی ثابت ہے اس کے خلاف ہے، اور اگر آج کوئی ان آیات کے وہ لغوی معنی بتلا کر لوگوں کو ان فرائض کی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہے تو بحمد اللہ مسلمانوں کا ہر جاہل و عالم یہی جواب دے گا کہ

اسیرتِ بخود رہائی زبند ؛ شکارِ تخواہِ حلاص از کند

غرض کوئی جاہل سے جاہل بھی اس قسم کی تحریفات کے ماننے پر تیار نہیں ہو سکتا  
ٹھیک اسی طرح اگرچہ خاتمِ بمعنی زینتِ مجازاً مراد لینا محتمل ہے، لیکن چونکہ یہ احتمال  
نصوصِ شراک و حدیث اور تفاسیرِ سلف کے خلاف ہے اس لئے اسی طرح مردود  
اور ناقابلِ قبول ہوگا، جس طرح موم و صلوة و حج و زکوٰۃ وغیرہ ارکانِ دین کے مشہور  
لغوی معنی لینا باتفاق مردود ہیں۔

شعبہ | خاتم النبیین میں الف لام استغراقِ حقیقی کے لئے نہیں بلکہ عربی کے لئے  
ہے، اور مراد یہ ہے کہ آیتِ انبیاء تشریحی کے خاتم ہیں نہ مطلقاً انبیاء کے جیسا کہ آیت  
کرمیہ دَلِّیْقَتُکُوْنُ النَّبِیِّیْنَ بِالْاِتْفَاقِ بطورِ استغراقِ عربی نبیین سے صرف وہ بعض  
انبیاء مراد ہیں جو نبی اسرائیل کے زمانہ میں موجود تھے اور قتل کئے گئے۔

جوابِ شعبہ | ہماری گذشتہ عرضداشت کو تھوڑے سے غور کے ساتھ پڑھنے والا بلا تکلف  
سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھی انہی تحریفات میں سے ہے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

۱۔ اول اس وجہ سے کہ باتفاقِ علماء عربیت و اصولِ استغراقِ عربی اس  
وقت مراد ہوتا ہے جب کہ استغراقِ حقیقی درست نہ ہو جیسا کہ ہم النبیین کی لغوی  
تحقیق کے ذیل میں مفصل بیان کر چکے ہیں، اور مسئلہ زیر بحث میں بلا تکلف استغراقِ  
حقیقی بن سکتا ہے، یعنی ختم کرنے والے تمام انبیاء کے۔

۲۔ دوم اس وجہ سے کہ استغراقِ عربی اس وقت مراد ہو سکتا ہے جبکہ عرف  
و عادت اس کی تفصیص کا سترینہ ہوں، اور عرفاً اس کے تمام افراد مراد نہ ہو سکتے ہوں،  
جیسے جَمَعَ الْأَمِیْرُ الصَّاعَةَ کیونکہ عرفاً و عادتاً تمام دنیا کے سناروں کا جمع کرنا

لہ الف لام استغراقِ حقیقی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جس لفظ پر داخل ہو اس کے تمام افراد  
بے کم و کاست مراد ہوں مثلاً عالم الغیب میں لفظ غیب جس پر الف لام داخل ہے، اس سے اس کے  
تمام افراد مراد ہیں یعنی عالم غائبات کا، اور استغراقِ عربی میں تمام افراد مراد نہیں ہوتے  
جیسے جَمَعَ الْأَمِیْرُ الصَّاعَةَ یعنی بادشاہ نے سناروں کو جمع کیا، پس صاعہ جس پر الف لام داخل ہے  
اس کے تمام افراد مراد نہیں بلکہ مراد اپنے فہر کے یعنی اپنے شہر یا قلعہ کے سناروں کو جمع کیا، اس  
کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے ۳۳

دشوار ہے۔ نیز عرب میں جب کبھی اس قسم کے کلمات بولے جاتے ہیں، تو اپنے شہریارِ زائد سے زائد اپنی سلطنت کے سنا مراد ہوتے ہیں، نہ ساری دنیا کے، بخلاف آیت مذکورہ و خاتم النبیین کے کہ اس میں نبیین کی تخصیص کا عرفاً و عادتاً کوئی قرینہ نہیں، خاتم النبیین کے بلا تکلف استغراقِ حقیقی کے ساتھ یہ معنی صحیح ہیں کہ آپ تمام انبیاء کے ختم کر نیوالے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ استغراقِ حقیقی چھوڑ کر بلا دلیل و قرینہ اور بلا وجہ استغراقِ عرفی کی طرف جائیں اور مطلق نبیین کو صرف انبیاء تشریحی کے ساتھ مقید کر دیں۔

باقی رہا کہ آیت کریمہ وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ كَوَافِرًا کے لئے شہادت میں پیش کرنا اگر اس جگہ لام کو استغراقِ عرفی کے لئے تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جب استغراقِ حقیقی نہیں بن سکتا تو پھر استغراقِ عرفی کی طرف جاتے ہیں، اور اس آیت میں بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ تَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ كَالْفُلَانِ استغراقِ حقیقی کے لئے کسی طرح نہیں ہو سکتا، ورنہ آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ بنی اسرائیل تمام انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ بات کسی طرح درست نہیں ہو سکتی، بلکہ بالکل کذب محض ہوگی، کیونکہ اول تو بنی اسرائیل کے زمانہ میں تمام انبیاء موجود نہ تھے، بہت سے ان سے پہلے گذر چکے تھے، اور بعض اہم پیدائشی نہ ہوئے تھے، پھر ان کا تمام انبیاء کو قتل کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

دوم یہ بھی ثابت نہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے زمانہ کے تمام انبیاء موجودین کو بلا استثناء قتل ہی کر ڈالا ہو، بلکہ تشریحی عزیر ناطق ہے فَخَسِبَ يَقَافِرًا كَذَّبْتُمْ ذُنُوبًا تَقْتُلُونَ، جس نے صاف طور سے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل نے تمام انبیاء موجودین

عہ اس جگہ یہ بات بھی قابلِ یادداشت ہے کہ یہ تشریح اگر خلاصہ خواستہ چل بھی جائے، اور آیت کی مراد بضر محال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف انبیاء تشریحی کے ختم کرنے والے میں تب بھی مرزا صاحب اس آیت کی مخالفت سے باہر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت سی تعانیف میں نبوت تشریحی اور صاحبِ شریعت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یقین کے لئے دیکھو اور بعینِ صفحہ ۶۳ جس میں کھلے فغلوب میں صاحبِ شریعت ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیز حقیقۃ الوحی صفحہ ۷۹ کی عبارت اور تریاق القلوب صفحہ ۱۳ کی عبارت کا مجموعہ آپ کی تشریحی نبوت کا صاف شاہد ہے۔ العباد باللہ تعالیٰ ۱۲ منہ

کو بھی قتل نہیں کیا، اس اعلان کے بعد بھی اگر دَقِیْتُوْنَ النَّبِیِّیْنَ کے الف لام کو استفراقِ حقیقی کے لئے رکھا جائے تو جس طرح واقعات اور مشاہدات اس کی تکذیب کریں گے اسی طرح خود قرآن کریم اس کو غلط ٹھیراے گا۔

آیت کریمہ وَتَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ میں اگر استفراقِ حقیقی مراد لیا جائے گا تو آیت کا مضمون (معاذ اللہ) بالکل کذب صریح اور غلط فاحش ہو جائے گا، جس کو مشاہدہ جھٹلا چکا ہے، پس اس آیت میں جب آفتاب کی طرح یہ بات روشن ہو گئی کہ استفراقِ حقیقی مراد نہیں ہو سکتا اس وقت استفراقِ عرفی مسترار دیا گیا۔

بخلاف آیت خاتم النبیین کے کہ اس میں تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں اس کے معنی استفراقِ حقیقی لیکر بلاتا مل درست ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کے ختم کرنے والے، اور اگر اسی طرح بے وجہ استفراقِ عرفی جہاں چاہیں مراد لے سکتے ہیں تو کیا ہمارے مہربان آیت کریمہ

<p>لیکن نیک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن اور ملائکہ اور تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر؛</p>	<p>وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (سورہ بقرہ پ)</p>
---	---

میں بھی یہی فرمائیں گے کہ النبیین کا الف لام استفراقِ عرفی کے لئے ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور کیا آیت ذیل میں بھی اُن کے خیال میں استفراقِ عرفی ہی ہوگا :

<p>پس اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا؛</p>	<p>فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. (البقرہ پ)</p>
--	---

اور کیا استفراقِ عرفی کے ساتھ آیت کے یہ معنی صحیح ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بشیر و نذیر بنایا اور بعض کو نہیں۔

اسی طرح آیت ذیل میں :-

<p>اللہ تعالیٰ تم کو اس کا حکم نہیں کرتا کہ ملائکہ اور انبیاء کو رب بنا لو؛</p>	<p>وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا (آل عمران پ)</p>
---	---

کیا اس میں بھی استغراقِ عرفی کے ساتھ ہمارے مہربان آیت کا یہی مطلب بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کے رب بنانے کا حکم نہیں کرتا اور بعض انبیاء کے متعلق اس کا حکم فرماتا ہے، اور کیا یہ آیت کریمہ **مِنَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ** میں بھی اُن کے خیال میں استغراقِ عرفی کے ساتھ بعض انبیاء مراد ہیں، اور آیت کریمہ **وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَحْيِي بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّمُونَ** آء میں بھی کہا جائے گا کہ بعض نبیین مراد ہیں، اسی طرح آیت کریمہ **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الْآيَةَ** اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا، تاختم آیت :

میں بھی کیا ہمارے مجتہد صاحب استغراقِ عرفی ہی تشریح کرے کریمہ معنی بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیین سے عہد لیا؟ اور کیا ان کے نزدیک **وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ** میں بھی استغراقِ عرفی ہو سکتا ہے؟ الحاصل اگر اسی طرح ہر جگہ جہاں چاہیں استغراقِ عرفی مراد لینا جائز ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آیت مذکورہ الصدر میں جائز نہ ہو، علاوہ بریں آیات ذیل کی امثال میں بھی استغراقِ عرفی کو جائز کہنا پڑے گا :

الحمد لله رب العالمين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، هدى للمتقين ، والله محيط بالكافرين ، اعدت للكافرين ، انها لكبيرة الاعلى الخاشعين ، وموعظة للمتقين ، والله عليم بالظالمين ، انه لا يفلح الظالمون  
 و هو ارحم الراحمين — والى غير ذلك من الايات التي هي غنية عن التعدد۔  
 اور ان کی دوسری نظائر جن سے قرآن مجید کی ہر ہر سطر بھری ہوئی ہے، سب میں استغراقِ عرفی کو جائز کہنا پڑے گا، حالانکہ جس شخص کو عرفی عبارت پڑھنے کا تصور اس سلسلہ ہے وہ کسی طرح ان جیسی آیات میں استغراقِ عرفی کو جائز نہیں کہہ سکتا۔  
 اور اگر آیات مذکورہ الصدر اور ان کے امثال میں استغراقِ عرفی مراد نہیں لیا جاسکتا تو کوئی وجہ نہیں کہ خاتم النبیین میں استغراقِ عرفی مراد لیا جائے۔

یا للجب ! سارا قرآن اول سے آخر تک خاتم النبیین کی نظائر سے بھرا ہوا ہے، ان میں کوئی نظیر پیش نہ کی گئی اور کسی پر اُن کو قیاس نہ کیا گیا، قیاس کے لئے ملی تو آیت **وَيُفَكِّكُونَ النَّبِيِّينَ** ملی، جس بجاہت اور مشاہدہ نے آفتاب کی طرح استغراق

حقیقی کو غیر ممکن بنا دیا ہے، اور پھر خود قرآن کریم نے اس کا اعلان صاف صاف لفظوں میں کر دیا ہے۔

۳۔ سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ان سب امور سے قطع نظر کریں اور قواعد عربی سے بھی آنکھیں بند کر لیں، اور آیت میں کسی طرح استغراق عربی مراد لیں تو پھر آیت خاتم النبیین کے معنی ہوں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم نہیں ہیں۔ لیکن جس شخص کو خداوند عالم نے سمجھ بوجھ سے کچھ حصہ دیا ہے وہ بلا تامل سمجھ سکتا ہے کہ اس صورت میں خاتم النبیین ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں رہتی، بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کا خاتم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء کے لئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء کے لئے وہم حشرًا (اور اسی طرح سلسلہ بسلسلہ)

حالانکہ آیت مذکورہ کا سیاق بتلا رہا ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ کی مخصوص فضیلت ہے، علاوہ بریں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو اپنے ان فضائل میں شمار نہ فرمایا ہے جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، چنانچہ حدیث مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے جس میں آپ نے اپنی چھ مخصوص فضیلتیں شمار کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

<p>۴۔ اور مجھ مخصوص فضائل کے یہ ہے کہ میں تمام مخلوقات کی طرف مبعوث ہوا ہوں، اور مجھ پر انبیاء ختم کر دیئے گئے۔</p>	<p>وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَمَا تُمْ حَقِيقَةُ النَّبِيِّينَ (رواہ مسلم)</p>
---	--

۴۔ چہارم، اگر ان تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ذہن میں اس کا بھی خیال نہ کریں کہ آیت میں استغراق عربی کے ساتھ بعض انبیاء یعنی اصحاب شریعت مراد لینے سے آیت کے معنی درست ہوں گے یا غلط، اور بعض فرض محال اس احتمال کو نافذ اور جائز نہ قرار دیں، تب بھی مرزا صاحب اور ان کے اذنا ب کا مقصد "ہنوز دلی دور است" کا مصداق ہے، کیونکہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ تشریح کی تفسیر محض احتمالاً عقلیہ اور لغویہ سے نہیں ہو سکتی، جب تک کہ مذکورہ سابقہ اصول تفسیر اس کی صداقت پر شہادت نہ لے لی جائے۔

لیکن کیا مرزا صاحب اور ان کی ساری اہمت مل کر قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں

یہ دکھلا سکتے ہیں (اور وہ ہرگز نہ دکھلا سکیں گے ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا) کہ آیت خاتم النبیین میں فقط انبیاء تشریحی یعنی اصحاب شریعت جدیدہ مراد ہیں۔

یادہ اور ان کی تمام ذریت، احادیث کے اتنے وسیع دفر میں کی ایک صحیح بلکہ ضعیف حدیث میں بھی آیت خاتم النبیین کی یہ تفسیر دکھلا سکتے ہیں کہ اس سے خاتم النبیین التشریحی مراد ہے، اور ہم بحول اللہ وقوتہ دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک ایک حدیث میں تفسیر نہ دکھلا سکیں گے۔

یا مرزا صاحب اور ان کے تمام اذنانب، آثار صحابہ و تابعین کے وسیع تر میدان میں سے کوئی ایک اثر اس تفسیر کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں! اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو کم از کم ائمہ تفسیر کی مستند و معتبر تفاسیر ہی میں سے کوئی تفسیر پیش کریں جس میں خاتم النبیین کی یہ مراد بیان کی گئی ہو کہ ختم کرنے والے تشریحی انبیاء کے۔ مرزا صاحب اور ان کی ساری امت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی قیامت تک اصول مذکورہ میں سے کسی ایک اصل کو بھی اپنی گھڑی ہوئی اور مخترع تفسیر (نہیں بلکہ تحریف) کی شہادت میں پیش نہ کر سکیں گے۔

اور جب یہ سب کچھ نہیں، تو باوجود انقلاب زمانہ اور کثرت جہل، میں اب بھی مسلمانوں پر یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایسی بے معنی آواز کو قرآن مجید کی تفسیر سمجھیں جس کی کوئی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، نہ اقوال صحابہ میں اس کا کوئی اثر ہے نہ اقوال تابعین میں، نہ ائمہ تفسیر اس کی موافقت کرتے ہیں، اور نہ کتب تفسیر، بلکہ یہ سب کے محبت ہم آہنگ ہو کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

۵۔ پنجم، جب ہم علاوہ تفسیر اور اصول تفسیر کے خود اسی آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالتے ہیں تو بلا تامل آیت بول اٹھتی ہے کہ خاتم النبیین میں نبیین سے عامۃ تمام انبیاء مراد ہیں جو صاحب شریعت جدیدہ ہوں یا شریعت سابقہ اور کتاب سابق کے متبع۔

کیونکہ ہم لفظ نبی کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق کے ذیل میں نقل کر چکے ہیں کہ جمہور علماء عربیہ اصول کا مذہب یہی ہے کہ لفظ نبی عام ہے اور لفظ رسول خاص، یعنی رسول صروت اس نبی کو کہا جاتا ہے جس پر شریعت مستقلہ نازل ہوئی ہو اور نبی اس سے عام ہے،

صاحب شریعت مستقلہ کو بھی نبی کہتے ہیں اور اس کو بھی جس پر شریعت مستقلہ نازل نہیں ہوئی، اس کا کام صرف یہ ہے کہ امت کو شریعت سابقہ پر چلائے، اور اس کے خلاف جہاں کہیں استعمال ہے وہ بطور مجاز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، خاتم الرسل یا خاتم المرسلین نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کی نسبت لفظ رسول فرمایا گیا ہے، وَكُنْ تَرَسُولَ اللَّهِ، لفظ رسول کے ساتھ ظاہر ہے کہ خاتم المرسلین بہ نسبت النبیین کے زیادہ چسپاں ہے، مگر سبحان اللہ! خدائے علم و خیر کا کلام ہے وہ جانتا تھا کہ امت میں وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو آیت میں تحریف کریں گے، اس لئے یہ اسلوب بدل کر اس تحریف کا دروازہ بند کر دیا، چنانچہ امام المفسرین علامہ ابن کثیر نے اس پر مستنبہ فرمایا ہے، دیکھو صفحہ ۸۹ ج ۸ :-

• اور فرمان اللہ تعالیٰ وکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ پس یہ آیت اس بارہ میں صاف و صریح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور جبکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بھی بدرجہ اذلی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مقام رسالت بہ نسبت مقام نبوت خاص ہے، کیونکہ ہر رسول کے لئے نبی ہونا شرط ہے اور نبی کے لئے رسول ہونا ضروری نہیں، اور اسی پر وارد ہوئیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے :-

وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَكُنْ تَرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. فَهَذِهِ الْآيَةُ نَعْبُ فِي أَنَّه لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّبِيعِي الْأَوَّلِي وَالْآخِرِي لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخَعْتُ مِنْ مَقَامِ النَّبِيِّيَّةِ فَاتَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَتَعَكَّسُ وَبِذَلِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمَتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

(تفسیر ابن کثیر، ص ۸۹ ج ۸)

اسی طرح سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے :-

• اور نبی سے وہ مراد ہے جو رسول سے نام ہے اور اس لئے آپ کے خاتم النبیین

وَالْمُرَادُ بِالنَّبِيِّ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الرَّسُولِ فَيَلْتَمُ مِنْ كَوْنِهِ

ہونے سے خاتم المرسلین (یعنی اصحاب  
شریعت انبیاء کا خاتم) ہونا بھی لازم  
آتا ہے ؟

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ خَاتَمَ الْمُؤْمِلِينَ .  
(روح المعانی، ص ۱۸۶۲)

اور جوالہ کلیات ابوالبقاء صفحہ ۳۱۹ پر گزر چکا ہے، کہ آیت میں نفی نبوت نفی رسالت کو بھی شامل ہے۔

## ایک اور تلابازی

مرزا صاحب نے نبی بننے کے شوق میں "حقیقۃ الوحی" صفحہ ۲۷، اور حاشیہ حقیقۃ الوحی<sup>۲</sup> صفحہ ۹۷ میں تو آیت خاتم النبیین کی تحریف کرتے ہوئے آیت کے معنی یہ بتلائے۔  
"آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے" اور یہ کہ "ایک وہی ہے جس کی ٹہر سے ایسی نبوت مل سکتی ہے"  
ہم اس وقت اس بحث میں نہیں جاتے کہ خاتم النبیین کے یہ معنی لغت اور عربی زبان کے اعتبار سے ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔

اور اس بحث کو بھی چھوڑتے ہیں کہ اس نو ایجاد تفسیر کا تو یہ نتیجہ ہے کہ کسی کو نبی بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ جس پر آپ چاہیں نبوت کی مہر لگا دیں، حالانکہ ارسال رسل والعباد صرف حق تعالیٰ کا ہی کام ہے، جیسی تو وہ رسول اللہ یا نبی اللہ ہوتے ہیں ورنہ وہ رسول الرسول یا نبی الرسول ہوتے۔

مرزا صاحب کی اس غلطی کو بھی نظر انداز کرتے ہیں کہ اس غلطی کی رُو سے نبوت ایک اکتسابی چیز بن جاتی ہے کہ جو کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کر لے وہ نبی بن جائے، حالانکہ تبصر حیات قرآن کریم، نبوت حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ حنا لیس حق تعالیٰ کی موہبت ہے، وہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں نبی و رسول بنا دیتے ہیں، کسی انسان کے اختیار میں تو کیا بلکہ انسان کو اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا، قرآن شریف کا ارشاد اس مضمون کے لئے کھلا ہوا ہے :

أَلَمْ نَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ  
رِسَالَتَهُ . | یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اپنی رست  
کس کو سپرد کریں ؟

ہاں ہم اس جگہ اسی نوایا دفسیر کے اس نتیجہ پر آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس امت میں جتنے زیادہ نبی اور رسول آئیں اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوگا۔

لیکن مرزا صاحب خود بھی اس دروازہ کو اتنا کھولنا نہیں چاہتے کہ اس میں ان کے سوا کوئی دوسرا آسکے، اور تیرہ سو برس میں کبھی ایک شخص کے نبی بننے کے وہ بھی قائل نہیں، تو یہ کس قدر عجیب بات ہوگی کہ جس سستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کی توجہ روحانی بقول مرزا "نبی تراش" ہے اس کی توجہ روحانی اپنے ایک لاکھ سے زائد جاں نثار صحابہ میں سے کسی کو نبی نہ بنا سکی، اور پھر ان کے بعد جن لوگوں کو آپ نے خیر العسرون منبرمایا ان میں بھی کوئی ایسا نہ نکلا جو آپ کی پیروی کر کے آپ کی توجہ روحانی سے نبی بن سکتا۔ تیرہ سو برس تک یہ توجہ روحانی معاذ اللہ کوئی کام نہ کر سکی یہاں تک کہ چودھویں صدی میں مرزا صاحب نے جنم لیا، تو اس توجہ روحانی کا ثمر و صرف ایک شخص بنا، معاذ اللہ یہ ستر ان کی تحریف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر توجہ ہے، نعوذ باللہ منہ۔

اب نبی بننے کے شوق کی ایک نئی کردٹ ملاحظہ فرمائیے۔

## ایک نئی کروٹ

مرزا صاحب کی قرآن دانی اور تفسیر ستر ان پر عنایت اسی انکشاف پر ختم نہیں ہوتی جو "حقیقۃ الوحی" میں لکھا گیا ہے، بلکہ اپنے اشتہار "ایک غلطی کا ازالہ" میں اس آیت کی تحریف کا ایک اور رخ بدلا ہے، اور انھیں یہ حیا بھی مانع نہیں ہوئی کہ صحیح غلط سے قطع نظر کم از کم اپنے دوسرے بیانات کے تو خلاف نہ ہو، سنئے۔

"لیکن اگر کوئی شخص اس خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بیاعت نہایت استناد و رفقی غیریت کے اسی کا نام پالیا ہو اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرہ کا انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہی، گو ظلی طور پر، پس باوجود اس شخص کے دعوائے نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا ہے، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہا

یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے :

مرزا صاحب کی اس عجیب و غریب تحقیق کا جائزہ تو بعد میں لیا جائے گا، پہلے اس پر نظر فرمائیے کہ "حقیقۃ الوحی" کی تفسیر پر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزاروں نبی آسکتے ہیں جو آپ کی توجہ روحانی سے نبی بنے ہوں، اُن کے دعوائے نبوت سے خاتم النبیین کی مہر ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اور اشتہار "ایک غلطی کا ازالہ" کی نئی تحقیق پر کسی شخص کا دعوایے نبوتِ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹنے کا مراد تو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی خاتم النبیین کے سہی معنی لئے گئے جو تمام امت نے لئے ہیں، لیکن نبی بننے کے شوق کو تناسخ و حلول کے ہندوانہ عقیدہ کی پناہ لیکر پورا کیا جا رہا ہے، کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل یا بروزن جائے وہ عین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اس کے آنے سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ اس کا آنا آپ کے سوا کسی اور نبی کا آنا نہیں خود آپ ہی کا آنا ہے۔

اب پہلے تو مرزا صاحب اور ان کی امت سے یہ پوچھئے کہ ان دونوں باتوں میں سے کونسی صحیح اور کونسی غلط ہے، خاتم النبیین کے معنی "حقیقۃ الوحی" کے بیان کے مطابق یہ ہیں کہ آپ کی مہر سے انبیاء بنتے ہیں یا غلطی کے ازالہ کی تھری کے مطابق یہ ہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، مگر خود آپ کا دوبارہ دنیا میں آنا اس کے منافی نہیں۔

## ظلی اور بروزی نبوت کی کہانی

اس کے بعد "غلطی کے ازالہ" کی غلطیاں دیکھئے :-

۱۔ اس کا حائل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے کوئی شخص ظلی یا بروزی طور پر عین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے۔

اگر یہ صحیح ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ ابتداء اسلام سے مرزا صاحب کی پیدائش تک کیا کسی اور کو بھی یہ کامل اتباع نصیب ہوا یا نہیں؟ صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ، عثمان غنیؓ، علی مرتضیٰؓ جو خیر المخلوق بعد الانبیاء کے مصداق ہیں، اور حدیث میں لَوْ كَانَتْ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمْرُوًّا وَغَيْرِهِ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، کیا یہ حضرات سب اپنی عمر کی جان نثارانہ خدمات اور انتہائی پیروی کے باوجود ظلی طور پر محمد مصطفیٰ

بن گئے تھے یا نہیں ؟

ان کے علاوہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنے جسموں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا کر دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں سے اپنے پورے بدن کو چھلنی بنا لیا، جنہوں نے آپ کے ادنیٰ اشارہ پر ساری دنیا کو چھوڑ دیا، جنہوں نے آپ کی محبت پیروی کے لئے اپنے ماں، باپ، بھائی، برادروں سے قتال کیا، اور حضور کی ایک ایک سنت پر جان دی، ان میں سے کوئی اس قابل نہ ہوا کہ ان میں محمدی چہرہ کا انعکاس ہو ؟ اور اگر ان بزرگوں کو بھی یہ درجہ حاصل ہوا ہے تو کیا مرزا صاحب ان میں سے کسی کی تاریخ میں دعوائے نبوت کا کوئی ادنیٰ اشارہ بھی دکھا سکتے ہیں ؟

۲۔ مرزا صاحب نے یہ ظل دبروز کی کہانی شاید ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ و حلول سے اخذ کی ہے، لیکن بڑے شرم کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو بھی سمجھ کر نہ لیا۔

ظ در کفر تم ثابت نئی ز نادار درواکن

ظل دبروز کے جو لوگ قائل ہیں وہ کبھی اس کے قائل نہیں کہ بذریعہ تناسخ و حلول کسی دوسرے جون میں آجائے وہ بعینہ پہلا شخص ہوتا ہے، اس کے احکام اور حقوق ہی ہوتے ہیں جو پہلے شخص کے تھے، مثلاً انفرن کر لو کہ زید مر گیا اور پھر وہ کسی دوسرے جون میں آیا اس کا نام ماں باپ نے عمر رکھا، تو کسی مذہب و عقیدہ میں عمر کے جون میں آنے والے زید کو یہ حق نہیں کہ تدریم حقوق کا مطالبہ کرے۔ اپنی سابق بیوی کو بیوی سمجھے، سابق ماں باپ کو ماں باپ کہے، وارثوں میں تقسیم شدہ جائداد کو اپنی ملک قرار دے دے۔ مرزا صاحب کا فلسفہ سب سے زلا ہے، کہ اسلامی عقیدہ کو تو خراب کیا ہی تھا، ظل دبروز کے عقیدہ کا بھی ستیاناس مار دیا، کہ جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل دبروز قرار دیا اس کو یہ حق بھی دے دیا کہ وہ اپنے کو رسولِ نبی کہے، اور ساری دنیا کو اپنی نبوت ماننے پر مجبور بھی کرے، اور جو نہ ملے اس کو کافر کہے

ظ ایں کار از تو آید مرداں چنین کنند

۳۔ اس کے بعد کوئی مرزا صاحب سے یہ پوچھے کہ نبوت و رسالت کے معاملہ میں آپ کے ظل دبروز کے فلسفہ پر کیا کوئی قرآن و حدیث کی شہادت بھی موجود ہے ؟ کہیں قرآن کریم نے ظل اور دبروزی نبی کا ذکر کیا ہے ؟ یا کسی حدیث میں اس کا کوئی اشارہ ہے ؟

اور اگر ایسا نہیں تو پھر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی عقیدہ و رسالت میں اس ہندوانہ عقیدہ کو ٹھونسنا کونسی دینی روایات یا عقل و شریعت ہے ؟  
 ۳۔ صرف یہی نہیں کہ بروز اور نبی بروزی کے پیدا ہونے سے احادیث و سترآن کی نصوص خالی اور ساکت ہیں، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس کے بطلان کا اعلان صاف صاف کر رہی ہیں۔

ملاحظہ ہو وہ حدیث جو اس آخری نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے آخری اوقات حیات میں بطور وصیت ارشاد فرمائی اور جس کے الفاظ یہ ہیں۔

<p>”اے لوگو! مبشراتِ نبوت میں سے سوائے اچھے خوابوں کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔“          (روایت کیا اس کو مسلم و نسائی وغیرہ نے ابن عباسؓ سے)۔</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مَبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا الشُّبُهَاتُ الصَّالِحَةُ الْحَدِيثُ (رداء مسلم و النسائی وغیرہ عن ابن عباس)</p>
--	---

اور اسی مضمون کی ایک حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

<p>”نبوت میں سے کوئی جزو باقی نہیں رہا سوائے اچھے خوابوں کے“</p>	<p>لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمَبَشِّرَاتُ (بخاری کتاب التہذیر و مسلم)</p>
--	---

اور نیز امام احمد اور ابوسعید اور ابن مردودہ نے اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو الطفیلؓ سے بھی روایت کی ہے، اور امام احمد اور خطیب نے بھی یہی مضمون بروز عائشہ صدیقہؓ نقل کیا ہے، جن میں سے بعض کے الفاظ یہ ہیں۔

<p>”نبوت تو جاتی رہی اور اچھے خواب باقی گئے“</p>	<p>ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمَبَشِّرَاتُ</p>
--	---

الغرض ان متعدد احادیث کے مختلف الفاظ کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ نبوت ہر قسم کی بالکل مختتم اور منقطع ہو چکی، البتہ اچھے خواب باقی ہیں، جو کہ نبوت کا چھیا لیسواں جزو ہیں (جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہما کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے)

لیکن ظاہر ہے کہ کسی چیز کے ایک جزو موجود ہونے سے اس چیز کا موجود ہونا لازم نہیں آتا، اور نہ جزو کا وہ نام ہوتا ہے جو اُس کے کل کا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ صرف

نمک کو پلاؤ کہا جائے، کیونکہ وہ پلاؤ کا جزو ہے، اور یا ناخن کو انسان کہا جائے، کیونکہ وہ انسان کا جزو ہے، اسی طرح ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کو نماز کہا جائے، کیونکہ وہ نماز کا جزو ہے، یا کھلی کرنے کو غسل کہا جائے کیونکہ وہ غسل کا جزو ہے، اور پانی کو روٹی کہا جائے کیونکہ وہ روٹی کا جزو ہے۔

غرض کوئی اہل عقل انسان جزو اور کل کو نام میں بھی برابر نہیں کر سکتا ہے، احکام کا تو کتنا کیا، پس اگر نمک کو پلاؤ اور پانی کو روٹی اور ایک ناخن یا ایک بال کو انسان نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے چھالیسویں جزو کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتے۔

خلاصہ یہ کہ حدیث میں نبوت کے بالکل یہ انقطاع کی خبر ہے کہ اس میں سے نبوت کی کوئی خاص قسم یا اس کا کوئی فرد مستثنیٰ نہیں کیا گیا، بلکہ استثنا کیا گیا تو صرف چھالیسویں جزو کا کیا گیا ہے جس کو کوئی انسان نبوت نہیں کہہ سکتا۔

اب منصف مزاج ناظرین نے غور سے کام لیں کہ اگر نبوت کی کوئی نوع یا کوئی جزئی مستقل یا غیر مستقل تشریحی یا غیر تشریحی ظنی یا بروزی عالم میں باقی رہنے والی تھی تو بجائے اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے چھالیسویں جزو کا استثنا فرمایا ضروری تھا کہ اس نوع نبوت کا استثنا فرماتے۔

اور جب کہ آپ نے استثنا میں صرف نبوت کے چھالیسویں جزو کو خاص کیا ہے تو یہ کھلا ہوا اعلان ہے کہ یہ بروزی نبوت جو مرزا صاحب نے ایجاد کی ہے (اگر بالفرض کوئی چیز ہے اور اس کا نام نبوت رکھا جا سکتا ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بھی عالم میں موجود نہ رہے گی۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

” بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہم السلام کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا کہ خلفاء کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُؤُكُمْ  
الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ  
نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ  
خُلَفَاءُ يُكَلِّمُونَ، قَالُوا مَنْ  
تَأْمُرْنَا يَا نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ فُؤَا  
بِيعَةَ الْأَدْلِ فَلَا أَدْلَ أَعْلَمُوهُمْ

حَقَّقْتُمْ الْحَدِيثَ (بخاری ج ۱۱ ص ۴۹۱) و  
 مسلم کتاب الايمان و مسند احمد ص ۳۱۳ باب  
 ماجہ و ابن جریر و ابن ابی شیبہ

آپ نے فرمایا یکے بعد دیگرے ان کی  
 بیعت کا حق ادا کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں غور کرو کہ کس طرح اول تو نبوت کے  
 بالکلیہ انقطاع اور اختتام کی خبر دی، اور پھر جو چیز نبوت کے قائم مقام آپ کے  
 بعد باقی رہنے والی تھی اس کو بھی بیان فرما دیا، جس میں صرف خلفاء کا نام لیا گیا ہے۔  
 اگر آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا تھا، اور نبوت کی کوئی قسم بروزی یا ظلی،  
 مستقل یا غیر مستقل، تشریحی یا غیر تشریحی دنیا میں باقی رہنے والی تھی تو سیاق کلام کا  
 تقاضا تھا کہ اس کو ضرور اس جگہ ذکر فرمایا جاتا۔

اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نبوت کا قائم مقام صرف خلافت  
 کو قرار دیا ہے، تو یہ صاف اس کا اعلان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی بروزی وغیرہ  
 نہیں ہو سکتا۔

۶۔ حضرت ابو مالک اشعریؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے ارشاد فرمایا :-

إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نَبُوءًا  
 وَرَحْمَةً وَكَامِنًا خِلَافَةً وَرَحْمَةً  
 (رواہ الطبرانی فی الکبیر)

اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ابتداً نبوت  
 اور رحمت بنا یا اور اب خلافت اور  
 رحمت ہو جانے والا ہے۔

اس حدیث میں بھی اختتام نبوت اور اس کے بالکلیہ انقطاع کے ساتھ یہی  
 ارشاد فرما دیا کہ نبوت رحمت ختم ہو کر خلافت رحمت باقی رہے گی، جس میں صاف  
 اعلان ہے کہ نبوت کی کوئی قسم بروزی یا ظلی وغیرہ باقی نہیں رہے گی، ورنہ ضروری تھا  
 کہ بجائے خلافت کے اس کے ذکر کو مقدم رکھا جاتا۔

۷۔ آخر میں ہم ناظرین کی توجہ ایک ایسے امر کی طرف منعطف کرتے ہیں کہ جس  
 میں تصور اس غور کرنے سے ہر شخص اس پر بلا تامل یقین کرے گا کہ آپ کے بعد کسی قسم کا  
 کوئی نبی بروزی یا ظلی وغیرہ نہیں ہو سکتا۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ غالباً کوئی ادنیٰ مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، آپ کو دنیا کی تمام چیزوں میں اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے، اور اسی طرح اس سے زیادہ کوئی چیز رنج دہ اور باعث تکلیف نہیں کہ لوگ آپ کی ہدایت کو قبول نہ کریں۔ خداوند سبحانہ اپنے رسول کی رحمت و شفقت کو اس طرح بیان فرماتا ہے:-

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ  
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ  
رَّحِيمٌ ط

• سخت گراں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر تمہاری تکلیف، وہ تمہاری ہدایت پر حرص میں اور مسلمانوں پر شفیق و مہربان ہے۔

اور دوسری جگہ آپ کی تبلیغی کوششوں کو ان وزن دار الفاظ میں بیان فرمایا ہے:-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّقِرٌّ عَلٰى اٰنَارِهِمْ  
اِنَّ لَمَ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ط

• شاید آپ اپنی جان اُن کے پیچھے ہٹان کریں گے اگر وہ ایمان نہ لائیں یہ۔

پھر اس نبی اُمّی (فداہ ابی راسی) کے ارشاد و تبلیغ پر جانگاہ کوشش، مخلوق کی ہدایت کے لئے سخت ترین جفاکشی، ان کی سخت سے سخت ایذاؤں پر صبر و تحمل، کفار کی جانب سے پتھروں کی بارش کے جواب میں،

اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ  
لَا يَعْلَمُوْنَ ط

• اے اللہ! میری قوم کو ہدایت کر، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہے۔

فرمانا ایک ناقابل انکار مشاہدہ ہے جو آپ کی اُس شفقت کی خبر دے رہا ہے جو کہ آپ کو خلق اللہ کی ہدایت کے ساتھ تھی۔

اور اسی وجہ سے آپ نے امت کو ایسی سیدھی اور صاف روشن مشاہدہ پر چھوڑا ہے کہ قیامت تک اس پر چلنے والے کے لئے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ لَيْسَ لَهَا دَرْهَقًا وَهَاسًا سَوَاءٌ كَمَا مَعْدَاقُ هِيَ، یعنی اس کا رات دن برابر ہے۔

آپ کے بعد قیامت تک جس قدر فتنے پیدا ہونے والے تھے اگر ایک طرف ان کی ایک ایک خبر دے کر اُن سے محفوظ رہنے کی تدبیریں امت کے لئے بیان فرمائیں، تو دوسری جانب اس امت میں جس قدر قابل اتباع و متابعت و تقلید انسان پیدا ہونے والے تھے، ان میں ایک ایک سے امت کو مطلع فرما کر ان کی اقتدار کا حکم دیا۔

غرض کوئی خیر باقی نہیں کہ جس کی تحصیل کے لئے امت کو ترغیب نہ کی ہو، اور کوئی شر باقی نہیں کہ جس سے امت کو ڈرا کر اس سے بچنے کی تاکید نہ فرمائی ہو۔

چنانچہ آپ نے اپنے بعد امت کو حضرت ابو بکر صدیقؓ اور فاروق اعظمؓ کی اقتدار کا حکم کیا اور فرمایا :-

اِقْتَدُوا بِأَيِّ الذِّينِ مِنْ بَعْدِي  
إِنِّي بَنِي وَرَعَمَتَهُ (بخاری و مسلم)

” ان دو شخصوں کا اقتدار کرو جو میرے بعد  
خلیفہ ہوں گے یعنی ابو بکرؓ و عمرؓ“

نیز آپ نے ارشاد فرمایا :-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ  
الرَّاشِدِينَ۔

میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے  
راشدین کی سنت کو جو

اور فرمایا :-

إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَائِنَ أَخَذْتُمْ  
بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ اللَّهِ  
عِزَّتِي۔

” میں تمہارے لئے ایسی دو چیزیں چھوڑتا  
ہوں کہ اگر تم نے ان کے اتباع کو لازم پکڑا  
تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، ایک خدا کی کتاب

دوسری میری عزت و اہل بیت“

(نسائی، ترمذی ص ۱۱۳۴)

پھر اطلاع دی کہ ہر سو سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا جو امت کی عملی خرابیوں کی اصلاح منسوخ کرانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک سنت پر قائم کرے گا اور آپ کی مردہ سنتوں کو زندہ کرے گا۔ (رداء البوادر والحاکم والبیہقی فی المعرفۃ)

اور ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور اس امت کے لئے امام ہو کر ان کی عملی خرابیوں کی اصلاح فرمائیں گے، یہاں تک کہ اپنے بعد ہونے والے خلفاء کی اطاعت کا حکم منسوخ فرمایا اور اس کی یہاں تک تاکید فرمائی کہ ارشاد ہوتا ہے :-

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّمَعِ  
وَالطَّاعَةِ وَكُلُوا مِنْ عَيْدِي  
حَبِيبِي مَجْدُوحِ الْأَطْرَافِ۔

” میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا  
ہوں اور خلفاء کی اطاعت و فرمانبرداری کی  
اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام لشکر، نولا

حاکم بنا دیا جائے“

(مسند احمد، البوادر، ترمذی ص ۲۱۰۰ ابن ماجہ، حاکم)

اب منصف ناظرین غور فرمائیں کہ اگر اس امت میں کوئی کسی قسم کا نبی بروزی یا ملی وغیرہ پیدا ہونے والا تھا تو ضروری تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کا ذکر فرماتے اور اس کے اتباع کی تاکید فرماتے، تاکہ یہ امت مرحومہ ان کے انکار و تکذیب سے کافرنہ ہو جائے، ورنہ ایک عجیب حیرت انگیز معاملہ ہو گا کہ آپ اپنی امت کو اپنا جہشی غلام کی اتباع کا تو حکم فرمائیں، اور اس کی نافرمانی سے ڈرائیں، لیکن ایک خدا کا نبی جو دنیا میں آپ کے بعد (برنگ بروز) پیدا ہونے والا ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہ فرمائیں، حالانکہ یہ بھی ظاہر ہے کہ خلیفہ کی اطاعت سے باہر ہونا زیادہ سے زیادہ فسق ہو سکتا ہے، بجلات نبی کے کہ اس کا انکار قطعی کفر ہے۔ ایک شخص اگر تمام سترآن پر عمل کرے اور تمام انبیاء پر ایمان لائے مگر صرف ایک نبی کا انکار کرے تو وہ منہس قرآن اور باجماع امت کافر ہے۔

خدا کے لئے سوچو اور غور کرو کہ وہ نبی جس کو خداوند عالم، رؤف رحیم الرحمن اللطیف کا خطاب دیتا ہے مخلوق کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی خبر دیتا ہے اور خلفاء و امراء بلکہ ایک جہشی غلام کے اتباع کی طرف بلاتا ہے، مگر آئندہ پیدا ہونے والے نبی کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور کسی ایک حدیث میں اشارہ بھی نہیں کرتا کہ چودھویں صدی میں ہم خود دوبارہ برنگ بروز دنیا میں آئیں گے، اس وقت ہماری تکذیب نہ کرنا۔ امت کو معمولی گناہوں سے بچنے کی تو ہدایت کرتا ہے مگر ان کو کفر صریح میں مبتلا ہونے سے نہیں روکتا۔

اگر معاذ اللہ واقعہ یہی ہے تو وہی مثل صادق آئے گی کہ قَسْرًا مِنَ الْمُعْطَىٰ وَوَقَعَ تَحْتَ الْمِيزَابِ "یعنی بارش سے بھاگ کر پناہ کے نیچے آپڑے؛ جس کی وحار بارش سے کہیں زائد ہے۔ اور خاک بدن یہ کہنا پڑے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت اور امت کی خیر خواہی میں کوتاہی کی کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا کر اہم کلاموں سے غافل کر دیا۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث میں اس کا صاف اعلان ہے کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی بروز، ظلی، تشریحی، غیر تشریحی پیدا نہیں ہو سکتا۔

یہاں تک جو کلام کیا گیا وہ صرف آیت خاتم النبیین کے متعلق تھا، اور ہمارے گذشتہ کلام میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ مسئلہ زیر بحث میں بہت سی آیات ہدیہ ناظرین

کرنا ہے، لیکن جس تحقیق و تفصیل کے ساتھ آیت مذکورہ کو بیان کیا گیا ہے اگر ہر آیت پر ایسی ہی تفصیلی بحث کی جائے تو یہ مختصر رسالہ ایک طویل دفتر بن جائے گا، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ باقی آیات کی تفسیر میں زیادہ اختصار سے کام لیا جائے۔

## ختم نبوت کے ثبوت میں دوسری آیت

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا  
(سورہ مائدہ، پارہ ۶)

” آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا،  
اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور  
تمہارے لئے دین اسلام ہی پسند  
کیا۔“

شان نزول | یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں عرفہ کے دن یوم جمعہ میں نازل ہوئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نازل ہونے کے بعد اکیاشی روز سے زیادہ دنیا میں زندہ نہیں رہے۔ (ابن کثیر، درمنثور)

اور اس عرصہ میں بھی اکثر احادیث و آثار سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم حلت و حرمت وغیرہ کا نازل نہیں ہوا (مکا بینہ ابن کثیر و ابن حبریر بالروایات)

صرف دو تین آیات ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بیان کیا جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اسی آیت کو آخری آیت قرار دیا ہے (دیکھو اتقان للسیوطی وغیرہ) حاصل یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس امت مرحومہ کی ایک بہت بڑی مخصوص فضیلت اور شرافت کا اعلان کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی حضرت فاروق عظیمؓ سے ایک مرتبہ کہا کہ اے امیر المؤمنین! تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، جس دن یہ نازل ہوئی، آپ نے فرمایا وہ کونسی آیت ہے؟ یہودی نے کہا:-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
فاروق عظیمؓ نے جواب دیا:-

قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ  
الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَهْوًا  
ثَائِمٌ بَعْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ  
(بخاری مسلم)

- ہم اُس دن اور اُس جگہ کو خوب جانتے  
ہیں جس میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن  
اُس وقت نازل ہوئی جب کہ آپ  
عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے ۛ

مطلب یہ تھا کہ اس دن ہمارے لئے دو عیدیں تھیں، یوم عرفہ اور یوم جمعہ،  
چنانچہ درمنثور میں بوالہ سند اسحق بن راہویہ اور مسند عبد بن حمید کے اس واقعہ  
میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ لَنَا  
عِيدًا .

- اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمارے  
لئے اس دن کو عید بنایا ۛ

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس دن پانچ عیدیں جمع تھیں، جمعہ، عرفہ،  
عیدِ بیود، عیدِ نصاریٰ، عیدِ مجوس۔ اور دنیا کی تاریخ میں (نہ اس سے پہلے اور نہ اس  
کے بعد) تمام مل دنیا کی عیدیں کبھی آج تک جمع نہیں ہوئیں۔ (غازن ۴۳۵، ۱۵)

غرض کہ یہ آیت شریفہ اس امت کی اس عظیم الشان خصوصی فضیلت کو بیان  
کر رہی ہے جو باقرار اہل کتاب اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملی، یعنی خداوند عالم  
نے اپنا دین مقبول اس امت کے لئے ایسا کامل فرما دیا کہ قیامت تک اس میں ترمیم  
کی ضرورت نہیں۔ عقائد، اعمال، اخلاق، حکومت، سیاست، شخصی آداب،  
حرام و حلال، مکروہات و مستحبات کے قوانین اور قیامت تک کے لئے تمام ضروریات  
معاش و معاد کے اصول اُن کے لئے اس طرح کھول دیئے کہ وہ تاقیام قیامت کسی  
نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کے محتاج نہیں، یہاں تک کہ اس خیر الامم کے پیشوا  
سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس عالم ظاہری سے رخصت ہوئے  
ہیں جبکہ وہ اپنی امت کے لئے ایک ایسی صاف و سیدھی اور روشن شاہراہ تیار  
فرما چکے ہیں جس پر چلنے والے کو دن اور رات میں کوئی خطرہ مانع نہ ہو، چنانچہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔

تَرَكْتُكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُعَاجِزُ بَيْنَكُمْ

- میں نے تمہیں ایک کلمات روشن راہ مستقیم

لَيْسَ كَمِثْلِهَا ذَنْبُهَا سَوَاءٌ . | پر مپوڑا ہو کہ جس کا رات دن برابر ہے :  
یہاں تک کہ یہ امت کسی دوسرے دین اور دوسری نبوت کی محتاج نہیں رہی ۔  
بہر حال یہ آیت حکم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے دین کو مجہد و جودہ کامل  
فرمادیا ہے ، اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کی ضرورت  
ہے اور نہ کسی نئے دین کی ۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آیت مذکورہ میں اکمالِ دین سے مراد یہ ہے کہ  
فرائض اور سنن اور حدود و احکام اور حلال و حرام کو مکمل بیان فرمادیا گیا ، اور اس  
کے بعد کوئی حلال و حرام نازل نہیں ہوا ، اور نہ اس کی قیامت تک ضرورت رہی ۔  
اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اکمالِ دین سے یہ مراد ہے کہ یہ دین قیامت  
تک رہنے والا ہے ، کبھی منسوخ یا مندرس اور بے نام و نشان نہ ہوگا ۔ اور بعض مفسرین  
نے اس امت کے لئے اکمالِ دین کی یہ مراد قرار دی ہے کہ یہ امت ہر ایک نبی اور ہر  
آسمانی کتاب پر ایمان لائی ، کیونکہ تمام انبیاء اور تمام کتابیں اس امت سے پہلے صفحہ  
وجود میں آچکی ، بخلاف تمام پہلی امتوں کے کہ ان کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی ، کیونکہ  
ان کے زمانہ میں تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں وجود ہی میں نہیں آئی تھیں ۔

بہر حال مذکورہ القدرتوں کی تینوں تفسیروں میں سے اکمالِ دین کی جو تفسیر بھی رکھی جائے یہ  
آیت ہمارے زیر بحث مسئلہ ” ختم نبوت “ کے لئے ایک روشن دلیل ہے ، کیونکہ تینوں  
تفسیروں کا حاصل یہ ہے کہ اس دین کے بعد کوئی دین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی  
تا قیامت پیدا نہ ہوگا ، انہی مذکورہ بالا تفسیر پر ذیل کی احادیث اور آثار اور اقوال مفسرین شہیں ،  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ | " حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت

لے کہ زانی التفسیر المشی بہ باب التادیل ۱۳۴۵ ج ۱ ۷۰ خازن ۳۲۵ ج ۱۲ ۱۱۲

سے ممکن ہے کہ کسی کو اس جگہ شبہ پیدا ہو کہ خود حضرت ابن عباس ہی راوی ہیں کہ آیت ربّ اس کے بعد نازل  
ہوئی ہے لیکن اگر ہم بحیثیت سند اس کو صحیح بھی مان لیں تب بھی آپ کی مراد آیت ربّ سے آخر سورہ بقرہ  
آیت الذین یا کون الربؤ لا تقومون الایہ مراد ہے ، اور ظاہر ہے کہ حومت ربّ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی  
اور یہ آیت مثل اور دوسری آیت کے محض زیادہ تویح اور تہدید کے لئے ہے ، واللہ اعلم ۱۲

ہے کہ اس آیت کے بعد نہ کوئی حلال کرے نہ حلال  
حکم نازل ہوا اور نہ حرام کرنے والا، اور نہ  
کوئی چیز منسرفرائض و سنن میں اور نہ حد  
اور وہ حکم احکام میں سے؛

لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَلَالٌ  
وَلَا حَرَامٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْفَرَائِضِ  
وَالسُّنَنِ وَالْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ  
(تفسیر مظہری، صفحہ ۸، سورہ مائدہ)

اور امام المغضربین ابن جریر نے مدنی سے نقل کیا ہے۔

یہ دن جو آیت میں مذکور ہے یوم عرفہ ہے  
پس اس کے بعد نہ کوئی حلال نازل ہوا  
نہ حرام، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
وہاں سے واپس ہوتے ہی وفات پائے؛

قَالَ هَذَا النَّزْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَمْ  
يَنْزِلْ بَعْدَ هَذَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ  
وَرَحِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ فَمَاتَ (مؤثر مشورہ ۲۵۹)

الغرض کم از کم یہ آیت آیا حکام میں سے آخری آیت ہو، اور آئندہ کیلئے انقطاع یعنی نبوت کی خبر دے ہی ہو  
اور حدیث میں ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فاروق اعظمؓ رونے لگے، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ فاروق اعظمؓ نے عرض کیا۔

”تحقیق ہم اپنے دین میں زیادتی اور ترقی  
میں تھے، لیکن جب وہ کامل ہو گیا، اور  
عادت اللہ اسی طرح جاری ہو، کہ جب  
کوئی شے کامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ناقص  
ہو جاتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اور یہی آیت  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات  
سمجھی گئی، اور آپ اس کے بعد صروت  
کیا کسی روز اس عالم میں فتنہ رہے؟“

إِنَّا كُنَّا فِي زِيَاةٍ مِّنْ دِينِنَا فَمَا  
أَزَاكُنَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشِيءُ  
إِلَّا نَقَصَ قَالَ صَدَّقْتَ وَكَانَ  
هَذِهِ الْآيَةُ نَعَى رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاشَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَحَدًا أَوْ ثَمَانِيَيْنِ يَوْمًا -

رواہ ابن ابی شیبہ وابن جریر والبخاری وموطا  
بارد بن عسرة، از دفتر تفسیر مظہری

فاروق اعظمؓ کا یہ واقعہ مذکور سابق تفسیر کی روشنی میں اور کئی شہادت ہے، کیونکہ اگر

انکال دین اور تمام نعمت سے نزول احکام دین کا اختتام اور وحی نبوت کا انقطاع  
اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد نہ تھی تو فاروق اعظمؓ کا اس موقع  
پر رونے کا عمل اور بے معنی ہو جائے گا۔

اور امام المفسرین علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لئے دین کو کامل فرمایا، لہذا امت محمدیہ نہ تو کسی دین کی محتاج ہے نہ اور کسی نبی کی، اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا، اور تمام جن و بشر کی طرف مبعوث فرمایا۔“

هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَيْثُ أَكْمَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكُمْ دِينَهُمْ فَلَا يُحْتَابُ بَعْدَ إِلَيْهِ دِينٌ غَيْرُهُ وَلَا إِلَىٰ نَبِيٍّ غَيْرِهِمْ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَعَثَهُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْحَقِّ (ابن کثیر، ص ۳۵۲۷)

ابن کثیر کی اس تفسیر سے جیسا کہ اکمال دین کے معنی حسب تحریر سابق معلوم ہوئے، اسی طرح اس کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ آپ کے بعد نہ کسی شریعت اور صاحب شریعت نبی کی ضرورت ہے اور نہ مطلق نبی کی، صاحب شریعت ہو یا نہ ہو۔ اور علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قفال مروی سے نقل کرتے ہیں، اور خود بھی اسی کو اختیار فرماتے ہیں:-

”دین الہی کسی ناقص نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ سے کامل تھا، اور تمام شرائع الہیہ اپنے اپنے وقت کے لحاظ بالکل مکمل اور کافی تھیں مگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ شریعت جو آج کامل ہے کل کافی نہ ہے گی، اور اس لئے وقت مقرر پر پہنچ کر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آخر زمان بے پشت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت کامل بھیجی جو ہر زمانہ کے اعتبار سے کامل ہے، اور اس کے تاقیامت باقی رہنے کا حکم فرمایا۔“

غلام یہ کہ پہلی شریعتیں بھی کامل

إِنَّ الدِّينَ مَا كَانَ نَاقِصًا لَبَّيْنَاكَ بَلْ كَانَ أَبَدًا كَامِلًا كَانَتْ الشَّرَائِعُ النَّازِلَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَافِيَةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَالَىٰ كَانَ عَالِمًا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْبُعْثَةِ بِأَنَّ مَا هُوَ كَامِلٌ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَيْسَ بِكَامِلٍ فِي الْعَدْوِ وَلَا بِصَالِحٍ فِيهِ لِاجْتِرَامِ كَانَ يُنْسَخُ بَعْدَ الشُّبُوتِ وَكَانَ يُزِيلُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَأَمَّا فِي آخِرِ زَمَانِ الْبُعْثَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

تعمیر، مگر ایک وقت مخصوص تک کے لئے۔ اور یہ شریعت قیامت تک کے لئے کافی اور کامل ہے، اور اسی معنی کی بنا پر اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ منسرایا گیا؟

شَرِيْعَةٌ كَامِلَةٌ وَحَكَمَهُ بِبَعَائِهَا اِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْتَّوْبَةُ اَبَدًا كَانَ كَامِلًا  
اِلَّا اَنَّ الْاَوَّلَ كَمَالٌ اِلَى يَوْمٍ مَّغْضُوْبٍ  
وَالْتَّانِي كَمَالٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
فَلَا جُلْ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْيَوْمَ  
اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ.

امام بلذی کی اس تحریر سے بھی یہ امر واضح ہو گیا کہ اکمالِ دین کی مراد وہی ہے جو اوپر عرض کی گئی، اور اس امت کے لئے اکمالِ دین کی غرض یہ ہے کہ یہ امت آخرالام ہے، اور اس کا زمانہ آخر زمانِ بعثت ہے، کہ اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ کیا جائے گا۔

تیسرا امام موصوف نے اپنے اس بیان سے مخالفین کا یہ شبہ بھی اٹھا دیا کہ اس آیت سے پہلے تمام ادیان سماویہ اور شرائع سابقہ کا ناقص ہونا لازم آتا ہے جس میں چند خرابیاں ہیں، ایک یہ کہ معاذ اللہ خداوند عالم کی طرف بخل کی نسبت لازم آتی ہے کہ پہلی امتوں کے لئے کامل دین نہ بھیجا۔ دوئم جب ان کے لئے دین ہی ناقص بھیجا گیا تو ان پر دارِ گور کیسی۔ سوئم اس میں ان انبیاء علیہم السلام کی بھی گونہ تنقیص ہے جن کو دین ناقص دے کر بھیجا گیا۔

امام موصوف نے اس تحریر میں ان تمام شبہات و ادوام کی جڑ قطع کر دی، اور فرما دیا کہ آیت کی ہرگز یہ مراد نہیں کہ اب سے پہلی تمام شریعتیں اور ادیان سماویہ ناقص تھے، صرف یہ دین کامل نازل ہوا۔

بلکہ ہر دین الہی اور شریعت الہیہ ہمیشہ اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے کامل تھے اور اس زمانہ کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بالکل کافی و شافی تھے، البتہ خداوند عالم کو معلوم تھا کہ آئندہ کسی زمانہ میں بوجہ انقلاب حالات یہ شریعت اور قانون آئندہ نسلوں کے لئے ناکافی ہوگا، اور اس کو منسوخ کر کے دوسرا دین اور شریعت بھیجی جائے گی، لہذا پہلی تمام شرائع و ادیان سماویہ کا کمال صرف اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے تھا، اور یہ دین تین جس کو لیکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قیامت تک کے لئے ہدایت و رہبری کا وثیقہ ہے، اس کا کمال غیر موقت اور ہمیشہ کے لئے ہے۔

خلاصہ یہ کہ دین الہی کوئی ناقص نہیں سب کامل میں، فرق صرف اتنا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام خاص خاص مدت اور خاص خاص لوگوں کے لئے مبعوث ہوتے تھے ان کی بعثت نہ باعتبار زمانہ کے عام اور باعتبار انسانوں کے طبقات کے عام اور سب پر محیط ہوتی تھی، اسی طرح ان کی شریعتیں بھی ہمیشہ کے لئے تھیں، لیکن اس سے نہ ان انبیاء علیہم السلام کی توہین ہوتی ہے اور نہ پہلے ادیان و شرائع کا ناقص ہونا لازم آتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام جن دانس کی طرف قیامت تک کے لئے مبعوث ہوئے، اسی طرح آپ کا دین بھی قیامت تک کے لئے کافی اور کامل ہوا، اور یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شرافت اور آخر الامم کی مخصوص فضیلت ہے۔ وذلک الفضل من اللہ یؤتیہ من یشاء۔

نیز تفسیر لباب التاویل معروف بن خازن صفحہ ۴۳۵ میں بھی آیت مذکورہ کی یہ تفسیر منقول ہے:-

۳- آیت املتکم دینکم کی تفسیر یہ ہے کہ فراموش اور دشمن اور صلہ اور احکام اور حلال و حرام کے میان سے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد حلال و حرام یا شریعتیں میں سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔

یہی قول ہے حضرت ابن عباس

۴

وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْآيَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى  
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيُنْفِئُ  
بِالْفَرَاغِ وَالشَّنِّ وَالْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ وَالْحَلَالِ  
وَالْحَرَامِ وَكَمْ يَنْزِلُ بَعْدَ  
هَذِهِ الْآيَةِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ  
لَا شَيْءٌ مِّنَ الْفَرَاغِ هَذَا مَعْنَى  
قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے:-

۴- اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا اور پہلی بار شرائع کو آپ کی شریعت کے ذریعہ ایک اعتبار سے مکمل فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا جَعَلَ النَّبُوَّةَ  
بَنِيَّتَنَا مُخْتَلِمَةً وَجَعَلَ  
شَرَايِعَهُمْ بِشَرِيْعَتِهِ مِنْ وَجْهِ  
مُنْتَبِحَةٍ وَمِنْ وَجْهِ مُكْمِلَةٍ  
مُشَبَّهَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ | ہے ایوم اَکَلتُ کَلِمَ الْاٰیَةِ :  
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْاِ

اور تفسیر مدارک صفحہ ۲۲۵ جلد اول میں بھی یہی تفسیر مذکور ہے ، اور کتاب الاعتصام صفحہ ۴۲، جلد اول میں اور اسی طرح تفسیر درخشور صفحہ ۲۵۹ جلد دوم میں بھی اکمالِ دین کی یہی تفسیر کی گئی ہے ۔

تمام تفاسیر معتبرہ و مستندہ اور جملہ صحابہ کا اس آیت کو آپ کی خبر و نجات سمجھنا صحت اسی تفسیر کی روشن دلیل ہے جو ہم نے عرض کی ہے ائمہ مفسرین اکمالِ دین کی اس تفسیر پر متفق ہیں ، وہو المراد ۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | اگرچہ ہم آیت مذکورہ میں اکمالِ دین کی مذکورۃ العذر تفسیر کو احادیث اور آثار صحابہ اور ائمہ تفسیر کے مستند اقوال سے ثبوت کر چکے ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ۔

لیکن اگر کوئی معاند اب بھی یہ تاویل کرے کہ اکمالِ دین کے لغوی معنی صرف دین کو کامل کرنے کے ہیں اور دین کو کامل کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام ادیان دنیا پر غلبہ عنایت فرمایا اور اس امت کو تمام دشمنوں سے محفوظ فرمایا ۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اکمالِ دین کی غرض یہ ہو کہ جس سال میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس سال فتح مکہ کی وجہ سے موسم حج تمام مشرکین کے تسلط سے پاک ہو گیا تھا ، تو ممکن ہے کہ امن و امان کے ساتھ حج کرنے کو اکمالِ دین سے تعبیر کیا گیا ہو ۔

سو اس کے متعلق ہم صرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوئے کا واقعہ اور آپ کا اُن کے خیال پر تصدیق فرمانا وغیرہ کی یاد دہانی کہ دینا کافی سمجھتے ہیں ، کیونکہ ادیان پلاس دین کا غالب ہونا یا موسم حج کا کفار سے خالی ہونا کسی عقلمند انسان کے لئے رونے کا باعث نہیں ہو سکتا ، نیز اگر اکمالِ دین کے یہی معنی تھے تو پھر سلف کے اس کلام کے کیا معنی ہوں گے :

وَكَانَ هَذَا نِعْمَتِي وَسُؤْلِ اللَّهِ | اور یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . | خبر و نجات سمجھی ہو :

علاوہ بریں اس وقت تک یہ بھی صحیح نہیں کہ اسلام تمام ادیانِ باقیہ پر غالب ہو گیا تھا، کیونکہ تمام عجم اُس وقت تک کفر و شرک کی ظلمات سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ سیرت کی معتبر کتابیں اور آثار صحابہ اس پر شاہد ہیں۔

نیز وہ آثار و اقوالِ ائمہ تفسیر جو اکمالِ دین کی اسی تفسیر پر متفق ہیں جو ہم نے عرض کی اس تفسیر کے خلاف ہیں، لہذا ان تمام امور کا لحاظ کرتے ہوئے صرف ایک احتمال دہی کو بے وجہ تفسیر متسران بنا کر کسی طرح مناسب نہیں۔ **وَ اِنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلَى سَوَاءٍ السَّبِيلِ**۔

”اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر ایسا رسول تمہارے پاس آیا جو تمہاری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سب ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو“

ختم نبوت کے ثبوت | **وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ**  
میں تیسری آیت | **التَّيِّبِينَ لَمَّا اَتَيْتُكُمْ**  
مِنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ  
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا  
مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ

آل عمران، پ ۱

اس آیت میں خداوند عز و جل نے اس عہد و میثاق کا ذکر فرمایا ہے جو ازل میں تمام انبیاء سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا ہے، آیت کی تفسیر ادوس کا پورا واقعہ بڑی تفصیل کا مقتضی ہے، علامہ سبکی نے صرف اس آیت کی تفسیر میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام **التعظیم والہمتۃ فی التوہمۃ بہ** و لنتصرفہ ہے، یہ رسالہ مواہب لدنیہ کے مقصد سادس میں باستیعاب نقل کیا ہے۔

خلاصہ تفسیر آیت کا یہ ہے کہ ازل میں جس وقت حق تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ارواح پیدا فرما کر ان سے اپنے رب ہونے کا عہد و اقرار لیا، تمام انبیاء علیہم السلام سے اس عہد عام کے علاوہ ایک عہدِ خاص بھی لیا گیا، جو ایک جملہ شرطیہ کی صورت میں تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کی حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔

جیسا کہ تفسیر ابن جریر و ابن کثیر اور تاریخ ابن عساکر میں، نیز فتح الباری میں کتاب النبیاء میں حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بالفاظ ذیل منقول ہے :-

”حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں سے جس کسی کو مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لے لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں :-

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيٌّ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَيَنْصُرَهُ كَذَانِي شَرِّهِ الْمَوَاجِبِ  
للزرقانی، ص ۱۶۳ ج ۲۔

یہ عہد خالص اگرچہ جملہ شرطیہ کے طور پر تھا، جس کا وقوع ضابطہ سے ضرور نہیں، اور حکمت و فائدہ کے درجہ میں اتنی بات کافی ہے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالتِ شان سب انبیاء پر واضح ہو گئی، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتیازی شان کو صرف جملہ شرطیہ ہی کے درجہ میں نہیں رکھا۔

بلکہ مختلف صورتوں سے مختلف مواقع میں اس خاص شان کا اظہار بھی فرمایا ہو، ایک لیلۃ المعراج میں جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع فرما کر آپ کو سب کا امام بنایا گیا اور پھر آخرت میں سب انبیاء علیہم السلام کو آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا۔

اور عالم محسوسات و مشاہدات میں شاید اسی کا یہ انتظام کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب تک زندہ رکھا گیا، کہ قرب قیامت میں ان کو پھر آسمان سے اتارا جائے گا، کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور امت کی مدد فرمائیں گے اور آپ کے دشمن دجال کو قتل کریں گے، وغیر ذلک۔

یہ سب مضمون زرقانی شرح مواہب مقصد سادس جلد سادس میں تفصیل مذکور ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگرچہ دوسرے اقوال بھی ہیں، مگر عامہ مفسرین کے نزدیک یہی تفسیر راجح بلکہ متعین ہے۔

اور اس جگہ ہمارا مطلع نظر شتمَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ کے الفاظ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے کو لفظ شتمَ کے ساتھ ادا کیا گیا ہے جو لغت عرب میں تراخی یعنی مہلت کے لئے آتا ہے، جب کہا جاتا ہے جَاءَنِي الْقَوْمُ ثُمَّ عَمَّرْتُ تو لغت عرب میں اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ پہلے تمام قوم آگئی

اور پھر کچھ مہلت کے بعد سب سے آخر میں عمر آیا۔

اس لئے النَّبِيِّينَ کے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کے یہ معنی ہوں گے کہ تمام انبیاء کے آنے کے بعد سب سے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جب کہ اغذیثیثاق میں سے کوئی نبی در رسول مستثنیٰ نہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہم السلام سے آخری بن کر ممتنعین ہو گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہ ہوگا، تشریحی و غیر تشریحی یا ظلی و بروزی کی خود ساختہ قسموں میں سے کوئی بھی اب باقی نہیں ہے۔

آیت نمبر ۴ | قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کہ جس کے لئے ملک پر آسمانوں اور زمینوں کا ہے“

آیت نمبر ۵ | تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدٍ لَّيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ط (سورہ فرقان، پک)

”یعنی مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لئے نذیر بنے، یعنی تمام عالم والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرامے“

آیت نمبر ۶ | وَإِذْ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (سورہ النساء، پک)

”یعنی ہم نے آپ کو رے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے“

آیت نمبر ۷ | وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔

”یعنی یہ سترآن تمام جہان والوں کے لئے تذکیر ہے“

آیات مذکورہ سے واضح ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہو کر تشریف لائے ہیں جس میں عرب و عجم اور شرق و غرب کے انسان داخل ہیں خواہ آپ کے زمانہ میں موجود ہوں یا آپ کے بعد قیامت تک پیدا ہوں، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریحاً ارشاد فرمایا ہے:-

أَنَا رَسُولٌ مِّنْ أَذْرِكْحَ حَيَّآدَ  
مَنْ يُؤَلِّدُ بَعْدِي (رواه ابن سعد  
عن ابی الحسن مرفوعاً، صفحہ ۱۰۱ جلد ۶)

"میں ان لوگوں کے لئے بھی رسول ہوں جن  
کو اپنی زندگی میں پاؤں اور ان کے لئے  
بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے"

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام اقوام عالم کی طرف عام ہے، خواہ اب  
موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہوں، بخلاف انبیاء سابقین کے  
کہ ان کی بعثت خاص خاص قوموں کی طرف مخصوص شہروں کے اندر ہوتی تھی، اور ان  
کی وفات کے بعد دنیاوی نظام کے اعتبار سے ختم ہو جاتی تھی، اس لئے آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند عالم کے ان انعامات کو جو صرف آپ کے ساتھ مخصوص ہیں بیان  
کرتے ہوئے منجملہ مقبول اس کو بھی شمار فرمایا ہے کہ آپ کی رسالت تمام دنیا اور  
اس کی آئندہ آنے والی نسلوں پر سب پر حاوی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم  
کی روایتوں سے ظاہر ہے۔

ادرجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی قوم، کوئی انسان، کسی  
زمانہ اور کسی قرن میں پیدا ہونے والا ستنی اور خارج نہیں، بلکہ قیامت تک دنیا  
میں پیدا ہونے والے انسان سارے آپ ہی کی امت ہیں، تو ان حالات میں اگر آپ  
کے بعد دوسرا نبی یا رسول آتا ہے تو آپ کی امت یا زمی فضیلت باقی نہیں رہتی، آپ  
کی امت پھر اس نبی کی امت کہلائے گی، جو بعد میں مبعوث ہوا، اور علیہ السلام  
چونکہ ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے، اس لئے ان کا آخر زمانہ میں بحیثیت امام کے آنا  
اس کے منافی نہیں۔

یہ آیات کریمہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے کی روشن دلائل  
ہیں۔ مزید اطمینان کے لئے ملاحظہ فرمائیں تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۵۲ جلد ۴، جس میں آیت  
نمبر ۴ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ موصوف نے تحریر فرمایا :-

وَهَذَا مِنْ شَرِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنَّ حَاتِمَةَ النَّبِيِّينَ وَ  
أَنَّ مَبْعُوثٌ إِلَى الْخَلْقِ كَأَنَّهُ  
(القول)، وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْكَيْفِ

"اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی  
فضیلت اور شرافت میں سے ہے کہ آپ  
خاتم النبیین ہیں، اور آپ تمام مخلوق کی  
طرف مبعوث ہیں، اور اس بارہ میں بہت سی

آیات نازل ہوئی ہیں جیسا کہ احادیث  
اس باب میں احاطہ سے باہر ہیں، اللہ  
بات دین اسلام میں براہتہ و ضرورت معلوم  
ہے کہ آپ تمام انسانوں کی طرف ارسال  
ہیں، جس میں سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہو۔

كَمَا إِنَّ الْأَحَادِيثَ فِي هَذَا الْكُتُبِ  
مِنْ أَنْ تُخَصَّصَ وَهُوَ مَعْلُومٌ فِي  
دِينِ الْإِسْلَامِ صُرُورًا أَنَّهُ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ رَسُولٌ  
إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ -

غرض اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عموم بعثت صراحتاً بیان کیا، اور  
اس کے لئے یہ لازم ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو، جو آپ کی امت کو اپنی طرف  
دعوت دے۔

میریں طرف اس قرآن کی وحی کی گئی  
تاکہ اس کے ذریعہ سے میں تم کو ڈراؤں  
اور تمام ان لوگوں کو جن کو یہ قرآن پہنچے؛

آیت نمبر ۱ | وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ  
لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ -  
(سورۃ الانعام، پٹ)

اس آیت میں صاف طور سے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن عزیز کی شریعت صرف ان لوگوں  
کے لئے مخصوص نہیں جو اس وقت موجود ہیں، بلکہ قیامت تک جن لوگوں کو یہ قرآن پہنچے  
ان سب کے لئے یہی حجت ہے، آئنہ و کسی کتاب و شریعت اور نبوت کی ضرورت نہیں،  
جیسا کہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔

تمام انسانوں کی جماعتوں میں سے جنہیں  
اس کا کفر کرے پس جہنم اس کا ٹھکانہ ہو؛

آیت نمبر ۲ | وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأُمَمِ  
فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (سورۃ الاحزاب، پٹ)

ابن کثیر و دیگر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ احزاب سے تمام اقوام عالم مراد  
ہیں، اس لئے یہ آیت بھی عموم بعثت اور آپ کے آخر لانبیاء ہونے کی شاہد ہے۔  
علاوہ بریں اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کے بعد نجات صرف آپ کے ہی  
اتباع میں منحصر ہے اور کسی نبی کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔

لے لوگو! بیشک لایا ہے تمہارے پاس  
پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) دین حق  
پس ایمان لاؤ اس پر بہتر ہے تمہارے لئے؛

آیت نمبر ۳ | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ (سورۃ نساء، پٹ)

اس آیت میں بھی الناس سے تمام انسان مراد ہیں، اور عموم بعثت کے ذریعہ

ختم نبوت کا ثبوت ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

آیت نمبر ۱ | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورۃ الانبیاء، پ ۱۷)

یہ آیت دو درجے ختم نبوت کا قوی ثبوت ہے۔ اول یہ کہ آیات سابقہ کی طرح یہ بھی عموم بعثت کو ثابت کر رہی ہے، اور عموم بعثت کے لئے ختم نبوت لازم ہے، جیسا کہ اوپر مفصل گزرا۔

دوم یہ کہ آیت حکم کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل عالم کے لئے رحمت ہیں، اور آپ پر ایمان لانا نجات کے لئے کافی ہے، پس اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں پیدا ہو تو آپ کی امت کے لئے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا نجات کے لئے کافی نہ ہوگا جب تک اس نبی پر ایمان نہ لائے، اور اس کے فرمان پر چلنے کا عہد نہ کرے، کیونکہ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

”آپ فرمائیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس وحی پر جو ہم پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو حضرت ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کی فرمانبرداری کریں گے“

قُلْ أُمَمًا يٰۤاَللّٰهُ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰٓ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٖلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْاَسْبَاطِ وَاُوٰىٓ مُوسٰى وَاٰمِيسٰى وَاَلنَّبِیّٖنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُمَيِّزُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝ (سورۃ آل عمران، پ ۱۷)

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:-

”جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر اور کفر کرتے ہیں بعض اور ارادہ کرتے ہیں کہ جدائی ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں میں، اور چاہتے ہیں کہ پکڑیں

اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَیَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَّخِذُوْا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِیْلًا ۝۱۰۷ اُوْشٰكُ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

حَقًّا الْاٰیۃ (سورۃ نسا، پ ۱) | اس کے پیچ میں کوئی راستہ، وہاں نہیں بلاشبہ۔  
 جس کا کھلا ہوا نشان یہ ہے کہ کوئی شخص اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب  
 تک خدائے تعالیٰ کے تمام انبیاء پر بلا فرق کے ایمان نہ لائے، اور اسی وجہ سے امت  
 محمدیہ کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان لائے اور اپنے نبی کی کامل پیروی  
 کرے مگر کسی ایک نبی پر (خواہ کسی درجہ کا ہو) ایمان نہ لائے تو اس کی ساری نیکیاں جپٹ  
 اور ایمان مردود ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا مستحق ہے، اور اسی وجہ سے انبیاء  
 سابقین اپنی امتوں کو اپنے بعد آنے والے نبی کی اطاعت کا سبق دیتے رہے ہیں، پس اگر  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا نبی پیدا ہو، خواہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی  
 یا بقول مرزا صاحب ظلی یا بروزی، بہر حال جب کہ وہ نبی ہے تو تمام امت محمدیہ کی نجات  
 اس وقت اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے میں منحصر ہوگی، اور وہ آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم پر کتنے صدق دل سے ایمان لائیں، اور آپ کی کتنی ہی پیروی کریں اس وقت  
 تک ہرگز جنت کی صورت نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ اس جدید نبی کی چوکت پر سر نہ  
 رکھ دیں، اور اُس وقت اگر آپ کا کوئی امتی یہ چاہے کہ قرآن مجید کے تیس پاروں پر  
 حرفاً حرفاً عمل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعدائت کا کامل اتباع اور  
 آپ کی سنت کی انتہائی پیروی کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے تو یہ اُس کے لئے  
 غیر ممکن ہوگا، جب تک کہ اس نبی کے سایہ میں پناہ نہ لے، جس کو دوسرے لفظوں میں  
 یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد اہل عالم کی رشد و ہدایت اور ان کی  
 فلاح و بہبود (خاک بدہن)، آپ کے دامن شفقت میں نہیں اور آج ان کی نجات  
 اُخروی آپ کے سایہ عاطفت میں نہیں ملتی، اور آج گنہگاروں اور گمراہوں کی دارِ مے  
 شفا سے رحمتہ للعالمین کا دربار خالی ہے، (نعوذ باللہ)

کیا ایسی حالت میں بھی رحمتہ للعالمین کو رحمتہ للعالمین کہا جاسکتا ہے جب کہ وہ  
 اور ان کی شریعت کا اتباع کسی ایک انسان کی نجات کا کفیل نہ بن سکے۔  
 ولہذا ثابت ہوا کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی دنیا  
 میں تجویز کرتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن مجید کی صریح آیتوں کی  
 تکذیب کر رہا ہے اور وہ آپ کو رحمتہ للعالمین نہیں مانتا۔

**فائدہ** :- مرزائیوں کا مشہور سوال ہے کہ دجال اکبر کے قتل کے لئے جب کہ ایک نبی کی ضرورت تھی تو بہت ممکن تھا کہ خداوندِ عالم اسی امت میں کوئی نبی پیدا فرمادیتا کیا ضرورت تھی کہ ایک اسرائیلی نبی کو اس کام کے لئے آسمان پر اُتھا رکھا جائے اور ضرورت کے وقت اس کو دوبارہ دنیا میں نازل فرمایا جائے۔

لیکن اگر کوئی شخص ہماری گذشتہ تقریر کو ذرا انصاف سے ملاحظہ کرے، تو یقین ہے کہ فوراً کہہ اٹھے گا کہ حکومت کا اقتضاء اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا کامل اظہار اس میں تھا کہ بچائے اس امت میں نبی کچھ پیدا کرنے کے کسی ایسے نبی کو دوبارہ اس کام کے لئے بھیجا جائے، جس پر امت محمدیہ پہلے سے ایمان لاجچی ہو، کیونکہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ اگر کوئی نبی جدید آپ کے بعد دنیا میں مبعوث ہو تو لازم ہوگا کہ اب صرف آپ کا اتباع اور آپ پر ایمان لانا امت محمدیہ کے لئے کافی نہ رہے گا، بلکہ اس نبی کی اطاعت پر منحصر ہو جائے گا جو قطعاً سید الانبیاء کی شان کے خلاف ہے، بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے کہ آپ کی امت اُن پر پہلے ہی ایمان لاجچی ہے، اور قرآن کریم اُن کی نبوت و رسالت کا اعلان کر چکا ہے تو اب ان کے نزول کے بعد امت محمدیہ کی نجات کے لئے کسی جدید بشرط کا اضافہ نہ ہوگا۔

”جو کوئی برخلاف کرے رسول کے ساتھ  
بعد اس کے کہ ظاہر ہوئی اس کے لئے ہدایت  
اور پیروی کرے سوائے راہِ مسلمانوں کے  
متوجہ کریں گے ہم اس کو جہنم متوجہ ہو اور  
داخل کریں گے ہم اس کو دوزخ میں، اور  
بڑا ٹھکانا ہے (دوزخ)“

آیت نمبر ۱۲ | وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ  
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ  
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ  
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ه  
(آخر سورۃ نساء، ۵)

منصف ناظرین غور فرمائیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا تو وہ بمقتضای آیت مذکورہ طریق مؤمنین کا اتباع کرے گا، اور یا بمقتضای نبوت لوگوں کو اپنے اتباع کی دعوت دے گا۔

پہلی صورت میں تو قلب موضوع لازم آتا ہے، اور معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے نبی دنیا میں اس لئے آتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اتباع کی طرف بلائیں، نہ یہ کہ

لوگوں کا اتباع کرنے لگیں، دیکھو قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا  
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، الآية (نساء) | اودہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، مگر صرف  
اسی لئے کہ اس کا اتباع کیا جائے

نیز ارشاد ہوتا ہے۔

لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِمَّنْ  
الْأُمُورِ لَعَنَّاكُمْ  
(سورہ حجرات، پتا) | اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت  
سے کاموں میں تمہارا اتباع کرتے تو تم  
تخلیف میں پڑ جاتے

علاوہ بریں اگر خدا کا پیغمبر بھی دنیا میں آکر طریق مؤمنین کا اتباع کرنے لگے تو پھر دُور  
صورتیں ہیں، یا تو یہ سبیل مؤمنین معاذ اللہ گمراہی اور طریق معصیت ہے، اور یا خدا کا  
سیدھا راستہ اور اس کا مقبول طریق ہے۔ پہلی صورت تو ایک ایسی بدیہی البطلان  
صورت ہے کہ کوئی ادنیٰ مسلمان بلکہ ادنیٰ عقلمند بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ  
اس صورت میں اول تو یہ لازم آتا ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن کریم لوگوں کو اس طریق مؤمنین  
کی طرف بلاتا ہے جو گمراہی کا راستہ ہے۔ دوسرے یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ خدا  
کے نبی ہدایت کرنے کے لئے بھیجے جائیں اور دنیا میں آکر خود بھی ایک گمراہی کے راستہ  
پر چلنے لگیں۔

اور دوسری صورت میں نبی کا وجود محض بے فائدہ اور اس کی بعثت محض بیکار رہ جاتی  
ہے، کیونکہ بعثت نبی کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ خدا کے بندے اس کی صراط مستقیم کو  
چھوڑ دیں تاکہ یہ نبی اُن کو سیدھے راستہ کی ہدایت کرے۔

اور جب سبیل مؤمنین ایک ایسی مستقیم سبیل ہے کہ خداوند عالم تمام اہل عالم کو  
قیامت تک اس پر چلنے کی ہدایت فرماتے ہیں، اور اس سے ہٹنے پر سخت ترین دعیید  
کرتے ہیں، تو پھر فرمائیے کہ اب کسی نبی جدید کے پیدا ہونے کی اور مرزا صاحب کے  
طرز پر اس کی نئی نئی قسمیں بنانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔

رہا عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانہ میں نازل ہونا سو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا  
کیونکہ اگرچہ وہ بعد نزول بھی ویسے ہی خدا کے ادوا العزم نبی ہوں گے جیسے قبل رفقار  
قبل نزول تھے، لیکن چونکہ اُن کی بعثت اپنے زمانہ میں بھی صرف بنی اسرائیل کی طرف

تھی نہ کہ تمام عالم کی طرف جیسا کہ آیہ کریمہ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے وہ بعد نزول بھی اس امت کی طرف بحیثیت نبوت مبعوث ہو کر نہ آئیں گے، بلکہ بحیثیت امامت تشریف لائیں گے، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور جب آپ کی تشریف آوری اس امت میں صرف بحیثیت امامت ہوگی، تو اب اس آیت سے آپ کے نزول پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

**آیت نمبر ۱۳** | مُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَكَلِيلٌ | خدا کے مقرب بڑی جماعت پر پہلوں میں

تین الآخرین، (سورہ واقعہ، ۲۷) سے اور تھوڑی پھلوں میں سے ہے؛

اس میں اس امت مرحومہ کو آخرین کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، آئندہ نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی جدید امت۔

امام المفسرین ابن جریر طبری نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے :-

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَكَلِيلٌ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ الْأَخْرُسُونَ وَقِيلَ لَهُمُ الْأَخْرُسُونَ لِأَنَّهُمْ آخِرُ الْأُمَمِ

(ابن جریر، ۴، ۲۷ ج، ۲۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جماعت ہوگی پہلی امتوں میں سے اور تھوڑے سے ہوگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو آخرین اس لئے کہا گیا کہ وہ آخر الامم ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آخرین سے امت محمدیہ مراد ہے۔

**آیت نمبر ۱۳** | مُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَكَلِيلٌ | اصحاب البیت (یعنی بنتی) جماعت کثیر ہیں پہلوں

تین الآخرین (سورہ الواقعہ، ۲۷) میں سے اور جماعت کثیر میں پھلوں میں سے ہے؛

اس آیت میں آخرین سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام مراد ہے، جو

لے لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ العیاذ باللہ آپ اس وقت نبوت معزول ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا اُس وقت اس امت میں تشریف لانا بالکل ایسا ہوگا جیسے صوبہ پنجاب کا گورنر صوبہ بہار میں کسی ذاتی ضرورت سے چلا جائے تو اگرچہ وہ اُس وقت بحیثیت گورنر نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ گورنری سے معزول ہو گیا ۱۲ منہ

مرتب ختم نبوت کا اعلان ہے۔ ہم اس کی شہادت میں وہ حدیث پیش کر دینا کافی سمجھتے ہیں، جو اس کے شان نزول میں روایت کی گئی ہے، جس کا مضمون یہ ہے :-

کہ جس وقت پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں امم سابقہ کی بڑی جماعت ہوگی، اور اس امت کی تھوڑی، تو صحابہ کرام پر یہ بات شاق ہوئی، چنانچہ ان کی تسلی کے لئے دوسری آیت نازل ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ ایک جماعت پہلی امتوں کی اور ایک جماعت اس امت کی جس میں امم سابقہ اور اس امت کو مساوات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، «ابن کثیر کو دیکھا جائے» اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کیا ہے :-

« حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت میں سے آدمے تم (یعنی آپ کی امت) ہوں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ سمجھا، پھر آپ نے یہی آیت پڑھی: ثلثة من الاولین وثلثة من الآخرین؟

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا رَجُؤَ أَنْ تَكُونُوا الشَّطْرَ (بَعْضِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) فَكَبُرْنَا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ، وَالْحَدِيثُ مِنْهُ (ابن جریر، ص ۹۸ ج ۲۷)

اور اسی قسم کی ایک روایت حضرت قتادہؓ سے بھی منقول ہے۔

اور حضرت حسنؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے :-

« ایک جماعت اولین میں سے یعنی تمام پہلی امتوں میں سے اور ایک جماعت آخرین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے؟

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (مِنَ الْأُمَّةِ) وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (ابن جریر، ص ۹۸ ج ۲۷)

اور امام المفسرین ابن جریر طبری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

« ایک جماعت اولین سے یعنی ان لوگوں کی جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گندکے ہیں، اور ایک جماعت آخرین

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ جَمَاعَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَقَبَلُوا قَبْلَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَلَاثَةٌ

یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا ہی اہل  
تفسیر صحابہ و تابعین نے فرمایا ہے:

مِنَ الْأَخِيرِينَ يَقُولُ جَمَاعَةٌ مِّنْ  
أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ قَالَ يَهْ أَهْلُ الثَّوِيلِ  
(تفسیر ابن جریر ۱۹ ج ۲۷)

خلاصہ یہ کہ ان دونوں آیتوں میں امتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو  
آخرین کے لقب کے ساتھ ذکر فرما کر اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
آخری نبی اور آپ کی امت آخری امت ہے۔

آیت نمبر ۱۶ | أَلَمْ نُنْفِخِ الْأَوَّلِينَ  
ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (مرسلہ، پ)

اس آیت میں اولین سے پہلی امتوں کے کفار مراد ہیں، اور آخرین سے اس امت  
کے، پس ثابت ہوا کہ یہ امت آخری امت ہے۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۹۲ ج ۸)

”اولین سے تمام وہ کفار مراد ہیں جو حضرت  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں،  
اور ثَمَّةٌ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ بطور  
استثنا اس معنی میں ہے کہ ہم ایسے کفار  
اور پہلے کے پیچھے چلنے کو چلائیں گے۔“

إِنَّ الْمُرَادِ مِنَ الْأَوَّلِينَ جَمِيعُ  
الْكَفَّارِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلَّاهُ  
ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ عَلَى  
الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى مَعْنَى سَنَفَعُلُ  
ذَلِكَ وَتَتَّبِعُهُمُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ.

تفسیر جامع البیان میں بھی یہی مفہوم بصراحت موجود ہے جس کا حاصل یہ  
ہے کہ آیت میں آخرین سے امتِ محمدیہ کے کفار مراد ہیں جس سے اس امت کا  
آخری امت ہونا ظاہر ہے۔

”اور اگر تم ان اشیاء کا سوال کرو گے جن کے  
سوال سے منع کیا گیا ہے، نزول قرآن کے  
زمانہ میں ان اشیاء کا ذکر کر دیا جائے گا۔“

آیت نمبر ۱۶ | وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ  
يُنزَلُ الْقُرْآنُ يُجِبْ لَكُمْ  
(سورہ مائدہ، پ)

اس آیت میں بیان اشیاء کے لئے حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ کی قید بڑھا کر  
بتلا دیا گیا کہ نزول قرآن کے بعد کوئی ذریعہ وحی کی صورت سے بیان احکام کا باقی نہ رہے گا

چنانچہ علامہ محمود آلوسی مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں :-

”یعنی بیان کرنے سے آیات میں مراد یہ ہے کہ بذریعہ وحی بیان کر دیا جائے گا جیسا کہ عین نازل القرآن کی قید سے معلوم ہوا (کیونکہ نزولِ قرآن کے بعد وحی منقطع ہو جائے گی بذریعہ وحی بیان کا)؟“

تَبَدَّلَكُمْ أَمْيَ بِالْوَحْيِ كَمَا  
يُقَيِّدُهُ تَقْيِيدُ بَعُولِهِ تَعَالَى  
حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ .

(روح ص ۷۶)

(طبع جدید)

معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ نزولِ قرآن کے زمانے کے بعد انقطاعِ وحی کا اعلان کرتی ہے،

اور وہ انقطاعِ نبوت کو مستلزم ہے۔

”وہ ہے جس نے صحیحاً اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کے تمام دینوں پر؟“

آیت نمبر ۱۸ | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  
بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (سورہ توبہ، پ ۱)

”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ صحیحاً تاکہ اس کو تمام ادیان و دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ شہادت کے لئے کافی ہے؟“

آیت نمبر ۱۹ | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  
بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَتَكْفَى بِاللَّهِ  
شَهِيدًا ط  
(سورہ فتح، پ ۲)

”وہ ہے جس نے صحیحاً اپنے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام ادیان و دینوں پر غالب کر دے اگرچہ شریکین بُرا مانیں؟“

آیت نمبر ۱۹ | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  
بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَتَكْفَى  
بِاللَّهِ شَهِيدًا ط (سورہ صف، پ ۲)

یہ تین آیات قرآن مجید کی تین سورتوں میں تقریباً متعده الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، جن میں حق تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عامہ اور دینِ حق کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے کہ تمام ادیان و دینوں پر غالب کر دیا جائے۔

ظاہر ہے کہ تمام مذاہب پر کسی کا غلبہ جب ہی ثابت ہوتا ہے جب کہ یہ شخص

تمام ادیان کے عالم میں آجانے کے بعد پیدا ہوا ہو، تو ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان اور تمام طبلِ انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا آسمانی دین اس دنیا میں نہ آئے گا۔

آیت نمبر ۲ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء، پ)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور  
رسول (محمد) کی اور ان لوگوں کی اطاعت  
کو جو تم میں سے اولی الامر ہیں؟

عامہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اولی الامر سے مراد مسلمانین اسلام اور ارباب حکومت اسلامیہ ہیں، اور بہت سے مفسرین نے ائمہ مجتہدین اور علمائے امت کو بھی اولی الامر میں داخل کیا ہے۔

بہر حال یہ آیت کریمہ حکم کرتی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور پھر خلفائے اسلام اور ارباب حکومت اسلامیہ اور علماء کی اطاعت کریں، جس میں دو درجہ سے ختم نبوت کا کھلا ہوا ثبوت ملتا ہے۔

اول اس وجہ سے کہ خداوند عالم نے آپ کی امت کی نجات کے لئے انبیاء میں سے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کافی قرار دیا ہے، اور اسی پر جنت و مغفرت کا وعدہ ہے، حالانکہ اگر کوئی نبی اس امت میں پیدا ہونے والا ہوتا تو ضروری تھا کہ اس پر ایمان لانے، اور اس کی اطاعت کو بھی نجات کی شرط بنائی جاتی، کیونکہ ہم اُپر تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ کسی شخص کی نجات اس وقت تک ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خدا کے انبیاء میں سے کسی کم سے کم درجہ کے نبی کا بھی انکار کرے یا اس کی اطاعت سے علیحدہ رہے۔

الغرض انبیاء میں سے صرف آپ کی اطاعت کو ملا نجات قرار دینا اور مغفرت

لے یہ یاد رہے کہ تمام انبیاء سابقین پر ایمان لانا بھی آپ کی اطاعت میں داخل ہے، کیونکہ آپ نے ان پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی ہے، اور آئمہ کسی نبی کے پیدا ہونے کی خبر تک نہیں دی، لہذا اس کی اطاعت آپ کی اطاعت میں درج نہیں ہو سکتی ۱۲ منہ

کے لئے کافی بتلانا اس کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی قسم کا نبی پیدا نہ ہوگا، درنہ کوئی وجہ نہیں کہ خدا کا کوئی نبی دنیا میں بھیجا جائے اور لوگ اس کی اطاعت کے لئے مکلف نہ کئے جائیں، حالانکہ خود قرآن کریم اعلان کر چکا ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ دُونِ إِلَّا  
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،

پس جب امت کی اطاعت کو انبیاء میں سے صرف آپ پر منحصر اور مختتم کر دیا گیا تو ضروری ہوا کہ نبوت بھی آپ پر مختتم ہو۔

دوم اس وجہ سے کہ اس آیت کا صاف حکم یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے بعد اولوالامر یعنی خلفائے اسلام اور ائمہ امت کی اطاعت کے لئے جن لوگوں کو خدا نے عقل و فہم کا کوئی حصہ دیا ہے وہ ذرا غور کریں، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریحی یا بقول مرزاجی غیر تشریحی، ظلی یا بردی نبی پیدا ہونے والا تھا تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ آپ کے بعد سب سے اولوالامر کی اطاعت کے اس نبی کی اطاعت کا سبق دیا جاتا، کیونکہ غالباً اس بات میں مسلمان تو مسلمان کسی مرزائی صاحب کو بھی خلافت نہ ہوگا، کہ اولی الامر کی اطاعت سے بھلنا کفر نہیں، مگر نبی کی اطاعت سے خارج ہونا قطعی کفر اور ابداً باد کے لئے جہنم کا سستی بنا دینے والا ہے، اگرچہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ اور بقول مرزا صاحب ظلی یا بردی ہی نبی ہو، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا ہونے والا تھا تو عجب تماشہ ہوگا کہ قرآن عزیز لوگوں کو اولی الامر کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے، اور بعد میں آنے والے نبی کا ذکر تک بھی نہیں کرتا۔

اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ ایک اندھا کنویں کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے اور قریب ہے کہ اس کا اگلا قدم اس کی حیات کا آخری قدم ہو، اور ساتھ ہی اس کے

لے یاد رکھو خدا کا کوئی نبی انہیں بلکہ سب کے سب اعلیٰ و ارفع ہیں، مگر انبیاء کے درجات آپس میں کم بیش اور ادنیٰ و اعلیٰ ہونا خود نصوص قرآن میں مذکور ہے۔ "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَعَلَّ أُولَئِكَ يَتَّقُونَ" پس اس جگہ اس اعتبار سے ادنیٰ کا لفظ بولا گیا ہے ۱۲۸

بدن پر ایک چوٹی بھی لگی ہوئی ہو، جس کے کاٹنے کا خیال ہے، ایک مہربان اٹھے، اور اس چند گھڑی کے مہان کو چوٹی سے بچنے کی تاکید پر تاکید کرے، مگر سامنے گھڑی ہوئی موت کا ذکر تک نہیں کرتا، کیا اس دوست نادرشمن کو دنیا کا کوئی انسان عقلمند یا اندھے کا مہربان دوست تسلیم کر سکتا ہے؟

جو لوگ ان جیسے کھلے ہوئے ارشادات کے بعد بھی کسی نبی کا اس امت میں پیدا ہونا جائز سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ اس کو ظلی یا بروزی نبی کہا کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی بزرگ ترین تعریف کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔

مسلمانو! کیا تم پسند کرتے ہو کہ آج دنیا کی غیر قومیں تمہارے قرآن کا یہ مفہمہ اڑائیں کہ وہ کتاب جو تمام عالم کی ہدایت کی دعویٰ دار اور نجات کی کفیل ہونے کی مدعی ہو، وہ (عیاذ باللہ) ایسی ہل کتاب ہے کہ اہم ترین مسائل کو چھوڑ کر لوگوں کے خیالات کو معمولی باتوں میں لگا دینا چاہتی ہے، اُن کو چھوٹے چھوٹے عذاب سے بجاتی ہے مگر کفر و ضلالت اور ابدی جہنم سے بچنے کی تدبیر بتلانا تو درکنار ان کو اس سامنے رکھی ہوئی جہنم کی اطلاع بھی نہیں دیتی، بلکہ معمولی چیزوں میں اُلجھا کر اس سے غافل کرنا چاہتی ہو۔ یہ آیت جس طرح تشریحی نبوت کے انقطاع کی تین دلیل ہے اسی طرح اس امر کا بھی قطعی اعلان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ظلی یا بروزی یا کسی اور قسم کا نبی ہرگز ہرگز اس امت میں پیدا نہیں ہوگا، جن کے آنکھیں ہیں دیکھیں، اور جن کے کان ہیں سُنیں۔

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو شخص اعراض کرے گا اس کو سخت رزق عذاب دیں گے۔“

آیت نمبر ۲۱ | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَسْوَأْ  
يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ط  
(سورہ فتح پنا)

یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر پورے قرآن مجید کا نتیجہ کیا جائے تو اس مضمون کی مدد آیتیں نکلیں گی جن کا حاصل یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک پیدا ہونیوالی

نسلوں کی نجاتِ آخرت اور دخولِ جنت کے لئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے فرمان کی اطاعت کرنا کافی ہے، سوائے انبیاء سابقین کے کہ جن پر ایمان لانے کی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اور یہ ختم نبوت کا نہایت واضح اعلان اور اعلیٰ درجہ کا قوی ثبوت ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس آیت اور اس قسم کی دوسری آیات میں خداوند عالم کا وعدہ ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرنے والے کو بلا کسی دوسری شرط کے درجاتِ جنت عطا کئے جائیں گے۔

قرآن عزیز اگر کبھی منسوخ ہونے والا نہیں، اور شریعتِ قرآنیہ اگر قیامت تک رہنے والی ہے (جیسا کہ تمام امتِ محمدیہ بلکہ امتِ مرزائیہ کے نزدیک سبھی مسلم ہی) تو لازمی بات ہے کہ یہ وعدہ بھی تمام عالم میں قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کے لئے عام اور شامل ہوگا۔

تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہوا اور فرض کر لو کہ بقول مرزائیہ بروز ہی رنگ میں پیدا ہوا، تو اب دُوحال سے خالی نہیں، یا قرآن کریم اپنا وعدہ پویا کرے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور آپ کی اطاعت کرنے والوں کو بلا کسی مشروطِ جدید کے جنت میں داخل کرے، اور ان کی نجات کا ذمہ اٹھائے اور یا ان لوگوں سے جہنوں نے اس کو مندوقوں کے بجائے اپنے سینوں اور جنہوں نے اُس کے ایک ایک حرف پر اپنی جانیں قربان کیں، آج یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں اب اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا، آج تمہاری نجات میرے بس میں نہیں، جاؤ اس جدید نبی کے پاؤں پکڑو، اس میں اور صرف اسی میں تمہاری نجات ہے۔

لیکن ہر مسلمان جانتا ہے کہ پہلی صورت بجا بہت باطل ہے، کیونکہ اگر نبی جدید کے پیدا ہونے کے بعد قرآن کریم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لئے اس جدید نبی کی اطاعت

---

لہ مرزا صاحب اور ان کی امت کا طرز عمل اور بہت سے اقوال بھی اگرچہ منافی کے ساتھ قرآن کے بہت سے احکام کو منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن کم از کم زبان سے وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی نقطہ یا کوئی حرف بھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ۱۳۰

امتِ محمدیہ کے ذمہ نہ لگائے اور ان کو اس پر ایمان لانے اور اس کی پیروی کیلئے مجبور نہ کرے، تو اول تو یہ بتلاؤ کہ اس نبی کے دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ قوم اُس پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں، بلکہ معاذ اللہ یہ تو اس نبی کے لئے اچھی خاصی سزا اور اعلیٰ درجہ کی توہین ہوگی کہ اس کو دنیا میں اس لئے بھیجا جائے کہ لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلائے اور ان لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں اس کی اطاعت کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی جنت تمہاری میراث ہے۔

اس کے بعد یہ معاملہ خود نصوصِ شراعیہ اور اجماعِ امت کے سراسر خلاف ہے، جیسا کہ ہم اُدپر مفصل لکھ چکے ہیں کہ مُشرَّانِ کریم ان لوگوں کے بارہ میں جو کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ رکھیں، اگرچہ باقی سب انبیاء پر کامل ایمان رکھتے ہیں،

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا | وہ لوگ یقیناً کافر ہی ہیں؛

فرما چکا ہے۔ بہر حال شریعتِ قرآنیہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی کسی قسم کا نبی بھیجا جائے اور لوگوں کے ذمہ اس پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا اہم ترین فرض اور مدارِ نجات نہ قرار دیا جائے۔

اور جب پہلی صورت یوں باطل ہوئی تو لامحالہ دوسری صورت متعین ہو گئی یعنی اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، اگرچہ بقول مرزا صاحب بوزی رنگ میں ہو تو قرآن مجید اس کے پیدا ہونے کے بعد اپنا یہ دعویٰ ہرگز پورا نہ کر سکے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو مطلقاً (بغیر کسی شرط کے) جنت میں داخل کیا جائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ اس نبی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کو شرطِ نجات بنایا جائے گا، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس وقت قرآن کی ان سب آیتوں کو منسوخ کہنا پڑے گا جو تمام امتِ محمدیہ کے اجسامی عقیدہ بلکہ امتِ مرزائیہ کے مسلمات کے بھی خلاف ہونے کے علاوہ اہل علم کے نزدیک ایک نرالا عجوبہ ہوگا، کیونکہ باتفاقِ علماء و عدہ میں نسخ جاری نہیں ہوتا، ورنہ پھر وعدہِ خلائی اور نسخِ وعدہ میں کیا فرق ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں آج منسوخ ہو چکی ہیں ان میں بھی کوئی وعدہ کبھی منسوخ نہیں ہوا۔

ایک لطیفہ یاد آیا کہ جب مرزا صاحب نے ایک مرتبہ بعض معاملات کے

متعلق پیشگوئی کی اور دعویٰ کیا کہ خداوند عالم نے بند لہجہ وحی مجھ سے پختہ وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کام ضرور پورا ہوگا، پھر جب خداوند عالم نے مرزا صاحب کا جھوٹ اور افتراء علی اللہ عالم پر آشکارا کرنے کے لئے یہ کام نہ ہونے دیا، باوجودیکہ مرزا صاحب نے اس کو سچ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا، تو اس وقت لوگوں نے ان سے کہا کہ میاں وہ تمہاری وحی اور وعدہ الہی کیا ہوا تو فرمایا کہ نادانو! تمہیں معلوم نہیں کہ وعدہ میں کبھی کچھ منفی شرطیں بھی ہوتی ہیں جن کے نہ ہونے کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کیا جاتا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ خلاف وعدہ ہوا۔

یہ بات جس قدر مضحکہ خیز اور بدیہی البطلان ہے اس کے بیان کی ضرورت نہیں، مگر جب مرزا صاحب کی اساس نبوت اس جیسی لہجہ باتوں پر قائم ہو سکتی ہے تو عجب نہیں کہ اس قسم کی آیات میں بھی وہ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا، بشرطیکہ مرزا غلام احمد کی بھی اطاعت کرے، اس وعدہ میں یہ شرط مخفی ہے، لیکن باوجود ہر قسم کے انحطاط اور تنزل کے دنیا ایسی اندھی نہیں ہوئی، اور لوگ اتنے عقل سے خالی نہیں ہوئے جو اس قسم کی رکیک اور باطل تحریفیات پر کان لگا سکیں۔

کون نہیں جانتا کہ اگر اس طرح وعدوں کے اندر منفی شرائط کو جائز قرار دیا جائے گا تو یہ صریح وعدہ خلافی اور خالص جھوٹ بولنے کی تعلیم ہوگی کیونکہ ہر وعدہ خلاف اور ہرجوٹے سے جو ٹا آدمی بھی مذربش کر دے گا کہ میرے وعدہ میں یا میرے کلام میں منفی شرطیں تھیں جن کا ذکر نہیں ہوا، اس لئے میں ایفائے وعدہ کے لئے مجبور نہیں۔

ایک شخص آج کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ کل تمہیں دو ہزار روپے دیں گے، لیکن کل جب وہ ایفائے وعدہ کا سوال کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ایفائے وعدہ میں شرط تھی کہ اگر تم اپنا گھر مجھے دو گے تو ہم دو ہزار روپے دیں گے۔ کیا کوئی انسان اس شخص کی یہ لہجہ بات سن کر اس کو سچا کہہ سکتا ہے؟

یا ایک شخص دن کے بارہ بجے یہ کہتا ہے کہ آفتاب طلوع نہیں ہوا، اور جب لوگ اس کے سفید جھوٹ پر نفرین کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے کلام میں ایک شرط مخفی ہے یعنی آفتاب طلوع ہوا دس بجے شب کے وقت۔ تو کیا یہ شخص ان خرافات

کی وجہ سے سچا کہلایا جاسکتا ہے ؟

اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی معنی مشروطوں کی بنیاد پر وعدے اور کلام سچے ہوا کریں تو دنیا میں کسی وعدے اور کسی کلام کو جھوٹ نہیں کہا جاسکتا بلکہ لفظ کذب ایک بے مصداق اور بے معنی آواز رہ جائے گی، ہر وعدہ خلاف اور اعلیٰ درجہ کا کذاب مرزاجی کی بددلت سچائی کی سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔

مگر یہ کوئی عجب نہیں، کیونکہ جس طرح سچے لوگوں کا فیض سچے لوگوں کو پہنچتا ہے، اسی طرح اگر مرزا صاحب کے فیض سے جھوٹے لوگ آباد ہو جائیں تو کیا بعید ہے، آخر ان غریبوں کا بھی تو کوئی ٹھکانا ہونا چاہئے۔

سلسلہ کلام طویل ہو گیا، اس کے بعد ہم پھر اصل کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جس آیت کے متعلق اس قدر تفصیلی گزارش کی گئی ہے اسی کی اور چند نظائر ہدیہ ناظرین کرتے ہیں، ناظرین کرام اس آیت کو پڑھتے وقت بھی مذکورۃ العسر گذارش کو یاد رکھیں تاکہ ہمیں ہر آیت کے ساتھ کلام کو دہرانا نہ پڑے۔

<p>آیت نمبر ۲۲   مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيفًا</p> <p>(سورۃ نسا، ۵)</p>	<p>” اور جس نے رسول یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے پشت پھیری (بلا سے) ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔“</p>
---	---

اس آیت میں بھی اُمتِ محمدیہ کے لئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلقاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا ہوتا تو اس کے آنے کے بعد کوئی شخص اس وقت تک خلا کا مطیع کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ اس نبی کی بھی اطاعت نہ کرے جیسا کہ اوپر مفصل گذرا۔

<p>آیت نمبر ۲۳   وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مِمَّنَ الَّذِينَ كَرَّمُوا وَجْهَهُمْ فِي السَّمِيعَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۗ</p> <p>(سورۃ نسا، ۶)</p>	<p>” اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہو گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین“</p>
---	---

کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔

اس آیت میں بھی درجاتِ جنت اور معتز ترین خداوندی کے ساتھ ہونے کا وعدہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کیا گیا ہے، جو اس کا صاف اعلان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ورنہ معتز بین خداوندی کے ساتھ ہونے کے لئے اس کی اطاعت بھی لازمی ہوتی۔

ایک نرالی منطلق آیت مذکورہ جو صفائی کے ساتھ ختم نبوت کا اعلان ہے عجائب میں سے ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو اپنے دعوے کے اثبات میں پیش کیا ہے۔

صورت استدلال بھی ایک عجیب مفہم کہ خیز صورت ہے کہ مسلمان چمکانہ نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جس کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اُن کا بیان آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ وہ نبیین اور صدیقین اور شہداء ہیں، پس دونوں آیتوں کے ملانے سے اس دعا کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں نبیین اور صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ دعا غالباً قبول فرماتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نبیین اور صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلاتا ہے، اور اس سے یہ لازم آیا کہ مسلمان نبیین اور صدیقین اور شہداء بن جاتے ہیں، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا نبی ہونا ممنوع نہیں۔

کیا خوب استدلال ہے۔ اس کا حاصل تو ہوا کہ جو شخص جس کے راستے پر چلتا ہے وہ وہی بن جاتا ہے۔ نبیین کے راستے پر چلنے والا نبی، اور صدیقین کے راستے پر چلنے والا صدیق اور شہداء کے راستے پر چلنے والا شہید بن جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ پھر تو یہ ترقی کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ کلکٹر کے راستے پر چلنے والا کلکٹر اور وائسرائے کے راستے پر چلنے والا وائسرائے اور بادشاہ کے راستے پر چلنے والا بادشاہ ہو جائے گا، بلکہ اس زینہ ترقی سے تو شاید خدائی کامرہ بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے: صِرَاطَ اللَّهِ الْعَنِينِ الْاَلِيہِ تو مرزا صاحب کے تجویز کردہ قانون کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر

چلے گا وہ معاذ اللہ خدایں جاوے گا ، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ۔

” اے چیلے (انبیاء پر) ایمان لانے والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دوسرے رحمت فرمائے گا اور تمہارے لئے ایک روشنی کر دے گا جس کے ذریعہ سے تم چلو گے اور تمہاری مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ۔“

آیت نمبر ۲۴ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ  
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ  
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ  
بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

(آخر سورہ حدید، ۲۴)

اس آیت شریفہ میں بھی انبیاء سابقین کے بعد صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو مدار نجات قرار دیا گیا ہے اور قیامت تک اسی پر مغفرت کا وعدہ ہے ، اگر آپ کے بعد کوئی نبی تشریحی یا غیر تشریحی اور یا بقول مرزا صاحب فلسفی یا بردزی پیدا ہونے والا ہوتا تو لازمی تھا کہ اس پر ایمان لانے کو بھی شرط نجات کی بنائی جاتی ۔ اس طرف بلا شرط کے وعدہ مغفرت اس کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا ۔

” اے ایمان لانے والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جس کو نازل کیا اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تمہی پہلے ۔“

آیت نمبر ۲۵ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي  
نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ  
الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ

(آخر سورہ نساء، ۲۵)

یہ آیت بھی اسی مدعا کو زیادہ وضاحت سے ثابت کر رہی ہے جو اوپر کر عرض کیا گیا ، کیونکہ اس میں بھی اول تو صرف آنے والے انبیاء میں سے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے ، اور کسی نبی پر ایمان لانے کی تلقین نہیں اور اگر کوئی اور نبی آتا تو ضرور تھا کہ وہ قرآن کریم جو خدا کی غیر منسوخ کتاب اور نجات عالم کا دائمی متکفل ہے اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ، پھر آسمانی کتابوں اور وحی الہی میں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ صرف سابق کتب سماویہ اور وہ وحی ہے جو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کسی نبی ظلی وغیرہ کی وحی کو واجب العمل نہیں بتلایا گیا۔

ایمان لائے رسول اس پر جو کچھ تمہارا سبب  
طرف اُس کے رب کی طرف سے اور سبب  
سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے  
لاگہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے  
رسولوں پر کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو  
اس کے رسولوں میں سے :-

آیت نمبر ۲۶ | اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ  
اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  
كُلٌّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ  
وَ كَتَبَتْ لَهُمْ اٰيَاتِهِ  
لَا تَقُوْقُ بَيْنَ  
اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ الْاٰيَةُ  
آخِرُ سُوْرَةِ بَقَرَةِ (پ)

اس آیت میں دو وجہ سے ختم نبوت کا ثبوت کا ملتا ہے۔

اول اس وجہ سے کہ یہ آیت مسلمانوں کو صرف اُس وحی پر ایمان لانے کو کافی بتلاتی ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اور آپ کے بعد بھی سلسلہ وحی جاری ہوتا تو لازمی تھا کہ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہوتا۔

دوم اس آیت نے یہ بھی ثابت کیا کہ خدا کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی ایمان سے جدا نہیں کیا جاسکتا، بلکہ سب پر ایمان واجب ہے، پس اگر کوئی نبی آپ کے بعد (اگرچہ بقول مرزا بروزی رنگ میں پیدا ہونے والا تھا تو یقیناً قرآن کریم اس کی اطلاع دے کر اپنے پیروؤں کو اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتا

ایمان لاؤ اس وحی پر جو ہم نے نازل کی  
ہے تصدیق کرنے والی اس وحی کی جو  
تمہارے پاس ہے؟

آیت نمبر ۲۷ | وَاٰمِنُوْا بِمَا اُنزِلَتْ  
مِّنْ رَّبِّكُمْ  
(سورہ بقرہ، پ)

اس آیت میں اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہ وحی یعنی سترآن کریم جو تمہاری پہلی کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق کرتی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس میں بھی سترآن کریم کے بعد کسی اور وحی پر ایمان لانے کا حکم نہیں۔

ہم نے تمہارے پاس ہے؟  
پر اور اس وحی پر جو تمہاری ہم پر اور جو وحی تھی  
ابراہیم پر اور اسمعیل پر اور اسحاق پر اور یوسف پر

آیت نمبر ۲۸ | كُلٌّ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا  
اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى  
اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موتی کو اور  
ہیسی کو، اور سب نبیوں کو اپنے رب کی  
طرف سے، ہم جدا نہیں کرتے ان میں  
سے کسی کو؟

يَقْتُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ  
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ  
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ  
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورۃ آل عمران پ ۱۰)

اس آیت کریمہ نے ایک طرف تو یہ اعلان کیا کہ تمام انبیاء کی وحی پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے جس پر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فرما کر آخر میں کمر تو جہ دلائی گئی ہے، اور دوسری جانب یہ بھی صاف طور سے بیان کر دیا کہ ایمان لانا صرف اس وحی پر ضروری اور فرض ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے سابقین علیہم السلام پر نازل ہو چکی ہے، کسی جدید وحی کو ایمان میں درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، جو قطعاً اس کا اعلان ہے کہ آپ کے بعد کوئی وحی نازل نہ کی جائے گی ورنہ ضرورت تھا کہ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِهِمْ کے قاعدہ سے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔

اس آیت میں دو لفظ خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہیں، اَوَّلٌ وَمَا أُوتِيَ، جو بصیغہ ماضی ادا کیا گیا ہے اور دوم النَّبِيُّونَ، جو لام استغراق کے ساتھ مزن کیا گیا ہے۔ جن دونوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ آسمانی کتابیں اور وحی دینی تھیں وہ دی جا چکی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو گا اور نہ کسی کو وحی نبوت دی جائے گی۔

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو  
دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر عمل کیا  
رکتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور  
اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی؟“

آیت نمبر ۲۹ | اَلَّذِينَ هُمْ  
بِرِعْمَتِ الْاٰلِهٰتِ  
يَتَّبِعُوْنَ وَالَّذِينَ  
لَا يَرْجُوْنَ  
اِلَّا الْيَوْمَ  
الْاٰخِرَ وَمَا  
اُنزِلَ مِنْ  
قَبْلِكَ  
(سورۃ نسا، پ ۵، ع ۶)

اس آیت میں بھی دعویٰ ایمان میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کی وحی کو درج کیا گیا ہے، اس کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ مِنْ قَبْلِكَ کی تخصیص سے اشارہ ہے کہ بعد میں وحی نازل ہونے والی نہیں۔

”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے  
اچھے کام کئے اور وہ اس سب وحی پر

آیت نمبر ۳ | وَالَّذِينَ  
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا  
الصّٰلِحٰتِ  
وَالَّذِينَ  
لَا يَرْجُوْنَ  
اِلَّا الْيَوْمَ  
الْاٰخِرَ  
(سورۃ نسا، پ ۵، ع ۶)

ایمان لائے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل  
کی گئی، اور وہ اُن کے رب کے پاس سے  
اور واقعی ہے اللہ تعالیٰ اُن کے گناہ اُن پر سے  
اتارے گا، اور ان کی حالت اچھی رکھے گا :-

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن  
رَبِّهِمْ أَكْفَرْتُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاصْلَمُوا  
بِالْحَقِّ ۝

(اہل بیت، سورہ محمد، ۱۰)

اس آیت کریمہ میں بھی صاف طور پر وعدہ ہے کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور  
آپ کی وحی پر ایمان لائے گا اس کی مغفرت کی جائے گی، اور اس وعدہ میں کسی دوسرے  
نبی پر ایمان لانا شرط نہیں، جس سے واضح ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، ورنہ  
لازم ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہو، اور محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کا  
اتباع کرنا انسان کو نجات نہ دلا سکے، اور جو وعدہ آیت میں مسلمانوں کے لئے کیا گیا ہے  
اس کا ستم نہ بنا سکے، جس کی تحقیق مکرر گند چکی ہے۔

• لے لوگو! تمہارے پاس رسول آچکا  
حق بات لیکر تم ایمان لاؤ، تمہارے  
لئے بہتر ہوگا :-

آیت نمبر ۳۱ | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا  
خَيْرًا لَّكُمْ ۝ (سورہ نسا، ۱۲۳)

اس آیت کریمہ میں بھی اول تو يَا أَيُّهَا النَّاسُ کے عام خطاب سے عموم بخت کی  
طرت اشارہ کرتے ہوئے ختم نبوت کا ثبوت پیش کیا گیا، اور پھر صرف آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم پر ایمان لانے کو مدار نجات قرار دے کر بتلادیا گیا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی  
نہیں جس پر ایمان لانا واجب ہو۔

• لے لوگو! تم کو پہنچ چکی تمہارے رب کی  
طرت سے سند (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)  
اور تماری بہن تم پر دشمنی واضح (یعنی  
قرآن مجید) جو ایمان لائے اللہ پر اور اس  
کو مضبوط پڑا تو ان کو داخل کرے گا اپنی  
پہرا و فضل میں :-

آیت نمبر ۳۲ | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا  
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا  
بِهِ فَسَيُجْزِيهِمْ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِ  
وَقُضِيَ، (آخر سورہ نسا، ۱۲۴)

یہ آیت بھی دو وجہ سے ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔  
اول اس لئے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم بخت کو ثابت کرتی ہے اور

قیامت تک تمام دنیا میں پیدا ہونے والی نسلوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو فرض کرتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب قیامت تک اسی طرح چمکتا ہے گا، جس کے ساتھ کسی کو کب نبوت کے چمکنے کی ضرورت ہے، نہ یہ مانا ممکن ہے۔

دوم یہ آیت بھی آیت مذکورہ بالا کی طرح صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے والے کے لئے جنت اور اس کے نعیم مقیم کا وعدہ کرتی ہے، جس سے لازم آتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی (جس پر پہلے سے ایمان نہ رکھتے ہوں) پیدا نہ ہوگا مگر مفسلاً

آیت نمبر ۱۳ | قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُذُرٌ

فَكَيْفَ تُمِينُونَ ۚ يُعَذِّبُ بِهٖ اللَّهُ  
مَنْ أَسْبَغَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

(اُمّہ، پ، ۱۲۷)

”تمہارے پاس آئی اللہ کی طرف سے وحی

(یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور کتاب مبین

(یعنی قرآن مجید) جن سے اللہ تعالیٰ ہدایت

کرتا ہے سلامتی کے راستہ کی ان کو جو تکلیف

ہوئے اس کی رضامندی کے ؟

یہ آیت بھی آیات مذکورہ سابقہ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے سوا کسی اور نئے نبی یا نئی وحی پر ایمان لانے کے بغیر ہدایت اور دخول جنت کا وعدہ کرتی ہے جو ہر قسم کی نبوت کے انقطاع کا کھلا ہوا اعلان ہے۔

آیت نمبر ۱۴ | فَاسْكُبْهَا الَّذِينَ يُتَّبَعُونَ

ذِكْرُ تَوَاتُرِ الزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ

بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ

يَتَّبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

الَّذِي يَجِدُ فِيهِ مَثَلًا لِمَنْ كُنْتُمْ

فِي التَّوْحَادِ وَالْإِنجِيلِ ۚ

(اعلان، پ، ۱۹۷)

”سو میں کہو، لوگ! (اپنی رحمت، ان لوگوں

کے لئے جو ڈرتے ہیں، اور جیتے ہوئے

جو ہماری باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور

جو تاج میں اس رسول کے جو نبی ہائے

جس کو پاتے ہیں (اہل کتاب) کہنا ہوا

اپنے پاس توہرات اور انجیل میں ؟

یہ آیت بھی پہلی آیتوں کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی پر ایمان لانے بغیر جنت و مغفرت کا وعدہ کرتی ہے، اور اگر کوئی اور نبی (اگرچہ بقول مرزا صاحب) بروزی رنگ میں ہی دنیا میں پیدا ہوتا تو یہ ستر آن کا وعدہ ہرگز پورا نہیں

ہو سکتا، جیسا کہ مکرر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔

آیت نمبر ۲۵ | **قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ**  
**عَزَّزُوهُ وَكَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّزُ**  
**الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ**  
**الْمُفْلِحُونَ ۝** (اعراف، ۱۹۲، پ ۱۸۲)

یہ آیت بھی مطلق نبوت کے انقطاع پر آیات مذکورہ کی طرح روشن دلیل ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی پر ایمان لانے کے بغیر ہر فلاح و بہبود کا وعدہ کرتی ہے۔

آیت نمبر ۲۶ | **قَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ**  
**النَّبِيِّ الْأَخِيِّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ**  
**وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ**  
**تَهْتَدُونَ ۝** (اعراف، ۱۹۳، پ ۱۸۲)

یہ آیت کریمہ بھی آیات مذکورہ کے ہم معنی اور مطلقاً ختم نبوت کی دلیل ہے، مگر ”لے ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے“

اس آیت کریمہ سے بھی ختم نبوت کا ثبوت اسی طرح سمجھے جس طرح آیات سابقہ میں بیان کیا گیا ہے۔

آیت نمبر ۲۷ | **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**  
**اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا**  
**دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۝** (انفال، ۱۹۳، پ ۱۸۲)

یہ کلام الہی بھی پہلی آیات کی طرح مطلقاً ختم نبوت کو ثابت کرتا ہے۔

آیت نمبر ۲۸ | **وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَرَسُولَهُ**  
**وَلَا تَتَّزِعُوا فَتَنُوا فَنَقُصَّ عَنْكُمْ**  
**رِيبُكُمْ ۝** (انفال، ۱۹۴، پ ۱۸۲)

اس آیت کا مطلق نبوت کے انقطاع کی واضح دلیل ہونا ہمارے گذشتہ کلام

اور بوضاحت ثابت ہو چکا ہے۔

آیت نمبر ۲۱ | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَبِّبْكَ اللَّهُ  
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؕ

(انفال، پٹ)

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کافی ہے اللہ  
آپ کو اور ان مسلمانوں کو جو آپ کا  
اتباع کریں“

اس آیت کریمہ میں بھی صریحاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو نجات کے لئے  
کافی قرار دے کر ختم نبوت کا روشن ثبوت دیا گیا ہے۔

آیت نمبر ۲۲ | وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ؕ

(توبہ، پٹ)

”مسلمان حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس  
کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے، ان پر  
اللہ رحم کرے گا، بیشک اللہ زبردست  
ہے حکمت والا“

یہ بھی گذشتہ آیات کی نظیر ہے اور مضمون مذکور کو ادا کرتی ہے۔

آیت نمبر ۲۳ | فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنَّوْزِ  
الَّذِيْۤ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ  
خَيْرٌ ؕ

(تغابن، پٹ)

”ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول (محمد)  
پر اور اس نور (قرآن) پر جو ہم نے نازل کیا  
اور اللہ تعالیٰ تمہاری عملوں سے خبردار ہے“

اس آیت شریفہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی پر ایمان لانے کو  
شرط نجات نہیں بنایا گیا، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کو  
کافی بتلایا گیا ہے۔

آیت نمبر ۲۴ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ  
أَدْرَأَكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ  
مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۗ تَوَّابُونَ  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتَجَاهِدُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ ۗ وَ  
أَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؕ

”اے ایمان والو! میں بتاؤں تم کو ایک  
سوداگری کہ بچائے تم کو دکھ کی مار سے ایمان  
لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول (محمد صلی اللہ  
علیہ وسلم) پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ  
میں اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے  
لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ سکتے  
ہو“

اس آیت کریمہ نے جو نافع تجارت مسلمانوں کو سکھائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اسی ایمان کو عذابِ آخرت سے بچانے کا کفیل بتلایا ہے، اس میں کہیں مشرط نہیں کہ ایک شرابی یا غلامی یا غلامی نبی آئے گا اور اس پر ایمان لانا بھی مشرطِ نجات ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر سلسلہ نبوت جاری مانا جائے تو اس آیت کا وعدہ بغیر نبی پر ایمان لائے پورا نہیں ہو سکتا۔

تم اشر پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تم سے پہلے کا قائم مقام بنا یا جو، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کے لئے بڑا ثواب ہے ؟

آیت نمبر ۳۲ | اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ  
وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْفِيْنَ  
فِيْهِ ۙ ذٰلِكَ لِيُنِزِلَ اٰمِنُوْا مِنْكُمْ وَ  
اَنْفِقُوْا لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا  
(حدید، ۳۲)

یہ آیت اپنے مضمون اور ختم نبوت کے ثبوت میں پہلی آیات کی نظر ہے، کیونکہ اس میں اجر کبیر کے وعدہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ کسی بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے کو شرط نہیں کیا گیا، خواہ وہ تشریفی ہو، یا بقول مرزا غیر تشریفی اور ظلی یا بروزی یا لغوی۔

” وہی ہے جس نے صحابان پر صوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھا ہے ان کے پاس اس کی آیتیں اور ان کو سنوا اور آؤ رکھا آج عقلمندی، اور اس سے پہلے پڑھے تھے یہ صریح گمراہی میں، اور ایک اردوں کے واسطے انہی میں سے جو ابھی ان میں نہیں آئے، اور وہی ہے زبردست حکمت والا ؟“

آیت نمبر ۳۵ | هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي  
الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ  
اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ  
كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ  
وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَنَنْبِذَنَّ اِيْھِمُ  
ذٰلِكَ الْعَذَابُ الْخَكِيْمُ (عجہ، ۳۵)

اس آیت کریمہ کے ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ پر غور کرو، جن میں صفائی کے ساتھ بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ آپ کی نبوت تمام ان نسلوں کے لئے بھی محیط اور شامل ہے جو

آپ کے عہد مبارک میں پیدا نہ ہوئے تھے ، اور قیامت تک پیدا ہوتے نہیں گئے ۔  
امام التفسیر ابن کثیر آیت مذکورہ کی تفسیر میں صحیح بخاری کی حدیث بروایت ابو ہریرہ  
نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں :-

” اس حدیث میں دلیل ہے کہ یہ سورت  
(عجم) منیہ ہے ، اور اس پر بھی کائنات  
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت  
(تمام عالم ، اور تمام لوگوں کے لئے)  
حکم ہے ، کیونکہ آیت مذکورہ میں آخرین  
منہم کی تفسیر حدیث بخاری میں فارس  
سے لگائی ہے ، اور اسی وجہ سے آپ نے  
فارس و روم وغیرہ کی طرف دعوت نامے  
ارسال فرمائے ، اور اسی لئے امام تفسیر  
حضرت مجاہد اور دوسرے بہت سے  
علماء تفسیر نے آخرین منہم کے متعلق  
فرمایا ہے کہ اس سے مراد بھی لوگ ہیں غیر  
عرب میں سے جن لوگوں نے آپ کی  
تصدیق کی ہے ؟

(ابن کثیر)

فَإِنِّي هَذَا الْخَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى  
أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ مَدَنِيَّةٌ وَعَلَى  
عُمُومِ بَعْثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِأَنَّهُ  
قُتِبَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَآخِرِينَ مِنْهُمْ  
بِنَادِيٍّ وَهَذَا الْكُتُبُ كُتِبَتْ  
إِلَى فَارِسٍ وَالرُّومِ وَغَيْرِهِمْ  
مِنَ الْأُمَمِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى اتِّبَاعِ مَا جَاءَهُمْ  
وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ  
رَاحِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآخِرِينَ  
مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالِ  
هُوَ الْأَعْرَابُ كُلٌّ مِنْ مَدَنٍ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مِنَ غَيْرِ الْعَرَبِ .

نیز امام ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم اسی آیت کی تفسیر میں سہیل بن سعد الساعدي  
رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

” بیشک میری امت کے فردوں اور عورتوں  
کی پشت در پشت ایسے لوگ ہوں گے  
جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے ،  
اور آپ نے اس کی شہادت میں یہ آیت  
پڑھی و آخرین منہم لایحوقوا بہم . مراد

أَنَّ فِي أَصْلَابِ أَصْلَابِ أَصْلَابِ  
رِجَالٍ وَنِسَاءٍ مِنْ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ قَرَأَ  
وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ  
يَعْنِي بَقِيَّةَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّةٍ

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | یہ تھی کہ آخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو امت محمدیہ میں (قیامت تک) آئیں گے؟

آیت مذکورہ سے واضح طور پر حسب تقریر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نبوت و بعثت قیامت تک آنے والی تمام نسلوں پر محیط اور شامل ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جب تمام آنے والی نسلیں آپ کی نبوت کے احاطہ میں داخل ہیں تو آپ کے بعد نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے اور نہ گنجائش۔

آیت نمبر ۴۶ | قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (آخر سورہ یوسف، ۳۱)

”آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے۔ میں خدا کی طرف اس طور پر بلا تا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی؟“

اس آیت کریمہ میں أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کے الفاظ قابل غور ہیں، جن میں ارشاد کیا گیا ہے کہ عَلَى بَصِيرَةٍ دعوتِ حق دینے والے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہ صحابہ کرام اور علمائے امت جو آپ کے اسوہ حسنہ کے متبع اور پیرو ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے مَنِ اتَّبَعَنِي کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

يَعْنِي أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ كَأَنَّهُ عَلَى أَحْسَنِ طَرِيقَةٍ وَأَقْصَدَ هَذَا آيَةً (معالم التنزيل)

”یعنی صحابہ کرام جو بہترین طریقہ اور ہدایت پر تھے؟“

اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں پیدا ہونے والا تھا تو لازمی نتیجہ تھا کہ وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوتِ حق دینے والے افراد میں شمار کیا جاتا، بلکہ مناسب تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے ان انبیاء کا ذکر ہوتا جو آپ کے بعد دعوتِ حق کے لئے آنے والے تھے، پھر ان کے بعد صحابہ کرام اور علماء کا تذکرہ درجہ بدرجہ ہوتا، لیکن جب کہ تنزیلِ عزیز نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بجائے انبیاء کے نام لینے کے صحابہ کرام اور علمائے امت کا ذکر فرمایا تو ثابت ہوا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں۔

آیت نمبر ۴۷ | لَكِنَّ الزَّالِمِينَ فِي الْعِلْمِ | ”لیکن ان میں جو لوگ علم پر ثابت ہیں

اور ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی؟  
 "ایمان والوں کی بات یہ تھی کہ جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف ان میں فیصلہ کرنے کے لئے تو کہیں ہم نے سنا اور مانا اور وہی لوگ صلاح پانے والے ہیں؟

"اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (محمد) کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور سچیں اس کے محرمات سے ڈہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں؟

"کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی؟  
 "اگر تم آپ کی (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی) اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے؟

"اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی، شاید تم پر رحم ہو؟

"ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول (محمد) پر؟  
 "بس آپ تو صرف ایسے ہی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت

مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ  
 بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ  
 تَبْلِكَ (نساء، پ)

آیت نمبر ۳۸ | إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
 (نور، پ ۱۸)

آیت نمبر ۳۹ | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ نَأْوِ إِلَيْكَ  
 هُمُ الْفَائِزُونَ  
 (نور، پ)

آیت نمبر ۵۰ | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 الرَّسُولَ الْآيَةَ (نور، پ)  
 آیت نمبر ۵۱ | وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا  
 (نور، پ)

آیت نمبر ۵۲ | وَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
 الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
 تُرْحَمُونَ (نور، پ)

آیت نمبر ۵۳ | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (نور، پ)  
 آیت نمبر ۵۴ | إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ  
 الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ  
 فَتَبِيرُهُ يَغْفِرُ لَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ (بقرہ، پ)

اور عہدِ حوض کی خوشخبری سنا دیجیے ؟  
 " ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائیں اللہ

پر اور اس کے رسول (محمد) پر ؟  
 " اور جو کوئی پیر دی کرے اللہ کی اور اس  
 کے رسول (محمد) کی اُس نے پائی بڑی مراد ؟

آیت نمبر ۵۵ | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (نور، ۳۶)

آیت نمبر ۵۶ | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ قَرَّبَهُ قَدْراً عَظِيماً (احزاب، ۳۳)

ان تمام آیاتِ کریمہ میں بھی صرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کو کافی بتلا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے صرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے اتباع کو مدارِ نجات قرار فرمایا ہے، اور اسی پر جنت و مغفرت وغیرہ کے وعدے ہیں۔

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ وعدہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا، بلکہ تا قیامت جاری ہے، اگر دنیا میں وحی نبوت کا سلسلہ جاری ہو تو کیا اس وحی پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان جنت اور اس کے درجات کا مستحق بن سکتا ہے ؟ اور اگر نہیں بن سکتا تو پھر قرآن کے یہ وعدے کیسے پورے ہو سکتے ہیں ؟

" اور یاد کر جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے (لئے محمد) اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے "

آیت نمبر ۵۷ | وَأَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ

مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوْحٍ

وَاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى

ابْنِ مَرْيَمَ (احزاب، ۳۳)

اس آیتِ کریمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تمام انبیاء سے پہلے ذکر فرمایا گیا ہے، اسی کی وجہ خود زبانِ رسالت نے بیان فرمائی ہے :-

" حضرت ابو ہریرہؓ آیتِ کریمہ **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ ميثاقهم** کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سنا یا کہ میں پیدا کش میں تمام انبیاء سے پہلے تھا، اور اس عالمِ بعثت میں سب کے آئندہ میں اسی لئے

عَنْ أَن هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ

مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوْحٍ

وَاِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقِي وَ

آخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ قَبْدِ أُنِي

قَبْلَهُمْ ( ابن کثیر، ۳۵، ۸۲ ) سب سے پہلے میرا نام لیا گیا :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی معلوم ہوا کہ اس آیت میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور سب سے آخر نبی ہونے کی دلیل ہے ۔

آیت نمبر ۵۸ | اَتَّبِعُوا مَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ  
مِن دَرِّبِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهَا  
أُولِيَاءَهُ ( اعراف، ۵۸ )

اس وحی کا اتباع کرو جو تمہاری طرف  
تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکی ہو  
اور نہ چلو اس کے سوا اور دنیویوں کے پیچھے

یہ آیت کریمہ اگر ایک طرف اس وحی کا اتباع اہل عالم کے لئے فرض کرتی ہو جو  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو دوسری جانب صاف طور سے اس کا یہ بھی  
ارشاد ہے کہ اس وحی کے علاوہ اور کسی وحی کا اتباع جائز نہیں ۔

اب انصاف کیجئے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی آسمانی وحی خدا کی طرف سے آنے والی  
تھی، تو اس کے اتباع سے کیوں روکا جاتا ہے، اور پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ جب دنیا  
اس کے اتباع سے ممنوع ہے تو پھر اس وحی کے نازل کرنے اور نبی کے دنیا میں بھیجنے سے  
سے کیا فائدہ ہے ۔

آیت نمبر ۵۹ | وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ  
مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ آجَاءَهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا  
يُؤْمِنُونَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمِ  
الْمُجْرِمِينَ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً  
فِي الْاَرْضِ مِمَّنْ نَّبْعَثُ فِيهَا رُسُلًا  
كَيْفَ تَعْتَلُونَ ( ریس، ۵۹ )

” اور ہم ہلاک کر چکے سب امتوں کو تم سے  
پہلے، جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور لائے تھے  
ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں  
اور ہرگز نہ تھے وہ ایمان لانے والے، پونہی  
سزا دیتے ہیں ہم گنہگار قوم کو، پھر ہم تم  
کو نائب کیا زمین میں ان (سب) امتوں  
کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو ؟“

اس آیت کریمہ میں اول تو یہ بتلایا گیا کہ پہلی امتیں سب شرک کی وجہ سے ہلاک  
ہو چکیں، اور پھر بیان کیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں الصلوٰۃ والسلام تمام امتوں  
کی خلیفہ اور زمین میں سب کی قائم مقام ہے، جس کا حاصل صاف یہ ہے کہ یہ امت  
آخر الامم ہے، اس کے بعد نہ کوئی جدید نبی آئے گا اور نہ اس کی نئی امت پیدا ہوگی ۔  
غالباً یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے

ہوئے ارشاد فرمایا :-

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا نَبِيَّكُمْ  
أَنْبِيَاءَ | " اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے  
اندر انبیاء پیدا کئے :-

لیکن خیر الام کے متعلق کہیں ایسے الفاظ مذکورہ نہیں، بلکہ اس موقع پر جَعَلْنَا نَبِيَّكُمْ  
خَلْقًا کئی آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے تدویں  
کی حکمتِ غامضہ اور خیر الام کی شانِ امتیاز کا اقتضار یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کے آفتابِ نبوت کے طلوع ہونے کے بعد کسی جدید ستارے کی روشنی کی ضرورت سمجھی جائے۔  
لیکن یاد ہے کہ اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ یہ امتِ امم سابقہ سے کسی درجہ  
میں کم ہے، کیونکہ منصبِ نبوت کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمالاتِ نبوت بھی  
مفقود ہوں۔ چنانچہ ارشاداتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ اس کا اعلان کرتی ہیں کہ یہ  
امت کمالاتِ نبوت کے ساتھ متصف ہے، مگر منصبِ نبوت آپ کے بعد کسی کو اس لئے  
نہیں دیا جاتا کہ اس میں آپ کی شانِ عظمت کی تعقیص ہے۔

مسند ابوداؤد طیالسی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک طویل حدیث نقل کی جو

جاء انشاء اللہ تعالیٰ حصہ دوم ختمہ المتبوعۃ فی الحدیث من مفصل نعتی کل  
جائے گی، اس کے چند جملے یہ ہیں :-

وَتَقُولُ الْأُمَّةُ كَأَدَّتْ هٰذِهِ  
الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ مُكَلَّمًا۔  
" قیامت کے روز تمام امتیں کہیں گی  
کہ قریب ہے کہ یہ امت سب کی سب  
انبیاء ہوں :-

(مسند ابوداؤد طیالسی، ص ۳۵۳)

نیز خداوندِ عالم نے پہلی امتوں کے متعلق جب یہ ذکر فرمایا کہ وہ اپنے سے پہلی امتوں  
کے قائم مقام اور خلیفہ ہیں تو ساتھ ہی اس قوم کا بھی ذکر فرمایا جس کا خلیفہ اس  
امت کو کیا گیا تھا، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ  
مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ | " یاد کرو جب ہم نے قوم نوح کے بعد  
تمہیں خلیفہ بنایا :-

اور دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَاذْكُرْ اِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ  
مِنْ بَعْدِكَ عَادًا

” یاد کرو جب ہم نے تمہیں عادی  
بعد قائم مقام بنا دیا ؟“

جس میں کسی امت کو قوم نوح کا اور کسی کو قوم عاد کا خلیفہ اور قائم مقام بتلایا گیا ہے ، بخلاف خیر الامم کے کہ اس کی خلافت و نیابت کو کسی خاص قوم کے ساتھ مقید نہیں فرمایا بلکہ خلافت کے ساتھ فی الارض کی قید کا اضافہ کر کے اس کا صاف اعلان کر دیا کہ یہ امت محمدیہ علی الاطلاق تمام ام دنیا کی خلیفہ ہے ، اس کے بعد کوئی اور امت عالم دنیا میں آنے والی نہیں ۔

آیت نمبر ۶ | هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ  
خَلِيفَةَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ .

” وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین کا  
خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے درجات  
دوسروں پر بلند کئے ؟“

(آخر الانعام ، ۳۱)

آیت نمبر ۶۱ | هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً  
فِي الْاَرْضِ الْآيَةِ (فاطر ، ۳۲)

” وہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین  
پر خلیفہ بنایا ؟“

یہ آیات بھی آیت مذکورہ کی طرح اس امت کو تمام ام کا خلیفہ اور آخر الامم ثابت کرتی ہے جس کی تفصیل ابھی گزر چکی ہے ، مزید اطمینان کے لئے دیکھو تفسیر خازن صفحہ ۷۱ جلد ۲۔

يَعْنِي وَاللّٰهُ الَّذِي جَعَلَكُمْ بِنَا  
اُمَّةً مُّحَمَّدٍ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ  
فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَهْلَكَ مَنْ  
كَانَ تَبْلُكُم مِّنَ الْاُمَمِ الْحَالِيَةِ  
وَاسْتَخْلَفَكُمْ فَجَعَلَكُمْ خَلِيفَةً  
مِّنْهُمْ يُخَلِّفُوْنَهُمْ فِيْهَا وَتَعْبِرُ بِهَا  
بَعْدَهُمْ وَذٰلِكَ لِاَنَّ مُحَمَّدًا  
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

” اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں اپنے  
امت محمدیہ تمام زمین کا خلیفہ بنایا اس  
لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی تمام  
امم سابقہ کو ہلاک کر دیا اور تمہیں ان  
کا خلیفہ بنا دیا کہ تم زمین پر ان کی نیابت  
کرو اور ان کے بعد زمین کو آباد کرو ، اڈ  
یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد  
صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء اور

حَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَآخِرُهُمْ وَ  
أُمَّتُهُ آخِرُ الْأُمَمِ -  
آپ کی امت کو آخرالام بنایا ہے :

تفسیر خازن کی مذکورہ بالا عبارت میں خط کشیدہ عبارت کو غور سے دیکھئے جس میں ہماری گزارش کی پوری تصدیق ہے۔

نیز علامہ نسفی تفسیر مدارک میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس لئے آپ کی امت ساری امتوں کی خلیفہ بنی ہے

"قرب آہنچی قیامت اور شق ہو گیا چاند رجب کو قرب قیامت کی علامت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے"

لِأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ حَاتِمُ النَّبِيِّينَ فَأُمَّتُهُ  
قَدْ خَلَقَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ (مدارک)

آیت نمبر ۶۲ | اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ  
انْشَقَّ الْقَمَرُ  
(پارہ اقریب ۴)

آیت میں قیامت کے قریب ہونے سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہ پیدا ہوگا، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تصریح فرمائی ہے، دیکھو ابو حازم سلمہ بن دینار رضی اللہ عنہ کی حدیث ذیل :-

"ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح سمجھے گئے ہیں اور آپ نے اپنی شہادت کی اٹھل اور بیچ کی اٹھلی کو ملاکاتاً فرمایا ہے

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا  
وَ السَّاعَةُ هَكَذَا أَوْ أَشَارَ  
بِأَصْبَعَيْهِ السَّيَابَةِ وَالْوُسْطَى  
(بخاری و مسلم)

اور اسی مضمون کی عین حدیثیں امام احمد نے اپنے مسند میں حضرت سہل بن سعد اور حضرت انسؓ اور حضرت وہب سلوالیؓ سے بھی روایت فرمائی ہیں جن کو ابن کثیر نے آیت مذکورہ الصدق کی تفسیر میں پیش کیا ہے، دیکھو ابن کثیر صفحہ ۲۳۰، جلد ۹۔

اور حضرت ابن زعلیؓ کی ایک طویل حدیث میں یہی مضمون اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس میں یہ بھی تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت دونوں کے قریب ہونے سے یہی مراد ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی

اور نبی پیدا نہ ہوگا۔

اسی حدیث میں ابو زمر نے اپنا ایک طویل خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور آپ کا اس کی تعبیر بیان فرمانا ذکر کیا ہے۔ تمام خواب اور اس کی تعبیر اس جگہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وہ جملے نقل کر دینا کافی ہوں گے جو اس وقت ہمارا مقصد متعلق ہے، یعنی ابو زمر نے اس خواب میں منجملہ بہت سے واقعات کے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک نافر ہے اور اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے ہیں، آپ نے اس کی تعبیر میں ارشاد فرمایا :-

وَأَمَّا الشَّاتَةُ الَّتِي رَأَيْتَهَا  
رَأَيْتَنِي أَبْعَثَهَا فِي السَّاعَةِ  
عَلَيْهَا نَقَوْمٌ لَا نَسِيَّ بَعْدِي  
لَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي الْحَدِيثُ ،

۳ وہ نافر جس کو تم نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ  
میں اس کو چلا رہا ہوں وہ قیامت ہے جو  
ہم پر قائم ہوگی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوا  
نہ میری امت کے بعد کوئی امت ۴

۴ اخرجہ البیہقی فی دلائل النبوة ذکرہ ابن کثیر، ص ۲۶۹، ج ۱

آیت نمبر ۶۲ | اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ  
حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ  
مُعْرِضُونَ ۵ (انبیاء، ۱۰۱)

آیت نمبر ۶۳ | اَنَّىٰ اٰمُرُ اللّٰهَ فَاَلَا  
تَسْتَعْجِلُوْا (سورۃ نمل، ۱۰۱)

۳ لوگوں کے لئے اُن کا حساب (قیامت کا دن) قریب آگیا اور وہ غفلت میں  
اس سے روگردانی کر رہے ہیں ۵  
۴ آپہنچا خدا تعالیٰ کا حکم (یعنی قیامت) سو تم اس میں جلدت مچاؤ ۶

۵ ائمہ مفسرین نے عامۃً بیان فرمایا ہے کہ آیت میں امر اللہ سے قیامت مراد ہوا اور ناظرین معلوم کر چکے ہیں کہ قرآن میں قرب قیامت سے اشارہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی جدید نبی نہیں۔

آیت نمبر ۶۵ | كَذٰلِكَ يُوْحٰى اِلَيْكَ  
اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ  
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۶ (ابتداء شریف، ۱۰۱)

۳ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہوا آپ کی  
طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے  
ہیں، وہ اللہ جو زبردست حکمت والا ہے ۶

قرآن کریم نے اس مضمون کو بہت سی آیات میں بیان فرمایا کہ مسئلہ زیر بحث کا واضح فیصلہ فرمادیا ہے، جس کا بیان آیات نمبر ۳ لغایت نمبر ۷ میں گزر چکا ہے، اسی لئے

ہم ناظرین کرام کی توجہ اس طرف منعطف کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ پہلے اس پر غور فرمائیں کہ اس میں تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ خدا سے قدوس کے تمام انبیاء و رسل واجب الاحترام ہیں، اُن کا ذکر باعثِ برکات اور اُن کے ہر قدم پر آنے والی نسلوں کے لئے عبرتیں اور حکمت کے سبق ہیں، اور اسی لئے اُن کے حالات و واقعات اُو گراں قدر کارناموں کو جس قدر روشن کر کے بیان کیا جائے اسی قدر مفید اور نہایت مفید ہے جیسا کہ خود قرآن کریم کا طرز عمل بتلا رہا ہے۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت و رسالت باقی اور وحی نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو پہلی امتوں کی طرح اس امت کے لئے بھی انبیاء علیہم السلام کی دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک وہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گذر چکی ہے، اور دوسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی ہیں، اس صورت میں مناسب یہ تھا کہ قرآن عزیز دونوں قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کرتا، دونوں کے حالات کو بیان کرتا، جیسا کہ کتب سابقہ تورات و انجیل وغیرہ اسی طرز عمل سے معمور ہیں، اُن میں اگر ایک طرف انبیاء سابقین کے کارنامے دکھلا کر اس امت کے لئے درسِ عبرت پیش کیا گیا ہے، تو دوسری جانب بعد میں آنے والے انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات و علامات، اخلاق، عادات، تمدن، معاشرت، وطن، ہجرت گاہ وغیرہ اور ان کی شریعت کا طغریٰ امتیاز اس طرح بتلایا گیا ہے کہ جس کے معلوم کرنے کے بعد کسی شخص کو ان کے پہچاننے میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی، بلکہ بنقرِ قرآن ہونے والے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ پھر آنے والے انبیاء کی صورت خبر ہی نہیں دی بلکہ ان پر ایمان لانے اور ان کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بعثتِ انبیاء اور سلسلہ وحی جاری تھا تو مناسب بلکہ ضروری تھا کہ قرآن عزیز انبیاء سابقین کی طرح آنے والے انبیاء کا بھی مسلسل و مکمل تذکرہ کرتا اُن کے نام، اُن کا مولد، محلہ، اخلاق و عادات اور ایسے

حالات میدان کر دیتا کہ جن کے معلوم کرنے کے بعد امتِ مرحومہ کو آنے والے انبیاء کے پہچانے میں کوئی مشہبہ باقی نہ رہتا۔

بلکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو بعد میں آنے والے انبیاء کا تذکرہ بہ نسبت انبیاء سابقین کے زیادہ اہم اور ضروری تھا، کیونکہ انبیاء سابقین پر اجمالی ایمان کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس میں سے ہر شخص کا نام اور شخص معلوم ہو، اس کی ہدایتیں یاد ہوں، اس کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے، اور خود قرآن کریم کا ارشاد ہے

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ،

جس نے بتلادیا کہ بہت سے انبیاء سابقین کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلائے گئے، امت کا تو ذکر ہی کیا۔

الغرض انبیاء سابقین کے متعلق صرف اس قدر اجمالی ایمان کافی ہے کہ خداوند عالم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب حق و صداقت پر ہیں اُن کے شخصی حالات ایمان کا جزو نہیں۔ بخلاف بعد میں آنیوالے انبیاء کے کہ اُن کے دعوے کی تصدیق ان پر ایمان لانا، اُن کے تمام احکام کا اتباع امتِ مرحومہ کا اولین فرض ہے اور ان کی نجات کا مدار ہوگا۔ وہ جب تک آنے والے انبیاء کو نہ پہچانیں اور ان پر ایمان نہ لائیں، اگرچہ پہلے سب انبیاء پر کامل ایمان رکھیں ہرگز نجات نہیں پاسکتے۔

ایسی حالت میں انصاف سمجھئے کہ انبیاء سابقین کے حالات کا دہرانا، اُن کے شخصی حالات کا تذکرہ زیادہ اہم اور ضروری ہے، یا بعد میں آنے والے انبیاء کا؟ اس کے بعد قرآن کریم کی آیاتِ بدیئات پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ اس مجسم ہدایت نے بعد میں آنے والے انبیاء کے ذکر اور اُن کے حالات کا کہاں تک اہتمام کیا ہے اور انبیاء سابقین کا کہاں تک؟

ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے تیس پاروں میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں دکھائی جاسکتی جس میں کسی بعد میں پیدا ہونے والے نبی کا نام یا اس کا حلیہ یا اس کا وطن یا اور کوئی تشخص بتلایا گیا ہو، بلکہ بلا تعین اجمالی طور پر کہیں یہ بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوگا۔

بخلاف اس کے کہ انبیاء سابقین کے نام نامی ان کے وطن اور جائے قیام

کا اکثر بلکہ مکرر ذکر فرمایا گیا ہے، ان کے تبلیغی کارناموں اور قصصِ عبرت کو ایک مرتبہ اور ایک جگہ نہیں، بلکہ قرآن کے مختلف مواضع میں مکرر کر لوثایا گیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو دیکھئے کہ شاید کوئی پارہ ایسا نکلے جس میں اس قصہ کا تفصیلاً یا اجمالاً ذکر نہ ہو۔

تزیلِ عزیز کے اس طرزِ عمل اور طریقِ ہدایت میں کیا چشمِ بصیرت کے لئے یہ سبق نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ورنہ کس قدر حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ جس آنے والے نبی کا شخصی طور پر پہچانا، اس کے حالات معلوم کرنا، اس کے احکام کی پیروی کرنا امت کے لئے جزو ایمان اور مدارِ نجات ہے، اس کا تو کہیں نام بھی نہ لیا جائے، کوئی ذکر بھی نہ کیا جائے، اس کے بعد میں آنے کی طرف اشارہ بھی نہ فرمایا جائے، اور جن انبیاء سے سابقین پر اجمالی ایمان لانا کافی تھا ان کے ناموں کا معلوم ہونا، ان کے حالات و تشخصات کا جاننا، ان کے قصص کا پڑھنا جزو ایمان نہیں تھا، اس کو بار بار مختلف عنوانات سے سارے قرآن میں دہرایا جا رہا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور وحی کے تذکرے کے ساتھ میں قبل، میں قبلیک وغیرہ کی قید لگا کر اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبوت و رسالت اور وحی کے سلسلے صرف زمانہ قبل ہی تک محدود ہیں، بعد میں نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ سلسلہ وحی جاری رہے گا۔

اسی کی ایک نظیر وہ آیت کریمہ ہے جو اوپر تلاوت کی گئی ہے یعنی كَذٰلِكَ يُوحِي الْاٰیٰتِکَ وَ اِلٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ جس میں بتلایا گیا ہے کہ وحی الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف۔

غور کا مقام ہے کہ اگر بعد میں بھی یہ سلسلہ وحی جاری تھا تو اول تو لازمی تھا کہ اس کو نہایت روشن کر کے ذکر کیا جاتا اور امت کو اس کے اتباع کی تاکید اور ہدایت کی جاتی، اور اگر نہیں تھا تو کم از کم من قبلیک کی تخصیص کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ اس لئے یہ یقین کہا جاسکتا ہے کہ ستر آں عزیز میں وحی الہی کے ساتھ من قبلیک اور من قبل وغیرہ کی تخصیصات اس بات کا کھلا ہوا اعلان ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا جدید نبی پیدا نہ ہوگا۔

نزیرہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ تشریح میں ایک غیر منسوخ دابری قانون ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسلیں اسی کے زیر حکومت ہیں، یہاں تک کہ سرحد مرزائیہ کی دونوں پارٹیوں کی بھی ظاہراً اس میں خلافت نہیں، اس کے باوجود اس میں آئندہ پیدا ہونے والے انبیاء کا تذکرہ نہ ہونا، ان کے حالات کی تفصیل بلکہ اجمال کا بھی تذکرہ نہ ہونا قطعاً یہ حکم کر رہا ہے کہ آئندہ کسی طرح سے سلسلہ نبوت باقی نہیں۔

اگر کتب قدیمہ تورات و انجیل وغیرہ اس طرز عمل کو اختیار کرتی ہوئی صرف اپنے سے پہلے انبیاء کے تذکرہ پر اکتفا کرتیں، اور انبیاء کے ذکر کے ساتھ من قبل وغیرہ کی قیدیں لگاتیں، تو ایک درجہ میں غیر مناسب نہ تھا، کیونکہ وہ کتابیں ایک محدود زمانہ اور محدود اقوام کے لئے نازل کی گئی تھیں وہ اس کی کفیل نہ تھیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہدایت کا مکمل سامان پیش کریں، اور ان انبیاء کا مفصل ذکر کریں جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں۔

لیکن قرآن عزیز جو تا قیامت تمام انسانوں کے لئے نجات و ہدایت کا کفیل ہو کر دنیا میں آیا ہے، اگر سلسلہ نبوت و وحی جاری رکھنے کے باوجود وہ بعد میں آنے والے انبیاء کے مفصل حالات بیان نہیں کرتا تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ (معاذ اللہ) اس کی تعلیم اور ہدایت میں سخت نقصان ہے۔

جب ہم کتب سابقہ کو انبیاء مابعد کے مفصل اور مکمل حالات اور ان کے تذکرہ سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کے خلاف قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جدید نبی کا نام تک نہیں پاتے۔ مفصل حالات کو چھوڑ کر اجمال اور اشارت اور ہی اس کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ صراحتاً اور قطعاً انقطاع نبوت کے مکرر اعلان اس کی آیات میں تلاوت کرتے ہیں تو ایمان لانا پڑتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تشریحی یا غیر تشریحی اور بقول مرزا جی غلی یا بروزی نبی کو تجویز کرنا یقیناً

لہ اگرچہ حقیقت میں وہ صرف مرزا صاحب کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے اتباع میں بہت سے احکام شرعیہ کو صفائی سے روکتے ہیں ۱۲ منہ

اسلام اور شریعتِ اسلامیہ سے روگردانی اس کی نعوس کو ٹھکرانا اور کھلا ہوا اللہ زاد ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔

اس کے بعد ناظرینِ کرام وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں خداوندِ عالم نے انبیاء کے تذکرہ کے ساتھ من قبل وغیرہ کی قیدیں لگائی ہیں۔

تَنْبِيْهِ ۱۔ ان آیات سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بقول مرزا صاحبِ نبی کی کوئی قسم غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی وغیرہ بھی شریعت میں معتبر ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی منقطع ہے، کیونکہ نبی خواہ کسی نوع کا ہو اس کا ایمان لانا فرض اور اداس سے اعراض کفر ہے۔

ایسی حالت میں قرآن کریم کا آنے والے غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی نبی کا کوئی تذکرہ نہ کرنا بلکہ اس کے خلاف انقطاعِ نبوت کا اعلان کرنا اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اقسام میں سے بھی کسی قسم کا کوئی نبی بھیجتا حق تعالیٰ کو منظور نہیں۔

اس جگہ ایک اور بات بھی قابلِ غور ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر جو انتہائی شفقت تھی اس کے پیش نظر آپ نے قیامت تک امت کے سامنے پیش آنے والے تمام اہم معاملات کو ایک ایک کر کے نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جس کا بیان احادیثِ نبویہ میں اہتمام کے ساتھ آتا ہے ایک طرف آئندہ آنے والے فتنوں اور اُن کے بڑے قائدوں کے پورے نشانات اور پتے بتلا کر ان سے محفوظ رہنے کی تدبیریں تلقین فرمائیں، تو دوسری طرف ایسے بزرگوں کے پورے نام و نشان بتلائے جو ملت کی رہنمائی کریں گے۔ مثلاً دجالوں کے آنے کی خبر اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کی تدبیریں، آنے والے فتنوں کی نشانیاں، ان کے وجوہ و اسباب، ان کے شر سے بچنے کی صورتیں، احادیثِ صحیحہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اسی طرح امت کی رہنمائی کرنے والے بزرگوں کے نام لے کر

کہیں فرمایا اِقْتَدُوا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ اِنَّ بَيْنَكُمْ وَّعَسْرًا (تفسیر، ابن ماجہ)

کہیں ارشاد فرمایا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَءٰى اٰمَنُوْا

وَرَءٰى اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَءٰى اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ (صافی از کبیر)

ہیں خلفائے راشدین کی سنت و طریق کو مضبوط پکڑنے کی ہدایت فرمائی تو کہیں  
تَشْكُوْا بِعَقْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (ترمذی) ارشاد ہوا۔

اور حَوَارِیَ الرَّبِّیْرِ (بخاری) اور اَمِیْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُو عَبِيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ  
(بخاری و مسلم) اور مِسْنَمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَمْرُو الْعَبَّاسِ وَ مِسْبَطُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ  
الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (کنز، ص ۳۰، ۶۳) اور حَیْزُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ  
(خطاب، کنز) اور اَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (کنز) فرما کر امت  
کے رہنماؤں اور مقتداؤں کے نام دیتے بتلا دیئے۔

یمن سے اویس سترنی کے آنے کا پتہ دیا (مسلم) ملک شام میں ابدال پیدا  
ہونے کا ذکر کیا (مسند احمد) ہر صدی کے شروع میں مجدد پیدا ہونے کا اظہار فرمایا (ابوداؤد)  
آخر زمانہ میں امام مہدی کے پیدا ہونے کا تفصیلی تذکرہ اور ان کی علامات اور پوری  
نشانیوں بتلائیں (العرف الوردی فی اخبار المہدی)

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آخر زمانہ میں آسمان سے اترنا بیان فرمایا اور  
ان کی اتنی علامات و نشانات واضح طور پر بتلائے کہ اس سے زیادہ کسی شخص کے  
نشانات متعین کرنا عا دۃً ممکن نہیں (التصریح بما تواترت فی نزول المسیح)

رحمۃ للعالمین نے امت کی حفاظت و ہدایت کے لئے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی ایک  
حدیث میں اس کا اشارہ تک نہ فرمایا کہ ہمارے بعد فلاں نبی تشریحی یا غیر تشریحی ظلی یا  
بروزی فلاں ملک، فلاں زمانہ میں پیدا ہوگا، یہ اس کی علامات ہوں گی، اس کی  
اطاعت امت پر فرض ہوگی، اطاعت نہ کی گئی تو امت کافر، گمراہ اور ابدی عذاب  
میں مبتلا ہو جائے گی۔

ہاں ذکر فرمایا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ آسمان سے نازل ہونے  
کا ذکر فرمایا، جن کو نبوت اس دنیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے،  
اور ستر آں اُن کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔

پھر یہ بھی واضح فرما دیا کہ آخر زمانہ میں اس امت میں ان تشریف لانا باوجود منصب  
نبوت پر قائم ہونے کے بحیثیت نبی نہیں، بلکہ ایک امام اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ  
علیہ وسلم کی حیثیت میں ہوگا، جیسے ایک صوبہ کا گورنر یا وزیر اعظم کسی دوسرے صوبہ میں چلا

جائے تو وہ اپنے عہد گوارزی یا ادارت سے معزول نہیں ہوتا، مگر اس دوسرے موہیل میں کہ جو اس حیثیت سے نہیں ہوتا پھر آخر زمانہ میں آنے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر ایک سو سے زیادہ احادیث نبویہ میں اتنی تفصیل و توضیح کے ساتھ کیا گیا اور ان کے نشانات اور پتے دیئے گئے کہ کسی شخص کے اس سے زیادہ پتے دینا عادتاً ناممکن ہے تاکہ آنے والے مسیح کے بارہ میں امت کو کوئی التباس و اشتباہ نہ ہے (آنے والے مسیح کی علامات اور نشانیاں جو نصوصِ ستران اور احادیث نبویہ میں مذکور ہیں ان کو ہم نے ایک مستقل حصہ "مسیح موعود کی پہچان" میں درج کیا جو یہ رسالہ شائع شدہ ہے ملاحظہ فرمایا جائے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سوا اس امت میں کسی نبی یا رسول کے پیدا ہونے کا قطعاً کوئی تذکرہ بلکہ اشارہ تک کسی حدیث میں نہیں، بلکہ اس کے خلاف اس کی بے شمار تصریحات موجود ہیں کہ آپ کے بعد کسی قسم کا منصبِ نبوت کسی کو عطا نہیں ہوگا۔

قرآن کریم نے بھی جہاں ایمان کے بنیادی اصول بتلائے (جیسے آیت مذکورہ الصّدق میں) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ساتھ صرف انبیاء سابقین کی وحی کو شامل فرمایا، کسی بعد میں پیدا ہونے والے تشریحی یا غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی نبی اور اس کی وحی کا مطلقاً کوئی ذکر نہ کیا۔

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراختتامِ نبوت اور انقطاعِ وحی نبوت پورے قرآن اور ذخیرہ احادیث میں اور کوئی بھی ثبوت نہ ہوتا تو ایک سمجھ دار آدمی کے لئے اتنا ہی کافی تھا جس سے وہ یقین کر لیتا کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول پیدا ہونے والا نہیں، اور نہ آپ کے بعد وحی و نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔

بقول قادیانیہ اگر نبوت کی کچھ اقسام تشریحی یا غیر تشریحی یا ظلی بروزی ہوتیں، اور ان میں سے کوئی قسم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی رہنے والی ہوتی، تو کیا اس موقع پر لازم نہ تھا کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا، کہ فلاں قسم کا نبی فلاں فلاں علامات کے ساتھ آئے گا اس پر بھی ایمان لانا فرض ہوگا، اور جو کچھ اس پر نازل ہوگا اس کا

سبھی تسلیم کرنا، اور اس کی اطاعت کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہوگا۔

” اور ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے،

بہت اُستوں کی طرف؟

” لے محمد! آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے

کس قدر پیغمبر آئے معجزے لیکر؟

” آپ سے پہلے بہت سے رسول

جھٹلائے گئے؟

” اور مذاق اڑایا گیا ہے ان رسولوں کا

جو آپ سے پہلے گزرے؟

” اور جھٹلائے گئے ہیں بہت سے

رسول تم سے پہلے؟

” اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی

والوں میں سے جتنے (رسول) بھیجے سب

آدمی ہی تھے (کوئی بھی فرشتہ نہ تھا)؟

” اور ٹھٹھا کیا گیا ہے بہت سے رسولوں

کے ساتھ آپ سے پہلے؟

” اور ہم نے بھیجے ہیں بہت سے رسول

آپ سے پہلے؟

” لے محمد! آپ سے پہلے بھی ہم نے بھی مرد

بھیجے تھے کہ ہم حکم بھیجتے تھے ان کی طرف؟

” اللہ کی قسم ہم نے بہت سے رسول بھیجے

بہت سے فرقوں میں آپ سے پہلے؟

” اور جو کتاب ہم نے آپ کے طرف بھجوری

بھیجی وہی سچی ہے، تصدیق کرنے والی اپنے

سے پہلی وحی کی؟

آیت نمبر ۶۶ | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ

مِن قَبْلِكَ (انعام، ۶۶)

آیت نمبر ۶۷ | قُلْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن

قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ الْآيَةِ (آل عمران، ۶۷)

آیت نمبر ۶۸ | فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلُ

مِن قَبْلِكَ (آل عمران، ۶۸)

آیت نمبر ۶۹ | وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلِ

مِن قَبْلِكَ (انعام، ۶۹)

آیت نمبر ۷۰ | وَلَقَدْ كَذَّبَ بَنُو رُسُلِ

مِن قَبْلِكَ (انعام، ۷۰)

آیت نمبر ۷۱ | وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ

إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّن

أَهْلِ الْقُرَىٰ (يوسف، ۷۱)

آیت نمبر ۷۲ | وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلِ

مِن قَبْلِكَ (رعد، ۷۲)

آیت نمبر ۷۳ | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا

مِن قَبْلِكَ (رعد، ۷۳)

آیت نمبر ۷۴ | وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ

إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ (نمل، ۷۴)

آیت نمبر ۷۵ | تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ

أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ (نمل، ۷۵)

آیت نمبر ۷۶ | وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مَصَدَّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (فاطر، ۷۶)

”دستور پڑا ہوا ان رسولوں کا جو آپ سے پہلے بھیجے ہم نے؟“  
 ”ہم نے آپ سے پہلے جو کوئی رسول بھیجا اس کو بھی وحی کی کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں میرے سوا سو میری ہی بندگی کر دے؟“

آیت نمبر ۷۷ | سِنَّةً مِّن قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلِكَ  
 مِّن رُّسُلِنَا (بنی اسرائیل، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳)  
 آیت نمبر ۷۸ | رَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ  
 مِّن رُّسُولٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ  
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْ وَاِنۡ  
 (انبیاء، ۲۲۰، ۲۲۱)

ظاہر ہے کہ یہ توحید کی تعلیم لازماً نبوت ہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول بھیجا جاتا تو اس کے لئے بھی یقیناً وحی ہوتی، اس کے لئے انبیاء ماقبل کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں، اس وحی میں مِّن قَبْلِكَ کی تہذیباً اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بھیجا جائے گا۔

”ہم نے آپ سے پہلے جو کوئی رسول اور نبی بھیجا ہے اور؟“  
 ”اور جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول سب کھانا کھاتے تھے؟“

آیت نمبر ۷۹ | رَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ  
 مِّن رُّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ . الْاٰیٰتِۃُۤ اٰتٰتِ  
 آیت نمبر ۸۰ | رَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ  
 مِّن الرُّسُلِۙ اِلَّا اَنۡهَمۡ  
 لِيَاْكُلُوۡنَ الطَّعَامَ (زمر، ۲۱۷)

یہ الفاظ بھی قابل لحاظ ہیں، کیونکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی مبعوث ہوتا تو یقیناً وہ بھی کھانے پینے سے بری نہ ہوتا، پھر اس میں انبیاء ماقبل کی تخصیص کا اس کے سوا کیا فائدہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کے انقطاع کا اعلان کرنا منظور ہے۔

”آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے؟“

”آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی بھی گئی کہ اگر (بالعرض) تم بھی شرک کرو تو تمہارے بھی سائے عمل حبط (بیچار) ہو جائیں، اور تم خسارہ والوں میں داخل ہو جاؤ؟“

آیت نمبر ۸۱ | فَتَقَدَّرُۙ كَيْۤسٌ رُّسُلٍ  
 مِّن قَبْلِكَ (فاطر، ۲۲۱)  
 آیت نمبر ۸۲ | وَ لَعَلَّكَ اُوْحٰی اِلَيْكَ وَاِلٰی  
 الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْۢ اَشْرَکْتَ  
 لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ تَكُوْنَنَّ مِنَ  
 الْخٰسِرِیۡنَ ۙ  
 (زمر، ۲۲۲)

اس میں بھی یہ بات غور طلب ہے کہ شرک اگر جبط عمل اور خسانہ کا باعث ہے تو وہ صرف انبیاء سابقین ہی کے لئے نہیں بلکہ اگر بعد میں بھی کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔

اس کے باوجود میں قبلیک کی تخصیص سے کیا اس کی طرف صاف اشارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ یہ احکام اس پر جاری ہوں گے، ورنہ یہ تو ظاہر ہے کہ شریعتِ خداوندی کسی بعد میں آنے والے نبی کے لئے شرک کو جائز نہیں رکھے گی۔

”آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو سب رسولوں سے آپ سے پہلے کہا گیا کہ آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دنیا کا عذاب والا“

آیت نمبر ۸۲ | مَا يُقَالُ لَكَ الْإِمَّاذَنْ  
قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ  
رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ  
أَلِيمٌ (م السجدہ، ۸۲)

اس میں بھی ظاہر ہے کہ انبیاء ماقبل کی تخصیص نہیں، اگر آپ کے بعد بھی انبیاء ہوتے تو یقیناً ان سے بھی یہی کہا جاتا، پھر من قبلیک کی تخصیص کا اس کے سوا کیا نائدہ ہے کہ انقطاع نبوت بتلانا منظور ہو کہ نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ یہ وحی اس کی طرف بھیجی جائے گی۔

”ایسے ہی وحی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف جو زبردست اور حکمت والا ہے“

آیت نمبر ۸۳ | كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ  
وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ  
الْعَزِيزُ الْخَبِيرُ (شوری، ۸۳)

آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی بھیجنے میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کی تخصیص کیا یہ نہیں بتلاتی کہ انبیاء ماقبل کے علاوہ اور کسی پر وحی نہ بھیجی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اگر بعد نزول وحی ہوگی تو وہ اس کے مخالف نہیں، کیونکہ وہ انبیاء سابقین میں داخل ہیں۔

”اور اسی طرح جو رسول بھیجہاں آپ سے پہلے کسی بستی میں الخ“

آیت نمبر ۸۵ | وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا  
مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ ذُنُوبٍ  
الْأُولَىٰ (زخرف، ۸۵)

” اودان رسولوں سے دریافت کر لیجئے  
جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ؟“

آیت نمبر ۸۶ | وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا  
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

زخرف، ۲۵

ان کثیر التعداد آیات کریمہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبوت و رسالت اور وحی وغیرہ کے سلسلہ کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے اس کو اکثر ماقبل کے ساتھ مخصوص بتلایا گیا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام پیدا ہونے والے تھے تو قرآن کریم کا یہ اسلوب قطعاً حکمت کے خلاف ہو جائے گا (والعیاذ باللہ) کیونکہ اس صورت میں اول تو یہ مناسب تھا کہ بعد میں آنے والے انبیاء کا فضل تذکرہ ان کے اسماء گرامی، ان کے موطن و جہاں حبر وغیرہ بیان کئے جاتے، اور نسبت انبیاء سابقین کے ان کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا۔

اور اگر یہ بھی نہیں تھا تو کم از کم نبوت و رسالت اور وحی کے سلسلہ کے ساتھ مِنْ قَبْلِكَ وغیرہ کی تخصیصات اور قیود بڑھا کر اُمت کو اس مشہر میں تو نہ ڈالا جاتا کہ بعد میں کوئی نبی اور وحی آنے والی نہیں۔

قرآن عزیز کے اس اسلوب حکیم پر ایک نظر ڈالنے والا اس پر یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب مجید کو اس طرز تحریر کے ذریعے سے یہی بتلانا منظور ہے کہ کسی قسم کی نبوت اور کسی قسم سے وحی نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد جاری نہ رہے گا۔ ان صاف و صریح شواہد کو بھی اگر کوئی نظر انداز کرے تو اس کی قیمت۔

غیر تشریحی یا ظلی بردوزی | اس سلسلہ آیات سے قادیانی دجل و تحریف کا بھی بالکل ازالہ  
نبوت کا انقطاع بلکہ ابطال ہو جاتا ہے جو قسم نبی غیر تشریحی یا ظلی یا بردوزی وغیرہ کے عنوانات  
سے بیان کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آیات ختم نبوت صرف نبی تشریحی کے آنے سے  
مانع ہیں، غیر تشریحی یا ظلی و بردوزی آسکتے ہیں۔

کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر غیر تشریحی یا ظلی و بردوزی کوئی قسم نبی کی عند اللہ مقبول ہوئی اور وہ بعد میں جاری ہونے والی ہوتی تو ضروری تھا کہ قرآن حکیم جو باتفاق قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کا کفیل ہو کر آیا ہے وہ بہ نسبت انبیاء سابقین کے ان آنے والے انبیاء کے حالات و مقامات کو نہایت اہتمام سے روشن کر کے بیان کرتا۔

مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے آنے والے انبیاء کی خبر دینے اور ان کے حالات بیان کرنے کے قرآن حکیم اپنی غیر معمولی آیات میں انقطاع سلسلہ نبوت کی خبر دیتا ہو اور جہاں کہیں انبیاء اور نبوت و رسالت کا تذکرہ آتا ہے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ماقبل کے ساتھ مقید کرتا ہے تو ہمارے نزدیک کسی شب پرہ چشم کو بھی اس حقیقت سے آنکھ چرانے کی مجال نہیں رہتی، کہ اگر بالفرض غیر تشریحی یا ظنی و بروزی کوئی قسم نبوت کی عند اللہ معتبر بھی ہوتی تو وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ کیا مرزا غلام احمد کا دم بھرنے والوں میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ڈبے، اور اس بدابہت کا اعتراف کرے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے بچائے۔

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

آیت نمبر ۸۷ | ذَكَرْنَا مِنْ نَبِيِّ  
 فِي الْأَوَّلِينَ (سورہ زمر، ۲۵) | اور بہت رسول بھی ہم نے پہلے  
 امتوں میں ۝

یہ آیت کریمہ اور اسی طرح تمام مذکورہ آیات جن میں بعثت انبیاء اور نزول وحی کا ذکر ہے سب کی سب اُممِ اولین اور زمان ماقبل میں نبوت اور وحی نبوت کو ثابت کرتی ہیں، مگر مابعد کے زمانہ کے لئے کوئی اشارہ بھی نہیں پایا جاتا حالانکہ اس کا بیان اس سے زیادہ اہم تھا جیسا کہ مفصل گذر چکا ہے۔

لہذا آیات قرآنیہ اس عظیم الشان ذخیرہ کو دیکھنے والا اس پر ایمان لانے کیلئے یقیناً مجبور ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا سلسلہ نبوت و وحی باقی نہیں۔

۝ پھر ہم نے قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں انتخاب کیا، پھر ان میں (تین قسم کے لوگ ہیں، بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے رگنہنگاں اور بعض بیچ کی چال پر چلنے والے اور بعض نیکیوں میں بڑھنے والے، اللہ کے حکم سے، یہی ہے بڑی بزرگی ۝

آیت نمبر ۸۸ | ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ  
 الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا  
 فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ  
 مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ  
 يُؤْتِنَا اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ  
 الْكَبِيرُ

(فاطر، پ ۲۲، ع ۳۷)

اس آیت کریمہ نے دارین مسترآن یعنی امتِ مرحومہ کو تین جماعتوں میں تقسیم کیا ہے، جن کی تعیین میں صحابہ کرام سے چند قول مروی ہیں۔

حضرت عقبہ ابن صہبان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو فرمایا،

” پیارے! یہ تینوں جماعتیں تمہاری امت میں ان میں سے سابق بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر گئے، آپ نے ان کے لئے جنت کی بشارت دی۔ اور مقتصدہ لوگ ہیں جو آپ کے اصحاب میں سے ان کے نشان قدم پر چلے اور ظالم انفسہ ہم جیسے لوگ ہیں۔“

يَا بَنِي هَوَالَاءِ فِي الْجَنَّةِ أَمَّا  
السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ فَمَنْ مَعْنَى  
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَأَمَّا  
الْمُقْتَصِدُ فَمَنْ اتَّبَعَ أَثَرًا مِنْ  
أَصْحَابِهِ حَتَّى الْوَقْفَ بِهِمْ وَأَمَّا  
الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَمِثْلِي وَمِثْلَكُمْ  
تفسیر ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم (ج ۱ ص ۸۶)

راوی کہتے ہیں کہ یہ صدیقہ عائشہؓ کی تواضع اور کسر نفسی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظالم انفسہ میں شمار کیا ورنہ وہ تو سابقین بالخیرات میں اعلیٰ درجہ پر ہیں۔

اور حضرت عثمانؓ سے ان تینوں جماعتوں کی تعیین میں یہ روایت کیا جاتا ہے کہ،

” ظالم انفسہ گاؤں والے ہیں (جو اہل علم سے دور رہتے ہیں) اور مقتصدہ شہر والے ہیں،

اور سابق بالخیرات اہل جہاد ہیں۔“ (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم، صفحہ ۱۹۶، جلد ۸)

ان تینوں جماعتوں کی تعیین خواہ صدیقہ عائشہؓ کے قول کے مطابق کی جائے یا حضرت عثمان غنیؓ کے، لیکن اتنی بات بالاجمال دونوں میں متفق علیہ ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت انبیاء کی جماعت نہیں، بلکہ وہ سب صحابہ کرام ہیں، یا بعد میں آنے والے عام امتی۔

بالخصوص صدیقہ عائشہؓ کا قول تو اس میں بالکل صاف ہے، کیونکہ ان کی تفسیر پر سابق بالخیرات سے وہ صحابہ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وفات پا چکے، اور آپ نے ان کے لئے جنت کی بشارت دی، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی نبی نہیں تھا، خود مرزا جی اور ان کی امت بھی صحابہ کرام میں سے

کسی کو نبی نہیں مانتے۔

اور جب امت کے افضل ترین طبقہ یعنی سابقین بالخیرات میں انبیاء نہیں تلامتقد اور ظالم نفع میں اظہر ہے کہ انبیاء نہیں ہو سکتے، اور نہ مقتصد اور ظالم نفع کے القاب شانِ نبوت کے کسی طرح مناسب ہیں۔

الحاصل جو لوگ کتابِ مسبین یعنی سترآن مجید کی وراثت کے لئے منتخب کئے گئے ہیں، ان کی تین جماعتیں ہیں اور ان تینوں جماعتوں میں کسی نبی کا ذکر نہیں بلکہ ایک طرح سے نفی موجود ہے، تو کیا یہ اس امر کا واضح ثبوت نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فرد نبوت کا باقی نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز کا وارث اور اس کی شریعت کا پابند ہو کر بھی کوئی نبی اس امت میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس سے اس غیر تشریحی اور ظلی نبوت کی بھی نفی ہو گئی جو مرزاجی نے مسلمانوں کو پہلانے کے لئے ایجاد کی ہے۔

”جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے لئے  
منہ آگ میں کہیں گے کاش ہم نے اطاعت  
کی ہوئی اللہ کی اطاعت کی ہوتی دھما  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی“

آیت نمبر ۸۹ | **يَوْمَ تُقَلَّبُ دُجُوهُهُمْ فِي  
النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اطَّعْنَا  
اللَّهَ وَاطَّعْنَا الرَّسُولَ**

۱۱ حزب، پ ۲۲

آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالنے سے صاف ظاہر ہے کہ الرسل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اس لئے پہلے یسٹلٹ اور مایدیٹک وغیرہ کے الفاظ دیکھو۔ لہذا آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس امت کے کفار کو جہنم میں اسی پر عذاب ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہ کی، اور اسی پر ان کو حسرت ہوگی۔ اور اگر آپ کے بعد اور انبیاء بھی پیدا ہونے والے تھے، اور ان کی اطاعت بھی امت کے لئے ضروری تھی تو اس اطاعت کے ترک پر بھی عذاب ہونا چاہئے تھا، اور اظہارِ حسرت کے وقت کفار کا یہ قول ہونا چاہئے تھا اطَّعْنَا الرَّسُولَ یعنی کاش ہم ان سب رسولوں کی اطاعت کرتے جو ہماری طرف بھیجے گئے۔

اور اسی طرح آیت ذیل بھی اسی معنی کی شاہد ہے۔

”اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا، اور  
کے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آیت نمبر ۹۰ | **وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمَةُ عَلَى  
يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ**

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (پلانا)

کے ساتھ راستہ اختیار کرتا ہے  
اور ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کی  
طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے

آیت نمبر ۹۱ | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً

لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سورہ سبأ، ۲۱)

اس مضمون کی چند آیات پہلے گزر چکی ہیں اور ان کے ذیل میں صورت استدلال بھی  
بیان کر دی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے  
لئے عموم بعثت ثابت کرتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک تمام پیدا  
ہونے والی نسلوں کی ہدایت کے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفیل بنا دیئے گئے ہیں  
آپ کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت کی (خواہ وہ کسی صورت سے ہو) ہرگز ضرورت نہیں۔

آیت نمبر ۹۲ | إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

سورہ سبأ، ۲۲

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ڈرانے  
والے ہیں ایک آنے والے عذاب شدید  
سے پہلے

اس آیت کریمہ میں عذاب شدید سے قیامت مراد ہے، جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ  
مفسرین نے تصریح فرمائی ہے (دیکھو تفسیر ابن کثیر، ص ۱۷۶، ج ۸)۔

اور اس لئے اس آیت کا حامل بھی وہی ہے جو اوپر چند آیتوں سے ثابت ہو چکا  
ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی پیدا ہونے والا  
نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر حدیث ذیل سے کی ہے:-

عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثْتُ

أَنَا وَالسَّاعَةَ جَمِيعًا إِنَّ كَادَتْ

لَتَسْبِقَنِي. رواه أحمد في

مسندہ (ابن کثیر)

حضرت بريدہ راوی ہیں کہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور  
قیامت دونوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں  
(گویا) وہ تو مجھ سے بھی آگے ہوئی جاتی  
تھی

اس حدیث شریف کا مضمون آیت مذکورہ کی تفسیر اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، اور قیامت  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہونے سے یہی اور صرف یہی مراد ہو سکتا ہے  
ورنہ معاذ اللہ یہ کلام نبوی واقع کے خلاف ہوگا، بالخصوص آج جب کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی تقریباً ساڑھے تیرہ سو برس گزر چکے ہیں اور قیامت آج تک بھی نہیں آئی۔ پس اتنی طویل اور عریض مدت کے ہوتے ہوئے اگر قیامت کو قریب کہا جاسکتا ہے تو صرف اس اعتبار سے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔

” مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو  
مضبوط بات سے ، دنیا کی زندگی میں  
اور آخرت میں “

آیت نمبر ۱۳ | يَشْتَبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ  
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَهُوَ  
سورة ابراہیم ، ۱۳

یہ آیت کریمہ عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، جس کی تفسیرِ حدیث میں اس طرح فرمائی گئی ہے ، صحیح بخاری میں بروایت برابر ابن عاذب مذکور ہے کہ :-

” جب مومن اپنی قبر میں بٹھایا جائے گا  
تو اس کے پاس سترشتے آئیں گے پھر  
وہ شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی  
معبود نہیں ، اور محمد ، رسول اللہ  
ہیں ، پس یہی قول ثابت ہے جو آیت  
یثبت اللہ میں مذکور ہے “

إِذَا أُنْقِذَ الْمُتَوَكِّلِينَ فِي قُبْرِهِمْ  
أَتَتْهُمْ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَشْتَبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ  
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ الْآيَةِ  
(بخاری ، ۱ ، ۱۸۳)

اور صحیح مسلم اور نسائی اور ابوداؤد ، ابن ماجہ ، اسمعیلی ، ابو عوانہ وغیرہ میں بھی یہ روایت کسی قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے ، جس کے بعض الفاظ میں ہے کہ مومن قبر میں شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا ، پس یہی قول ثابت ہے ۔

اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟  
پس وہ کہے گا ، رَبِّيَ اللَّهُ وَرَبِّيَ مُحَمَّدٌ (میرا پروردگار اللہ ہے اور میرے نبی محمد  
صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں)۔ (دیکھو فتح الباری ، ص ۲۰۳ ج ۱)

الغرض ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ آیت میں قول ثابت سے وہ کلام مراد ہے جو مسلمان سوالِ قبر کے جواب میں کہے گا ۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں جب نبوت پر کلام آئے گا تو وہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بتلا کر امتحان میں کامیاب ہوگا۔

بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ جواب میں یوں کہے گا۔

”میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں“ دیکھو درمنثور ص ۱۶۵

ج ۶ کی روایت مذکورہ

اب اہل انصاف غور فرمائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی خواہ کسی قسم کے ہوں دنیا میں مبعوث ہوتے اور مسلمان ان پر ایمان لاتے تو ضرور تھا کہ جب قبر میں نبوت کا سوال ہوتا تو وہ اس نبی کا نام لیتے۔

لیکن ہم معاملہ برعکس دیکھتے ہیں تمام مسلمان کرکھی ہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد ہیں اور اس کے ساتھ ہی مرزاؤں ادا م کا خاتمہ کرنے کے لئے یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ آخر النبیین ہیں، اور جب آیت مذکورہ میں قول ثابت سے یہی مراد ہے یہ آیت کریمہ مطلقاً ختم نبوت کے لئے ایک قوی دلیل ہے۔

<p>۱۰۱ محمد فرمادے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اگر تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا</p>	<p>آیت نمبر ۱۳   قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ</p> <p>(سورۃ آل عمران، پ ۲۴۰)</p>
---	--

اس آیت کریمہ میں اس امت کے لئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر محبت خداوندی کا وعدہ ہے اور کسی نبی کے اتباع یا اس پر ایمان لانے پر یہ قوت نہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی تشریحی نبی پیدا ہوگا اور نہ بقول مرزا جی غیر تشریحی یا ظلی بروزی، کیونکہ اگر کوئی نبی پیدا ہو تو لازمی ہے کہ اس پر ایمان لانے اور اس کا اتباع کرنے کے بغیر کوئی شخص محبوب خدا نہ بن سکے، جیسا کہ اس سے پہلے بہت تفصیل کر رہا تھا چکا ہے۔

<p>۱۰۲ وہ لوگ اب کس چیز کا انتہا کر رہے ہیں جو اس کے کہ ان پر قیامت اچانک ہی پہنچ جائے اس لئے اب قیامت کی علامات آ رہی ہیں؟</p>	<p>آیت نمبر ۱۹   مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا</p> <p>(سورۃ محمد، پ ۲۶)</p>
---	--

تفسیر جامع السببان صفحہ ۲۳۵ اور تفسیر کبیر صفحہ ۵۲۱ ج ۷، وغیرہ میں اس آیت

کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ -

وَمِنْ أَشْرَاطِهَا مَبْعَثُ رَسُولٍ لِّدَوْلَةٍ  
مَلَئِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

”اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت  
خود علامات قیامت میں سے ہے :“

بعثت نبویؐ کو اس آیت نے علامات قیامت قرار دیا جس کی وجہ یہ ہے کہ آپؐ کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیتؑ کی حدیث میں مفصل بیان فرمایا ہے، جس کی شرح آیت نمبر ۶۲ کے تحت میں گذر چکی ہے اور تفسیر صحیح

آیت نمبر ۶۶ | اِنَّ هُوَ الَّذِي ذَكَرَ لِلْعَالَمِيْنَ  
وَلَعَلَّكُمْ نَبَاٌۢ بَعْدَ حَيْثُ ۙ

”یہ تو ایک نعمت ہے جہاں والوں کو  
اور تم معلوم کر لو گے اس کا حال

(سورہ ص، پ ۲۳)

تھوڑی دیر پہلے :“

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم بعثت بتلا کر ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا مفصل بیان پہلے گذر چکا ہے۔

آیت نمبر ۹۷ | فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ  
بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ  
يَدَيْهِ . ( بقرہ، پ )

”سو جو میری طرف سے یہ قرآن آپ کے قلب  
تک پہنچا دیا ہے خداوندی حکم سے اس کی یہ  
حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اس وحی کی  
جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے :“

آیت نمبر ۹۸ | وَلَمَّا جَاءَهُمْ رِسُوْلٌ  
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا  
مَعَهُمْ . ( بقرہ، پ )

”اور جب آیا ان کے پاس رسولؐ (محمدؐ)  
اللہ کی طرف سے جو اس وحی کی تصدیق  
کرتا ہے جو اہل کتاب کے ساتھ تھی۔  
(یعنی تورات و انجیل وغیرہ) :“

آیت نمبر ۹۹ | وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ  
لِّمَا مَعَهُمْ . ( بقرہ، پ )

”قرآن مجید حق ہے اس وحی کی تصدیق  
کرنے والا جو اہل کتاب کے ساتھ تھی یعنی  
تورات و انجیل وغیرہ) :“

ان تینوں آیات قرآنیہ کا حاصل یہ ہے کہ جو وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اس وحی کی تصدیق کرنے والی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو چکی ہے۔ اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے موجود ہیں، اور اوپر لکھی جا چکی ہیں

اگر ذرا تدبر سے کام لیا جائے تو ان سب آیات میں انقطاع وحی و نبوت کا واضح اعلان ہے، کیونکہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور آپ سے پہلی کتب سادہ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک طرف اپنے سے پہلے انبیاء اور ان کی طرف نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتے ہیں تو دوسری طرف آئندہ آنے والے نبی اور نازل ہونے والی وحی کی خوشخبری بھی امت کو سناتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی امت کو دعوتِ اسلام دیتے ہیں تو فرماتے ہیں:-

” میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں،  
تصدیق کرنے والا اس وحی کی جو مجھ سے  
پہلے نازل ہوئی یعنی تورات اور خوشخبری  
دینے والا ایک اور رسول کی جو آئیں گے  
میرے بعد جن کا نام نامی احمد ہے“

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ  
مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي  
اسْمُهُ أَحْمَدُ .

(سورہ صاف، ۱۱۳)

جس میں ایک طرف وحی ماضی کی تصدیق ہے، تو دوسری طرف بعد میں آنے والے رسول کی بشارت بھی موجود ہے۔ لیکن مترجم مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعینہ اس مضمون کو بیان فرماتے ہیں تو اس اسلوب کو چھوڑ کر صرف اپنے سے پہلی وحی کی تصدیق پر اکتفا کرتے ہیں، زمانہ مابعد کے متعلق کسی نبی یا کسی وحی کا کوئی تذکرہ نہیں فرماتے، حالانکہ اگر بعد میں بھی سلسلہ وحی جاری مانا جائے تو اس کی بشارت اور تصدیق پر نسبت ماقبل کے زیادہ اہم ہے، جیسا کہ اوپر مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔

کیونکہ کتب سابقہ کی تصدیق اگر اہل کتاب کی توجہ دین محمدی کی طرف کھینچنے والی ہے تو بعد میں آنے والے نبی اور نازل ہونے والی وحی کی بشارت اور اس کی تصدیق تمام امت محمدیہ کی آئندہ نسلوں کے لئے مدارِ نجات ہے۔

باایں ہمہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن عزیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے سے پہلے انبیاء اور ان کی وحی کی تصدیق پر اکتفا فرماتے ہیں، اور مابعد کے متعلق باوجود اشد ضرورت کوئی اشارہ بھی نہیں فرماتے، بلکہ صاف طور سے انقطاع نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو بلاشبہ اس پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد کوئی نبی پیدا ہونا اقتضائے خداوندی میں مقدر نہیں۔

یہ ننانوے آیات قرآنیہ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا اختتام بوضاحت ثابت کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ آپ کے بعد نہ کوئی تشریحی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ بقول مرزا جی غیر تشریحی یا ظلی بروزی۔

مسئلہ ختم نبوت کا ہر پہلو ہر آراں مجید کی روشنی میں واضح ہو چکا اس کی ننانوے آیتوں نے ہر سوتے ہوئے کو بیدار اور بیدار کو ہوشیار کر کے خدا کی حجت اہل عالم پر تمام کر دی، اس کے بعد بھی اگر کوئی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے تو اس کی قسمت، **فَبِأَيِّ حَالٍ يُّثْبِتُ بَعْدَ الْيَوْمِ يُؤْتُونَ** اس کے بعد کو کسی بات پر ایمان لائیں گے؟

## ایک ضروری تشبیہ

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مذکورہ صدر ننانوے آیتیں جو ختم نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں، ان میں سے بعض اس مقصد میں بالکل صریح اور عبارت النص ہیں، اور بعض اشارۃ النص یا دلالت النص اور اقتضاء النص کے طور پر ہیں، اور یہ چاروں طریق باتفاق علماء اصول استدلال کے قطعی اور یقینی طریق ہیں۔ (دیکھو حسامی، نور الانوار وغیرہ) اور بعض وہ آیات بھی ہیں جن سے بطریق استنباط یا نکات کے طور پر ختم نبوت کا ثبوت نکلتا ہے، جو اصل مسئلہ کی تائید کے لئے پیش کی گئی ہیں۔

**وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**



۱۔ قرآن کریم سے کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے چار طریق ہیں، عبارت النص، اشارۃ النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ جن کی تعریفیں اصول کی کتابوں میں مفصل ہیں، اور یہ چاروں طریق باجماع اہل اصول قطعی اور یقینی ہیں ۱۲ منہ

## ضمیمہ ختم نبوت حصہ اول؛

ایک اور شبہ | خاتم النبیین کے معنی میں مرزائیوں نے جو جہت طرازیوں اختیار کی ہیں اور اس کا ازالہ ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ محض مجاز پر محمول ہے جیسا کہ اس کے دو دوسری نظائر خاتم المحدثین، خاتم المفسرین وغیرہ میں باتفاق یہی معنی مجازی مراد ہیں، کیونکہ عرب میں جس شخص کو خاتم المحدثین لکھا جاتا ہے کسی کے نزدیک اس امر سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کے بعد کوئی محدث پیدا نہ ہوگا۔

مرزائی اپنی اس ابلہ فریب تقریر پر خوش ہیں، لیکن درحقیقت یہ بھی اسی مرزائی خوش فہمی کا کرشمہ ہے جو خاص مرزائیت کا حصہ ہے، کیونکہ خاتم المحدثین، خاتم المحققین وغیرہ انسان کا کلام ہے، جس کو کچھ خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کتنے آدمی پیدا ہوں گے اور کتنے مریں گے، اور کتنے عالم ہوں گے، اور کتنے جاہل رہیں گے، کتنے محدث و مفسر بنیں گے اور کتنے آوارہ پھریں گے، اس لئے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے لئے خاتم المحدثین یا خاتم المفسرین وغیرہ الفاظ استعمال کرے، اور اگر کہیں اس کے کلام میں ایسے الفاظ پائے گئے تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کو مجاز یا مبالغہ پر محمول کیا جائے ورنہ یہ کلام بالکل لغو اور بے معنی بلکہ جھوٹ ہو جائے گا۔

لیکن کیا خلاقی عالم کے کلام کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے جس کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں، اور جو اپنے علم و اختیار کے ساتھ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے؟ پس جب عظیم و خیر اور قدوس و حکیم کے کلام پاک میں کسی ذات کے متعلق خاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ظاہری اور حقیقی معنی کو جو بلا تکلف بنتے ہیں چھوڑ کر مبالغہ یا مجاز پر حمل کیا جائے۔

الغرض انسان کے کلام میں ہم چھوڑیں کہ ان کلام کو ظاہری معنی سے پھیر کر مبالغہ یا مجاز پر محمول کریں، مگر خدائے قدوس کے کلام میں پھیل سکی کوئی ضرورت نہیں، اور بلا ضرورت حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا اصول مسلمہ کے خلاف ہے۔

اس کے علاوہ جب خاتم النبیین کے معنی خود قرآن مجید کی ننانوے آیات نے واضح طور پر بتلائیے جس میں کسی قسم کے مجاز یا مبالغہ کو دخل نہیں دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوسرا حدیث میں اس کی ایسی شرح فرمائی ہے کہ جس میں کوئی خفا باقی نہ رہا، اور پھر اجماع صحابہؓ اور اقوال سلف نے اس کے ظاہری اور حقیقی معنی مراد لینے پر مہر کر دی، تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی مجازی معنی مراد لے، اگرچہ الفاظ میں اس کا احتمال بھی ہو۔

عجب ہے کہ خود متکلم محل مجبور اپنے کلام کے ایک حقیقی معنی بیان فرماتا ہے، اور پھر اس کے رسول جن پر یہ کلام نازل ہوا اسی معنی کی انتہائی وضاحت فرماتے ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرامؓ اور پھر تمام علمائے سلف اسی کے معنی کو بیان کرتے ہوئے تصریح کرتے ہیں کہ یہ کلام اپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول ہے، نہ اس میں کوئی مجاز یا مبالغہ ہے اور نہ تاویل و تخصیص، جیسا کہ ہم اس رسالہ میں بحوالہ اقتصاد امام غزالی اور بحوالہ شفاء قاضی عیاض نقل کر آئے ہیں۔

لیکن مرزا صاحب اور ان کی اندھا دھند اتباع کرنے والے یہ نیا انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ لفظ مجازی معنی پر محمول ہے ۷

بہر خدا کہ بناؤت وزاہکے نہ گفت ۶ در حیرت کہ بادہ فروش از کجا شنید  
الغرض چونکہ قرآن عزیز اور احادیث نبویہ اور اجماع صحابہؓ اور اقوال سلف نے اس کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ خاتم النبیین اپنے حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول ہے، نہ اس میں کوئی مجاز ہے نہ مبالغہ اور نہ تاویل و تخصیص، تو اب کسی کو حق نہیں کہ اس لفظ کو خاتم الحقیقین وغیرہ الفاظ پر قیاس کر کے اس کی منصوص و منقول تفسیر کو بدلے ۶

ختم نبوت حصہ اول تمام شد

ختم النبوة

في الحديث

حصه دوم

# ختم نبوت فی الحدیث

## حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گفتہ اور گفتہ اللہ بود ؛ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود  
احادیث نبویہ کا غیر محمود دفتر جو مسئلہ ختم نبوت میں منقول ہے، اس کا استیعاب  
تو نہایت دشوار بلکہ اس وقت تو عادتاً غیر ممکن ہے۔ لیکن اس میں سے جس قدر حصہ  
اس ٹھوٹے سے وقت میں اور محدود ذخیرہ حدیث میں ناقص متبج کے ساتھ سامنے  
آیا ہے، اس کو حوالہ دیا گیا جاتا ہے۔ ہاں احادیث کے موجودہ ذخیرہ کو دیکھ کر  
سبھی بلا تامل یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ :-

## ختم نبوت کی احادیث متواتر ہیں

جس کی تفصیل سے پہلے ہم مختصر طور پر متواتر کے معنی اور اس کا حکم بتلاتے ہیں :-  
خبر متواتر وہ خبر ہے جس کے نقل کرنے والوں کی تعداد اس کثرت سے  
پائی جائے کہ ان کی کثرت وحیثیت کو دیکھ کر عقل کو یہ گنجائش نہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ  
پر متفق ہو جانا تسلیم کر لے۔

مثلاً بغداد کو ہمنے دیکھا نہیں مگر اس کے مشاگرد شہر ہونے کا آفتاب  
کی طرح یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے وجود کی خبر دینے والے اس کثرت سے ہیں کہ  
عقل ان سب کو کسی جھوٹ بات پر متفق ہو جانے والے قرار نہیں دے سکتی۔

خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی اور ایسا ہی  
بدیہی ہوتا ہے جیسا مشاہدات کا علم جس طرح دہلی کو دیکھ کر ہمیں اس کے عظیم الشان شہر

ہونے کا یقین ہے ٹھیک اسی طرح بغداد کے شاندار شہر ہونے کا یقین اس کی خبر متواتر کی بنا پر ہے ، یا جس طرح اپنے والدین کو دیکھ کر وہیں ان کے وجود کا یقین ہے اسی طرح سکندر اور آنا کے وجود کا یقین ہے ، حالانکہ نہ ہم نے ان کا زمانہ پایا نہ ان کو دیکھا ، بلکہ یہ فیض صرف خبر متواتر کا ہے ۔

اسی طرح حدیث متواتر کو سمجھنا چاہئے کہ جس حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے آپ کے عہد مبارک سے لیکر آج تک اس کثرت سے ہوں کہ ان کا کسی خلاف واقعہ بات پر اتفاق کر کے جھوٹ بولنا محال ہو وہ حدیث متواتر ہے ، اس کے کلام نبوی ہونے کا یقین بالکل ایسا بدیہی ہوتا ہے جیسا دوپہر کے وقت آفتاب کے وجود کا ۔

اور اسی لئے تمام امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اس پر ایمان لانا مسلمان کی طرح فرض اور اس کا انکار کفر صریح ہے ، کیونکہ وہ درحقیقت ایک حدیث کا انکار نہیں ، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور عیاذاً باللہ آپ کے صدق و دیانت پر حملہ ہے ۔

اس کے بعد معلوم کر لینا دشوار نہ رہا کہ احادیث ختم نبوت متواتر المعنی ہیں کیونکہ متواتر کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ روشن مثال محمدین نے حدیث ذیل کو قرار دیا جو:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّياً فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ  
مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّياً فَلَيْسَ بِنَبِيٍّ

” جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر اقرار کرے کہ  
کونپانٹھکانا مددخ میں کھولنا چاہئے؟

اور حافظ الدین علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے تواتر کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تو اسنادوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے جن میں سے تیس اسنادیں حسب قواعد محمدین صحیح ہیں ۔

اور جب تواتر کی اعلیٰ حد یہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ احادیث ختم نبوت کے متواتر ہونے

لہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علیہ شریف و ادب آپ کی جسمانی کیفیات پر ایمان لائے ، بلکہ ایک نبی پر ایمان لانے کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا کہ ان کے ہر قول پر بغیر کسی شک کے یقین کرے ۱۲ منہ

میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ ختم نبوت کی احادیث صریحہ تو اسے بھی زائد ہیں، جن میں سے تقریباً چالیس حدیثیں تصریحات محمدین صحیح ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ حدیث مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّدًا کے الفاظ بھی متواتر ہیں، اور احادیث ختم نبوت متواتر المعنی ہیں، یعنی بالفاظ مختلفہ تو اسے زائد احادیث میں مضمون ختم نبوت بیان فرمایا گیا ہے۔ بلکہ اگر کتب حدیث کے نتیجے میں پوری کوشش کی جائے تو عجب نہیں کہ لَانَبِيَّ بَعْدِي کے الفاظ بھی درجہ تو اترو پونچ جائیں، کیونکہ انہی الفاظ کے ساتھ چھتیس احادیث آپ انشاء اللہ اسی رسالہ میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

حالانکہ ہم عرض کیے ہیں کہ کتب حدیث کا جو ذخیرہ اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ بہت مختصر ہے، اور اس پر مزید یہ کہ نجوم مشاغل کے وقت نہایت بے اطمینانی کی حالت میں اس رسالہ کی ترتیب ہو رہی ہے۔ اور امام الحدیث حافظ ابن حزمؒ کا بیان ہمارے اس گمان کی تصدیق کے لئے بھی کافی ہے۔

ملاحظہ ہو بطل و نعل ابن حزم صفحہ ۷۷، جلد اول :-

<p>”جن حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معجزات اور قرآن مجید کو نقل کیا ہے، ان میں کثیر التعداد حضرات کا نقل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔“</p>	<p>وقد صرح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكوفاني التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه انه أخبر انه لا نبي بعد.</p>
---	--

ہل کی اس عبارت سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث لَانَبِيَّ بَعْدِي متواتر ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تواتر بھی اسی درجہ کا تواتر ہے جس درجہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے معجزات اور قرآن مجید کا تواتر ہے اور امام التفسیر الحدیث حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے آیت خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

وبذل لك وردت الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم (تفسیر ابن کثیر، ۹، ص ۸۷)

”احادیث متواترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت پر وارد ہوئی ہیں، جن کے

صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے بیان فرمایا ہے :-  
اور سید محمود آلوسیؒ روح المعانی میں فرماتے ہیں :-

وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مضافاً لفظ به الكتاب  
ومدعت به السنة واجمعت عليه الامة فيكفر مدعى خلافه  
ويقول ان اصر - ( روح المعانی ، ۶۵ ، ج ۱ )

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جن پر قرآن  
مہینے تصریح فرمائی اور احادیث نبویہ نے صاف طور سے ان کو بیان فرمایا اور اس  
پر تمام امت محمدیہ کا اجماع ہے ، اس لئے اس کا منکر کافر سمجھا جائے اور اگر  
اس پر اصرار کرے تو قتل کر دیا جائے “

اس کے بعد احادیث ختم نبوت مع ترجمہ اردو و ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں ، ترتیب  
میں اس کی رعایت کی گئی ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات کو پہلے اور دوسری حدیث کی  
روایات کو بعد میں لکھا گیا ہے ۔

## صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی احادیث

” حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و  
سلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے  
فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء  
کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر  
بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و  
پیراستہ بنایا ، مگر اس کے ایک گوشہ  
میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے  
چھوڑ دی ، پس لوگ اُس کے دیکھنے  
کو جوق در جوق آتے ہیں اور خوش  
ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک  
اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان

حدیث نمبر ۱ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ  
مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا  
فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ  
لَبْتَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ  
يَطْرُقُونَ بِهِ وَيُعْجِبُونَ لَهُ وَ  
يَقُولُونَ هَذَا وَمِثْلُ هَذِهِ  
الْأَنْبِيَاءُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ  
رواه البخاری فی کتاب  
الأنبياء و مسلم ۲۳۸ ج ۲ فی

کی تعمیر مکمل ہو جاتی، چنانچہ میں نے اس  
جگہ کو پڑ کیا اور مجھ سے ہی تصریح تکمیل ہوا  
اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، (یا،) مجھ  
پر تمام رسل ختم کر دیئے گئے :-

الفضائل واحمد فی مسندہ  
۳۹۷ ج ۲، والنسائی والترمذی  
رَبِّي بَقِيضِ الْفَاظِهِ فَكُنْتُ اَنَا  
سَدُّ ذُرِّيَةِ مَوْضِعِ اللَّيْنَةِ وَخَيْمِ  
بَنِي الْبُنْيَانِ وَخَيْمِ بَنِي الرَّسُلِ  
هَكَذَا اَلِي الْكَذَّعَنُ اَبِي عَسَاكِرُ

جو لوگ کیمادوی تحلیلالات کے ذریعہ ختم نبوت کے عموم میں سے مختصر عہد نبوت  
بروزیت و ظلیت کی آٹلے کرتا ویلات باطلہ سے مسئلہ ختم نبوت کو صرف نبوت تشریحیہ  
کے ساتھ مخصوص کر دینا چاہتے ہیں وہ ذرا اس صحیح حدیث کے مضمون پر غور و سرائیں کہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مبلغ تمثیل کے ساتھ ان کے ادہام کا استیصال فرما دیا  
ہے۔ کیونکہ اس تمثیل کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح پہلے جس  
کے ارکان انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم میں تشریف  
لانے سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا، اور اس میں ایک اینٹ کے سوا اور کسی قسم  
کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی، جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما کر  
تصریح نبوت کی تکمیل فرمادی، اب اس میں نہ نبوت تشریحیہ کی گنجائش ہے، اور  
نہ غیر تشریحی وغیرہ کی۔

علاوہ بریں حدیث میں مثل الانبیاء من قبلی کے الفاظ خصوصیت پہلے  
قابل غور ہیں جن سے انبیاء کا عموم بتلایا گیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے  
جنے انبیاء گزر چکے ہیں جن میں اصحاب شریعت جدیدہ بھی تھے، اور پہلی شرائع کے متبع  
بھی۔ الغرض ان سب کے مجمع سے تصریح نبوت کی تکمیل میں صرف ایک ہی اینٹ  
کی کمی واقع تھی جس کو آپ نے پورا فرمایا، آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی گنجائش  
نہیں رہی۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | مرزائی امت نے اس حدیث کی تحریف کے لئے کہا ہے کہ  
جب نبوت کے محل میں کسی نبی کی گنجائش نہیں رہی تو پھر آخر زمانہ میں عیسیٰ کا تشریف  
لانا کس طرح ہو سکتا ہے، نیز ان کا اپنی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں جانا تصریح نبوت

کے تزلزل کا باعث ہوگا۔

لیکن جس شخص کو عقل و انصاف کا کوئی حصہ ملا ہے وہ بلا تکلف سمجھ سکتا ہے کہ مکان کی کسی اینٹ کے تعمیر میں آخری ہونے سے یہ کسی طرح لازم نہیں آتا کہ پہلی تمام اینٹیں فنا ہو چکی ہوں۔

ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ کسی نبی کا آخری ہونا بھی اس کو مستلزم نہیں کہ اس سے پہلے سارے انبیاء و اوقات پا چکے ہوں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمثیل بلیغ سے جو آپ کا قصر نبوت کے لئے آخری رکن ہونا سمجھ میں آتا ہے وہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منافی نہیں۔

اسی طرح یہ کہنا بھی انتہائی جہالت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آخر زمانہ میں آنے سے قصر نبوت میں حرکت اور تزلزل لازم آتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مشبہ بہ کے تمام احکام مشبہ پر جاری کئے جائیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص شیر ہے یا شیر کے مانند ہے تو اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ وہ درندہ جانور ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، اُس کے دُم بھی ہے اور بڑے بڑے ناخنوں اور بالوں والا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔

یا اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں آدمی چاند کے مانند ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ ایک گول کرہ ہے نہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں اور نہ آنکھ ناک، وہ آسمان میں جڑا ہوا ہے یا جدید تحقیقات کے اصول پر وہ زمین کے گرداگرد چکر کھا رہا ہے۔

بریں عقل و دانش بجایدگریست

حدیث نبوی میں اگر انبیاء علیہم السلام کو ایک مکان کی اینٹوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو ان عقلمندوں نے انبیاء علیہم السلام کو ٹھیک ٹھیک مارے کی اینٹیں سمجھ لیا اور انعیاذ باللہ ان کو تہ برتہ خیال کر کے ایک خیالی مکان بنا لیا، اور عیسیٰ کے آخر زمانہ میں دوبارہ اس عالم میں آنے سے اس مکان میں زلزلہ ڈالنے لگے، کیا خوب یہ مبلغ علم و فہم اور اس پر مجددیت کے نہیں نبوت کے دعوے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح مشبہ بہ کے تمام احکام کو مشبہ پر جاری کرنا ہے اور انبیاء علیہم السلام کو ٹھیک اینٹوں کی طرح سمجھنا ہے تو پھر قصر نبوت کا تزلزل عیسیٰ علیہ السلام

کے آخری نزول پر ہی موقوف نہیں ہوگا، بلکہ اپنے زمانہ میں بھی وہ جب کوئی حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ کریں گے تب بھی مرزا ان منطوق کے مطابق نبوت کے محل میں زلزلہ آئے گا، بلکہ اس صورت میں ایک حضرت عیسیٰ ہی کی کیا تخصیص ہے جب کہ ہر نبی قہر نبوت کے لئے ایک اینٹ کے مرتبہ پہ ہے، تو ہر نبی کی ہر حرکت سے یہی زلزلہ آتا ہے گا، اِنَّا لَنَرُّهُ

حدیث نمبر ۱۲ | عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا إِلَّا لَبْنَةً وَاحِدَةً فَجِئْتُ أَنَا فَأَتَمَمْتُ تِلْكَ اللَّبْنَةَ (رواه مسلم واحد)

اس حدیث کا ترجمہ اور حاصل مضمون بھی وہی ہے جو پہلی حدیث میں گذر چکا اس لئے مکرر لکھنے کی ضرورت نہیں (روایت کیا اس کو امام مسلم اور امام احمد نے)۔

حدیث نمبر ۱۳ | عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فَكَانَ مَنْ وَخَلَهَا فَانظَرَ إِلَيْهَا قَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ فَخَدِمَ بِي الْأَنْبِيَاءُ (رواه الشيخان والترمذی وابن ابی حاتم)

اس کا ترجمہ اور حاصل مطلب بھی تقریباً وہی ہے جو پہلی اور دوسری کا ہے (روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ابی حاتم نے)۔

حدیث نمبر ۱۴ | عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ تَسْفِئُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوِمُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَأَنبِيٌّ يُقَدِّمُنِي وَسَيَكُونُ خَلْفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا إِنَّمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ فَوَابِعَةُ الْأَوَّلِ فَأَلْزَمِي، أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَوْعَاهُمْ (رواه

البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء ج ۱، ص ۳۹۱) و مسلم فی کتاب الامارۃ واحمد فی مسند الامۃ ج ۲، وابن ماجہ وابن جریر وابن ابی شیبہ) ترجمہ ۱۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں پانچ سال حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ رہا میں نے خود سنا کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

کہ بنی اسرائیل کی سیاست خود ان کے انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو ان کا خلیفہ بنا دیتا تھا، لیکن مسیح بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے، اور بہت ہوں گے۔ (ایسٹنر صاحبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان خلفاء کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے بعد دوسرے کی بیعت پوری کرو اور ان کے حق اطاعت کو پورا کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رعیت کے متعلق ان سے سوال کرے گا۔

(روایت کیا اس کو بخاری نے صفحہ ۳۹۱ جلد اول میں، اور مسلم نے کتاب الامارت میں، اور امام احمد نے اپنے مسند صفحہ ۲۹۷ جلد میں، اور ابن ماجہ اور ابن جریر اور ابن ابی شیبہ نے

یہ حدیث جس طرح نبوت تشریحیہ کے انقطاع کے لئے روشن دلیل ہے اسی طرح ہر قسم کی نبوت کے اختتام کا اعلان ہے، اس سے نہ مرزا صاحب کی ایجاب کردہ نبوت غیر تشریحیہ بچ سکتی ہے اور نہ بروزی اور ظلیہ۔

حدیث مذکورہ غیر تشریحی یا ظلیہ اول اس لئے کہ نص حدیث مطلق اور عام ہے کلام کے بروزی یا لغوی نبوت کا انقطاع بعد کوئی نبی نہیں، جس سے مطلقاً ہر مصداق نبوت کی نفی ثابت ہوتی ہے، پس اگر بقول مرزا صاحب غیر تشریحی اور ظلی یا بروزی بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً لانبی کی نفی کے تحت میں داخل ہے بلکہ اگر (لاہوری مرزائیوں کے خیال کے مطابق) کوئی لغوی نبی بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی لانبی کی نفی سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ لانبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس پر لفظ نبی بولا جائے، آپ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔

دوم؛ اصول اور معانی کا مشہور علمی قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت میں آتا ہے، تو وہ استغراق اور عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس حدیث میں بھی لفظ نبی نکرہ ہے اور حرف نفی لاکے تحت میں واقع ہے، اس لئے حسب قاعدہ نبی سے باستغراق ہر نبی ملو ہونا چاہئے، یعنی صاحب شریعت جدیدہ ہو یا پہلی شریعت کا متبع اور بقول قادیانی مرزائیوں کے ظلی اور بروزی ہو یا بقول لاہوری مرزائیوں کے لغوی نبی ہو۔

لہٰذا مطلب یہ کہ اگر وہ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو جڑائے گا، مگر تم اپنی اطاعت میں کمی نہ کرو۔ ۴ منہ

الغرض حدیث مذکور اس امر کا صاف اعلان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس پر کسی طرح لفظ نبی بولا جائے۔  
سوم؛ حدیث میں انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلہ میں منسرایا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں ایسے انبیاء بھی نہیں ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کی سیاست کے لئے آئے تھے۔ اب دیکھ لیا جائے کہ وہ کس قسم کے انبیاء تھے اور سیاست بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے۔

حافظ الدنیا علامہ ابن حجر عسقلانی <sup>فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں :-</sup>  

<p>تو لہ تسوسہم الانبیاء ای انہم کانوا اذا ظہر فیہم فساد بعث اللہ لہم نبیاً یقیم لہم امرہم ویزیل ما عتروا من احکام التوراة . (فتح ملتہ ، جلد ۶)</p>	<p>یعنی بنی اسرائیل میں جب فساد ظہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی نبی بھیجتا جو ان کے امور کو درست کرے اور ان تحریفات کو دور کرے جو انہوں نے تورات میں کی ہیں ۔</p>
---	--

اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل مشرعیّت مستقلہ لیکر نہ آتے تھے، بلکہ شریعت موسویہ کے اتباع میں تبلیغ احکام کرتے، اور لوگوں کو صحیح احکام تورات کا پابند بناتے تھے، اسی قسم کے انبیاء کو مرزا صاحب نے غیر شرعی نبی کہا ہے، اس لئے حدیث مذکور کا حاصل صاف یہ ہو گیا کہ اس امت میں غیر شرعی (یعنی شریعت سابقہ کے متبع) انبیاء بھی پیدا نہیں ہوں گے۔

چہارم؛ سب سے زیادہ قابل لحاظ اور سب سے زیادہ واضح یہ بات ہے کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف القطاع نبوت کے بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ہی اس چیز کو بھی بیان فرما دیا ہے جو نبوت کے قائم مقام ہو کر اصلاح عالم کے لئے باقی رہے گی، یعنی خلافت نبوت، چنانچہ ارشاد فرمایا "و من بعدی خلفاء" یعنی میرے بعد کوئی نبی تو نہ ہوگا، مگر خلفاء بہت ہوں گے۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں ہر انسان کے لئے یہ سبق نہیں کہ نبوت کی کوئی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والی نہیں ہے ورنہ کیا ضروری نہیں تھا کہ مجھے خلفاء کے اس قسم کے انبیاء کا ذکر فرمایا جاتا جو آپ کے بعد آئیے

تھے۔ اور جب حدیث کے اسلوبِ حکیم نے آپ کے بعد صرف خلفاء کو رکھ لے تو یہ اُس کا یقینی ثبوت ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی تشریحی نبی ہو سکتا ہے، اور نہ بقول مرزا جی غیر تشریحی یا ظلی اور بردزی۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کسی شخص کو لائقہ بھی نبی نہیں کہا جاسکتا۔

ایک اور شبہ | کہا جاتا ہے کہ حدیث مذکور صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قَوْلُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا لَأَنْبِيَّ بَعْدَهُ یعنی خاتم النبیین کہو، مگر لانی بعداً مت کہو۔ (درمنثور)

اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت مغیرہ نے یہ شکر ارشاد فرمایا :-

”تمہارے لئے من خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے (لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ کہنے کی ضرورت نہیں) کیونکہ ہم سے حدیث بیان کی گئی جو کہ جیسی کہنے والے ہیں پس جب وہ نکلیں گے تو وہ آپ سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی :-“

حسبك اذا قلت خاتم الانبياء  
فانا لكاننا حدث ان عيسى عليه  
السلام خارج فان هو خرج فقد  
كان قبله وبعده .

(درمنثور، ص ۲۰۲ ج ۵)

ہم اس نزلے مرزائی اصول کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ اگر مطلب کے موافق نہ ہو تب تو احادیث متواترہ و مشہورہ اور روایات صحیح بخاری و مسلم کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر اپنی ہوائے نفس کے مطابق ہو تو ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بلکہ ایک ایسے قول پر جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہو اگرچہ اس کی سند کا بھی کچھ پتہ نہ ملتا ہو اس درجہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں صحیح بخاری کی مرفوع حدیثوں کا رد کر دینا ان کے نزدیک سہل ہو جاتا ہے۔

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مرفوع ہے اور دوسری طرف اُس کے مقابلہ میں ایسے دو قول ہیں جن کی نسبت حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ کی طرف ہے جن کی اسناد کا حال بھی معلوم نہیں۔ اصول حدیث اور عقل و دانش کے فیصلہ سے اس وقت واجب تھا کہ صحیح بخاری اور مرفوع حدیث کو

مجهول الاسناد آثار پر ترجیح دے کر بمقابلہ احادیث صحیحہ کے ان آثار کو نظر انداز نا قابل تاویل سترار دیا جاتا، مگر مرزائی دنیا کے نرالے اصول نے فیصلہ کیا کہ ایک مجهول الاسناد قول صحابی کی بنا پر صحیحین کی قوی الاسناد منوع حدیث کو مردود کر دیا، کیا خوب سے بار خاطر ہو تو ستران کا بھی ارشاد بڑا پُر دل کو بھاجائے تو مرزا کی خرافات اچھی یہ شبہ اور اس کا مفصل جواب اس رسالہ کے پہلے حصہ میں آیت خاتم النبیین کے تحت گذر چکا ہے، جس میں ان آثار صحابہ کی اسنادی اور معنوی تحقیق تکمیل بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام اُس کے لئے صفحہ سے صفحہ تک مکرر ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عائشہؓ خود ختم نبوت | علاوہ بریں جب ہم ختم نبوت کی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو اُن کی قائل ہیں اور اس کی کے رُودا کے فہرست لگاتے ہیں تو اُن میں صدیقہ عائشہؓ کا نام بھی احادیث روایت کرتی ہیں | علی حرفوں میں سامنے آتا ہے، اور دُقر حدیث میں سے احادیث ذیل خود حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہم تک پہنچتی ہیں :-

<p>عن عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی جزو باقی نہیں ہے گا، جوئے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب جو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لئے سکوئی اور دیکھے۔ (اس روایت کے کنز العمال میں بحوالہ سند احمد اور خطیب نقل کیا ہے)</p>	<p>عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ مِنْ النَّبِيِّ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الْمَالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ وَكَذَلِكَ كُنَّا الْعَمَالَ بَرَوَاةِ أَحْمَدُ وَالْخَطِيبِ .</p>
---	--

نیز عائشہ صدیقہؓ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منوعاً روایت فرماتی ہیں :-

<p>میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد خاتم مساجد الانبیاء ہے (نقل کیا اس کو کنز العمال نے بحوالہ طبری دو ابن نجار اور بزرگوار)</p>	<p>أَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي خَاتِمُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ كَذَلِكَ الْكُتُبُ وَالْعَمَالَةُ الدِّيلِيُّ وَابْنُ النَّجَّارِ وَالْبَزَّازِ .</p>
---	--

کیا اس کے بعد بھی کسی مسلمان بلکہ منصف انسان کے لئے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ

صدیقہ عائشہؓ پر یہ افتراء باندھے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتی ہیں۔

کیا ظلم نہیں کہ ہوائے نفس کے موافق ہو تو ایک مجہول الاسناد قول پر بلا تحقیق ایمان لے آئیں، اور ہوائے نفس کے خلاف ہو تو ہر صحیح سے صحیح اور قوی سے قوی حدیث کو رد کر دیا جائے، اَنْكَلَمَّا جَاءَ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ اَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

ایک اور شبہ | کہا جاتا ہے کہ حدیث لانبی بعدی حیات عیسیٰؑ کے مخالف ہے جیسا اور اس کا جواب کہ ابھی حضرت عائشہؓ اور غیر کی طرف منسوب اقوال سے معلوم ہوا کیونکہ اگر لانبی کی نفی عام ہے تو عیسیٰؑ بھی اس نفی میں داخل ہیں، اور اگر عام نہیں ہو تو آپ کے بعد بھی انبیاء ہونے کی گنجائش نکلتی ہے اور مسئلہ ختم نبوت ہاتھ سے جاتا ہے۔

یہ وہ شبہ ہے کہ مرزائی امت اس کو لاینحل سمجھ کر بڑے دعوے کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہی اُن کی انتہائی سادہ لوحی کی دلیل اور مبلغِ علم کا امتحان ہے، کیونکہ یہ شبہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو عربی عبارت سمجھنے کی بھی تمیز نہ ہو، اور جو محاورات عرب سے بالکل ناواقف ہو۔ عربی محاورہ میں جب اس قسم کی عبارت بولی جاتی ہے تو اس کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ آئندہ یہ وصف کسی شخص میں پیدا نہ ہوگا جس شخص میں پہلے سے موجود ہے اس کا معدوم ہو جانا ہرگز مراد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر چند محاورات ملاحظہ ہوں :-

حدیث میں ہے لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں ہوگی جس کا مطلب ہر نسیم انسان یہی سمجھتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کوئی شخص مہاجر نہ بنے گا، نہ یہ کہ فتح مکہ سے پہلے جو شخص مہاجر ہو چکا ہے فتح مکہ کے بعد اس کا زندہ رہنا محال ہو جائیگا یا اس کی ہجرت باطل ہو جائے گی۔

اور جب لا ہجرت بعد الفتح کی ترکیب بعینہ لانبی بعدی کی ترکیب ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ لانبی بعدی کا مطلب تمام نصوص شرعیہ کے خلاف یہ لیا جائے کہ انبیاء سابقین میں سے بھی کوئی نبی آپ کے بعد دنیا میں نہیں آسکتا، یا زندہ نہیں رہ سکتا۔

یا اگر کوئی شخص کہتا ہے لا عمل بعد الموت تو بلاشبہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا، نہ یہ کہ مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے

اور آئندہ کوئی جدید عمل نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اس جملہ کے معنی نہیں لے سکتا کہ مرنے کے بعد اس کے پہلے کئے ہوئے بھی عمل بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس باب میں جس قدر محاوراتِ عرب کا نتیجہ کیا جاتا ہے وہ سب اس کے ہونا نظر آتے ہیں۔ محاوراتِ عرب سے آگے بڑھ کر اگر احادیث کے طرق اور ان کے الفاظ کو دیکھتے تو خود نصوصِ حدیث اور الفاظِ روایت ہمارے بتائے ہوئے معنی کے لئے شاہد نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر ملاحظہ ہو،

صحیح مسلم غزوہ تبوک میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی وہ حدیث جس میں لانبیٰ بعدی کے بجائے لانبیۃ بعدی کے الفاظ موجود ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد نبوت نہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لانبیٰ بعدی کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ دی جائے گی۔

اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ لانبیٰ بعدی میں نفی بالکل عام ہے، اس سے کوئی نبوت مستثنیٰ نہیں، مگر محاورہ عرب اور فن حدیث کے موافق اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو عہدہ نبوت نہ دیا جائے گا، نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو اور نہ آئندہ پیدا ہونے والے مرزا کو۔

ہاں جن حضرات کو آپ سے پہلے یہ عہدہ مل چکا ہے اس کا سلب ہونا اور ان کا عہدہ نبوت سے معزول ہو جانا اس سے کسی طرح لازم نہیں آتا، پس اگر حضرت عیسیٰؑ کو اس عالم میں آپ سے پہلے عہدہ نبوت مل چکا ہے تو ان کا آپ کے بعد میں تشریف لانا ہرگز لانبیٰ بعدی کے خلاف نہیں، ہاں جو مسیحیت کا مدعی آج اپنے لئے عہدہ نبوت ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے بیشک یہ حدیث ایک مایوس کن پیغام ہے وہ اس پر جتنا ماتم کرے بجا ہے۔

الغرض محاوراتِ عرب کا نتیجہ حکم کرتا ہے کہ لانبیٰ بعدی کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہ دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو آپ سے پہلے اس عالم میں نبوت مل چکی ہے ان سب کا فنا ہو جانا یا ان کا نبوت سے معزول ہو جانا یا آپ کے بعد دوبارہ دنیا میں نہ آسکنا کسی طرح اس حدیث کے مفہوم میں داخل نہیں، بلکہ یہ محض مرزائی خوش فہمی کی برکات ہیں اور شاید حضرت عائشہؓ اور حضرت

مفسر کو کشف کے آئینہ میں یہی خوش فہم مسرقہ نظر آگیا جو جس کی اصلاح اور ان کے خیالاتِ باطلہ کے قلع قمع کے لئے انہوں نے کلمہ لانسبی بعدی کے اطلاق کو عوام کے لئے پہلے ہی سے روک دیا ورنہ عربیت سے واقف حضرات سے یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔

ایک اور شبہ | قادیانی نبوت کے دلدادہ لوگوں نے حدیث **لَا نَبِيَّ بَعْدِي** کی تخریج اور اس کا زوالہ کے لئے جو کچھ تدبیریں اختیار کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لانسبی کی نفی کو نفی کمال مسترار دیا جائے، یعنی میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہو سکتا غیر مستقل اور غیر تشریحی نبی ہونے کی نفی نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے **لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ** (جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی کامل ایمان)۔

اور حدیث میں ہے **لَا صَلَوةَ لِبِجَارٍ اِلَّا فِي الْمَسْجِدِ** (مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں یعنی کامل نماز، پس جس طرح ان احادیث میں باتفاق نفی کمال مراد ہے۔ اسی طرح اگر لانسبی بعدی میں بھی نفی کمال مسترار دی جائے تو کیا حرج ہے؟

جواب؛ کیا خوب، اگر یہی اجتہاد اور یہی قیاس ہے تو اگر کوئی بت پرست ہندو یہ کہتا ہے کہ لالہ الا اللہ میں بھی نفی کمال ہے یعنی کامل معبود سوا اللہ کے کوئی نہیں، اگرچہ غیر مستقل اور غیر شارع معبود ہو سکتے ہیں، اور حقیقت یہی تمام بت پرست قوموں کا عقیدہ بھی ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یا کوئی کہتا ہے کہ آیت قرآنیہ **لَا رَيْبَ فِيْهِ** میں بھی نفی کمال مراد ہے، یعنی کامل رب قرآن میں نہیں اگرچہ بعض اقسام رب کے موجود ہیں تو کیا امر زانی امت اس کو بھی تسلیم کر لے گی؟

کوئی ان نبوت کے دعویداروں سے پوچھے کہ اگر حدیث **لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ** وغیرہ میں نفی کمال بھی تسلیم کر لی جائے تو اس سے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ لانسبی بعدی میں بھی نفی کمال ہی مراد ہو، کیا کسی ایک حدیث میں مجازاً نفی کمال مراد ہو جانا آپ کے نزدیک اس کو مستلزم ہے کہ سب جگہ بھی معنی اچھلائے جائیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ لالہ الا اللہ اور لاریب فیہ وغیرہ میں نفی کمال مراد نہ لی جائے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ جس کے ذریعہ سے لالہ الا اللہ

میں نفی کمال مراد لینے سے منع کیا جاسکتا ہے تو وہی دلیل ہماری جانب سے لانبی بعدی میں نفی کمال مراد نہ ہونے پر تصور نشر مائیں۔

ایک شاہد اس کا جواب | مرزائی امت نے جدید نبوت کے اشتیاق میں حدیث لانبی بعدی کی تحریف کے لئے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، ہر ضعیف سے ضعیف اور لہجہ سے لہجہ وہم کا سہارا ڈھونڈھا گیا، اسی ذیل میں کہا گیا کہ حدیث لانبی بعدی کو ایسا سمجھنا چاہئے جیسے حدیث إِذَا هَلَكَ كَيْسِيُّ فَلَا كَيْسِيَّ بَعْدَهُ إِذَا هَلَكَ قَيْسِيُّ فَلَا قَيْسَرَ بَعْدَهُ (یعنی جب کسری بادشاہ ملک فارس ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا، اور جب قیصر بادشاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا)۔

چونکہ کسری اور قیصر خاص شخصوں کے نام نہیں بلکہ کسری ملک فارس کے ہر بادشاہ کا لقب ہے، اور اسی طرح قیصر ملک روم کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ ملک فارس اور روم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک برابر بادشاہ ہوتے چلے آئے ہیں جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسری اور قیصر برابر موجود رہے ہیں، اس لئے کہنا پڑتا ہے کہ اس حدیث سے اس کے ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ قیصر و کسری باقی ہوں گے مگر اسلام کے زیر نگیں ہو کر رہیں گے، اُن کی خود مختار سلطنتیں باقی نہ رہیں گی۔ اسی طرح لانبی بعدی کو سمجھنا چاہئے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل اور شرعی نبی نہ ہوں گے بلکہ جو نبی ہوگا وہ آپ کا متبع اور آپ کی شریعت کا پیرو ہوگا۔

لیکن اگر ذرا انصاف کیا جائے تو مرزائی منطق کی یہ شکل اور اس کا نتیجہ بنا، ناسد علی الفاسد کی مجسمہ تصویر نکلتی ہے، خود ہی اپنے دماغ میں منسوخ کر لیا کہ کسری و قیصر آج تک موجود ہیں، اور خود ہی حدیث لا کسری کی ایک تحریف تیار کر لی، اور پھر اہل اسلام کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کی تحریف کو تمام دوسری احادیث کا بھی قبلہ تسلیم کر لیں، اور سب کو کھینچ تان کر اس کے مطابق بنائیں، تِلْكَ أَمَانَتُهُمْ۔

یہ محض دھوکہ اور بالکل غلط ہے کہ کسری اور قیصر آج تک موجود ہیں۔ نووی شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ اور تمام علمائے فرمایا ہے کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ کسری عراق میں اور قیصر ملک شام میں باقی نہ رہے گا

جس کا حاصل یہ تھا کہ ان دونوں اقلیم میں ان کی سلطنت نہ رہے گی، چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا، کسریٰ اور کسرویٹ کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا، اور قیصر نے ملک شام سے ہجرت کرکے کسریٰ اور جگہ پناہ لی، غرض ان دونوں اقلیموں میں کسریٰ و قیصر نہ رہے۔ اس لئے خود ہی کہنا غلط ہے کہ حدیث لا کسیٰ اپنے ظاہر معنی میں مستعمل نہیں ہو، پھر اس پر لَانَبِيَّ بَعْدِي کو قیاس کر کے اس کی تحریف اگر بنا، ناسد علی الفاسد نہیں تو اور کیا ہے۔

ہاں اس جگہ مرزائی اجتہاد کا ایک اور کرشمہ بھی قابل دید ہے، وہ یہ کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے کوئی یہ فرض بھی کر لے کہ حدیث لا کسیٰ کسی وجہ سے اپنے ظاہری حقیقی معنی میں ہے تو اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ حدیث لانبی بعدی کو بھی کھینچ تان کر اس کے مطابق بنا دیا جائے، کیا کسی ایک حدیث میں کسی وجہ سے مجازی معنی لے لینا آپ کی شریعت میں اس کو مستلزم ہو کہ کسی حدیث میں اس لفظ کے حقیقی معنی نہ لئے جائیں۔

**ایک لطیفہ** | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے مطابق اس امت میں جھوٹے مدعی نبوت ہمیشہ آتے رہے ہیں، اور حدیث لانبی بعدی چونکہ ان کے مقاصد یا جوہیت کے مقابلہ میں سہ سیکندری کی طرح حائل عملی لئے سب کی نظر عنایت اس کی تحریف پر تلی رہی ہے، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی فہم کے مطابق اس کی تحریف میں کوشش کی۔

ایک شخص نے اپنا نام لفظ لآ رکھ لیا، اور نبوت کا دعویٰ جاری کر کے خود اسی حدیث کو اپنی نبوت کا گواہ بنا لیا، اور کہنے لگا کہ اصل عبارت حدیث یوں ہے لَانَبِيَّ بَعْدِي

۱۔ حافظ الدنیا علامہ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری میں ان دونوں اقلیم کی تخصیص کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش کی عادت تھی کہ سروی کے زمانہ میں یمن اور گرمی کے زمانہ میں شام کا سفر کرتے تھے، اور وہی جگہ ان کی تجارت کا ہی تھا، جیسا کہ قرآن عزیز میں ”رسلہ ایشاء و لعیفہ“ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، جب قریش مسلمان ہو گئے تو ان کو اپنی تجارتوں کا خوف ہوا کہ اب ہمارا یمن اور شام میں داخلہ بند کر دیا جائے گا، اس پر ان کی تسکین کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تجارت کا ہی ان کے وجود ہی سے پاک کر دی جائے گی ۱۲

جس میں لامبتداء اور نبی نبذی اُس کی خبر ہے، جس کے مطابق حدیث کے معنی یہ ہوتے کہ "میرے بعد یہ شخص مسیٰ بہ لابی ہوگا؟" (کذانی فتح الباری)

ایک عورت کو مغرب میں یہی جنون سوار ہوا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھی، لوگوں نے "لابی بعدی" کا فرمان اس کے مقابلہ پر پیش کیا تو کہنے لگی کہ حدیث لابی بعدی ہے لابی بعدی نہیں یعنی مرد کے نبی ہونے کا انکار ہے، عورت کی نبوت کا انکار نہیں (فتح الباری شرح بخاری)

مگر زمانہ میں خیر اور صلاح کے آثار باقی تھے، دلوں میں امانت کا کوئی حصہ موجود تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام جزو ایمان سمجھا جاتا تھا، وہاں اس قسم کی لابی تحریفات کب کھب سکتی تھیں، اُمت نے اُن کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے، عالم اسلام کو ان کے وجود اور ان کی تحریفات سے پاک کر دیا، حالانکہ ان کی تحریفات مرزا قادیانی کی تحریفات سے زیادہ دلچسپ تھیں۔ قسمت سے ہمارے حصہ میں اگر منتہی ایسا خوش فہم آیا ہے کہ اس کو تحریف کرنے کا بھی کوئی سلیقہ نہیں تو لوگ بھی ایسے خوش عقیدہ آئے کہ انہیں ہر مجنون کے ہذیان کو دین نبی سمجھ لینا بالکل سہل ہے، خدا جانے اگر یہ لوگ پہلے منتہیوں کے زمانہ میں جیتے اور ان کی شعبدہ کاریاں دیکھتے تو کیا کرتے!؟

**حدیث نمبر ۵** | عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أَنَا مُحَمَّدٌ أَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَسْحِيُّ الَّذِي مَسَحَى اللَّهُ لِي الْكُفْرَ وَ

أَنَا حَاشِيَةُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقْبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ

الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ (رواه البخاری ومسلمہ صفحہ ۲۶۱ ج ۲)

وابونعیم فی الدلائل، مثلا )

ترجمہ: "حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور ماسح ہوں یعنی میرے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشیہ ہوں، یعنی میرے بعد ہی قیامت آجائے گی اور حشر برپا ہوگا (اور کوئی نبی میرے اور قیامت کے درمیان نہ آئے گا)، اور میں عاقب ہوں اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو (روایت کیا

اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے صفحہ ۲۶۱ ج ۱۲ اور ابونعیم نے دلائل صفحہ ۱۲ میں ۱۱ اور اسی حدیث کے بعض الفاظ میں ہے يُحْتَشِرُ النَّاسُ عَلٰی قَدْحِيَّ جِسِّ كَيْ شَرَحَ كَرْتِي ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری صفحہ ۳۰۶ جلد ۶ میں فرمایا ہے :-

يَسْكُنُ اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَدْحِ	• ممکن ہے کہ قدم سے مراد زمانہ ہو، یعنی جس
الزَّمَانِ اِذَا وَقَّتْ قِيَامِي عَلٰی	وقت علامات قیامت کے ظہور کے ساتھ
قَدْحِي لظهور علامات الحشر	میں اپنے قدم پر کھڑا ہوں گا، اور یہ اس
اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ	بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد
لَا شَرِيْعَةٌ	نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی شریعت ہے

حافظ کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث ہر قسم کی نبوت کے انقطاع کی خبر دے رہی ہے خواہ پہلی شریعت کے تابع ہو یا شریعت جدیدہ کے ساتھ ۔

**حدیث نمبر ۶** | عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُجَدِّثُونَ فَاِنْ يَكُنْ فِيْ اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عَمْرُوٌ ، زَادَ ذَكَرَ سَيَابِنُ ابْنَ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابِي سَلْمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يَكْتُمُونَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ فَاِنْ يَكُنْ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعَمْرُوٌّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ ۵۲۱ ج ۱۷ فِي مَنَاقِبِ عَمْرُوٍّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ترجمہ :- "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہو کرتے تھے، پس اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے" اور اسی حدیث کے دو سکر الفاظ میں یہ ہے کہ "تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ سکلم ہو کرتے تھے، بغیر اس بات کے کہ وہ نبی ہوں، پس اگر ان میں سے کوئی میری امت میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے" (روایت کیا اس کو بخاری نے اپنی صحیح صفحہ ۵۲۱ جلد اول میں، اور روایت کیا اس کو مسلم نے) :-

محدث یا سکلم کون ہوتے ہیں؟ | حافظ نے فتح الباری صفحہ ۴۷ جلد ۴ میں لفظ محدث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ سکلم اور محدث کی تفسیر میں چند اقوال ہیں، بعض لوگوں نے اس کے

معنی انہم بتلائے ہیں، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت اس کی تائید کرتی ہے، جس میں خود حدیث میں بجائے محدثوں کے ملہموں کا لفظ منقول ہے۔

اسی طرح مسند حمیدی میں حضرت عائشہؓ سے اسی مضمون کی ایک حدیث آئی ہے، جس کے آخر میں الملہم بالصواب مذکور ہے، اور ترمذی نے ابن عیینہ کے بعض شاگردوں سے محدثوں کی تفسیر میں ملہموں کے الفاظ نقل کئے ہیں، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے حق بات سمجھادی جاتی ہے۔

بہر حال یہ بات خود نص حدیث سے بھی ثابت ہے کہ محدث یا مکلم وہ لوگ ہیں جو انبیاء تو نہیں مگر الطافِ خداوندی ان کی طرف خاص طور پر مبذول ہیں اور ان کو حق بات کا اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے یا حق بات سمجھادی جاتی ہے۔

یہ بات خود نص حدیث سے بھی ثابت ہے اور تمام اقوال محدثین بھی اس کے مطابق ہیں کہ محدث نبی نہیں ہوتا۔

اس کے بعد اصل حدیث کے مضمون پر غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بہتر افراد یعنی صحابہ کرامؓ اور ان میں سے بھی منتخب حضرت عمرؓ کے لئے اگر کوئی بڑے سے بڑا درجہ تجویز فرمایا ہے تو وہ صرف محدثیت کا درجہ ہی نبوت کا درجہ ان کے لئے بھی تجویز نہیں کیا، بلکہ صراحتہً اس کی نفی فرمائی، صحابہ کرامؓ جو باجماع امت خیار الخلائق بعد الانبیاء ہیں، اور ان میں بھی خلفائے راشدین جن کی سنت کا اتباع بھی مثل سنت نبویہ امت کے لئے ضروری سمجھا گیا ہے، جب رتبہ نبوت کو نہیں پاسکتے تو ان کے بعد کوئی غوث یا قطب یا ولی یقیناً اس درجہ کو نہیں پاسکتا، کیونکہ باتفاق امت کوئی ولی کتنا ہی ترقی کرے مگر صحابہ کے درجہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، افضل ہونا تو کجا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر صحابہ کرامؓ کے بعد کوئی نبی بنے تو لازم آتا ہے کہ غیر نبی یعنی صحابہ کرامؓ اس نبی سے افضل ہوں۔

حدیث نمبر ۱ | عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

رواہ البخاری ومسلم فی غزوة تبوک، و فی لفظ المسلم خَلَقَهُ عَلَيَّ  
السَّلَامُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَقْتَنِي مَعَ النَّبَا  
وَالصَّبِيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى  
أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي وَ  
فِي لَفْظٍ آخَرَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْتَ لَسْتَ نَبِيًّا .

ترجمہ :- حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ  
سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت ہارونؑ موسیٰ کے ساتھ تھے، مگر میرے  
بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا (اس لئے کہ تم ہارون کی طرح نبی نہیں) روایت کیا اس کو  
بخاری اور مسلم نے غزوة تبوک کے باب میں، اور مسلم شریف کی روایت میں اتنی بات اور  
زیادہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک جہاد میں حضرت علیؑ کو ساتھ نہیں لیا  
بلکہ گھر پر چھوڑ دیا، تو حضرت علیؑ نے (بطور نیا زندانہ شکایت کے) عرض کیا کہ آپ  
نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، آپ نے (ان کو تسلی کے لئے) ارشاد  
فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے ہارونؑ موسیٰ کے  
ساتھ (یعنی جس طرح حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ہارونؑ کو  
بنی اسرائیل کے پاس اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے اسی طرح سے تم اس وقت  
میرے نائب تھے) لیکن میرے بعد نبوت نہیں (اس لئے تمہارا مرتبہ اگرچہ ہارونؑ  
کا سا ہے، مگر تم کو نبوت حاصل نہیں) اور مسلم شریف کی ایک روایت کے الفاظ یہ  
ہیں اِلَّا أَنْتَ لَسْتَ نَبِيًّا (مگر تم نبی نہیں ہو) :-

جن لوگوں نے لانی نبی بعدی کے الفاظ کو تحریفیات کا میدان بنا رکھا ہے وہ اگر  
ان الفاظ پر بھی نظر ڈالیں تو ان کے سارے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں ۔

حدیث نمبر ۸ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ  
السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ نِسْتَانِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَغَوْهُمَا  
وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَالُونَ كَدَّ الْبُؤْسِ قَرِيْبًا  
مِنْ ثَلَاثِينَ كُلَّهُمْ يُدْعَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (سواء البخاری و  
مسلم واحمد) :

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ مدی میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اُس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے یہ علامات نہ ہو چکے کہ درجہ اول میں جنگِ عظیم رونما ہو، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو اور قیامت اس وقت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تقریباً ۳۰ دجال کاذب دنیا میں نہ آچکیں جن میں سے ہر ایک یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں (روایت کیا اس کو امام بخاری اور مسلم اور امام احمد نے)۔

اس حدیث میں آپ کے بعد مدعی نبوت کو دجال و کذاب فرمایا گیا ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس کی اور بھی زیادہ تصریح ہے۔

**ایک سوال** | اس جگہ پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہر مدعی نبوت دجال و کذاب ہے تو پھر تیس کا عدد صادق نہیں آتا، کیونکہ مدعی نبوت تو تیس سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ معلوم اور کتنے ہوں گے۔

**جواب** | حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں اس سوال کو حل کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

<p>” اور ہر مدعی نبوت مطلقاً اس حدیث میں مراد نہیں، اس لئے کہ آپ کے بعد مدعی نبوت تو بے شمار ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بے نیاد دعویٰ عموماً جنون یا سوداویہ سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس حدیث میں جن تیس دجالوں کا ذکر ہے وہ وہی ہیں جن کی شوکت قائم ہو جائے اور جن کا مذہب مانا جائے اور جن کے متبع زیادہ ہو جائیں یا</p>	<p>ولیس المراد بالحدیث من ادعی النبوة مطلقاً فانہم لایحصون کثرة لکون غالبہم ینشأ لہم ذلک عن جنون ورسواء وانما المراد من قامت لہ الشوكة . (فتح مفحہ ۳۵۵ جلد ۶)</p>
---	---

حافظ کی اس عبارت سے جس طرح مذکورہ الصدر سوال کا شافی جواب معلوم ہو گیا کہ اگرچہ مدعی نبوت سبھی کذاب ہیں مگر حدیث میں ۳۰ کے عدد سے وہ مدعی نبوت مراد ہیں جن کی شوکت و حشمت قائم ہو جائے، اور ان کے ماننے والوں کی کوئی جماعت پیدا ہو جائے، اسی طرح دواؤں فائدے معلوم ہوئے۔

اَوَّلُ یہ کہ اس قسم کے دعوائے نبوت آجکل عموماً جنون یا سودا دیت کا کرشمہ ہوتے ہیں۔  
دوم یہ کہ کسی مدعی نبوت کی شوکت و شہمت کا قائم ہو جانا یا اس کے مذہب کا  
رواج پانا اور اس کے متبعین کا زیادہ ہو جانا یہ اس کی سچائی یا حقانیت کی دلیل  
نہیں ہو سکتی، ہاں اس کی دلیل ہوتی ہے کہ کوئی معمولی متنبی نہیں ہے، بلکہ اُن ہی تیس  
دجالوں کی فہرست میں کا ایک نمبری جھوٹا ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

اب مرزا صاحب کا اپنے مریدین کی کثرت یا مذہب کے رواج یا لوگوں کے اموال  
بٹورنے پر فخر کرنا اور اس کو اپنی حقانیت کی دلیل بلکہ معجزہ مقرر دینا جس درجہ کی دلیل  
ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا، اور معلوم ہو گیا کہ مرزا صاحب اُن تیس دجالوں میں سے بڑا تر ہے  
رکتے ہیں، سچ ہے ۵

دکان امراء من جند ابلیس فائق؛ بہ الحال حتی صار ابلیس من جند  
”وہ ابلیس کے لشکر کا ایک آدمی تھا پھر اس کی ترقی ہو گئی یہاں تک کہ ابلیس بھی

اس کا ایک لشکر بن گیا ۶

حدیث نمبر ۹ | عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (فتح الباری مطبوعہ ہند ص ۱۳۳ با ۱۳۴)

ترجمہ ۹۔ ”حضرت جابر بن سمروہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے؟

حدیث نمبر ۱۰ | عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ

مَسِيكُونٌ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا

خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (رواہ مسلم)

ترجمہ ۱۰۔ ”حضرت ثوبانؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قریب

ہے کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک بھی کہے گا کہ میں نبی

ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ روایت کیا

اس کو مسلم نے ۷

کیا اس قسم کی صاف صاف احادیث اور ارشادات نبویہ کے بعد بھی مسئلہ

”ختم نبوت“ کا کوئی پہلو خفا میں رہتا ہے؟ اور کیا اس کے بعد بھی مرزائی

امت کے لئے وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے خیالاتِ باطلہ سے تائب ہو جائیں؟

حدیث نمبر ۱۱ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَيْتَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ  
بِالرُّعْبِ وَأَحِلَّتْ لِي الْعَنَائِيْمُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ  
طَهُورًا قَدْ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُيِّمَ لِي النَّبِيُّونَ (رواہ  
مسلم فی الفضائل)۔

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام  
انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی ہے :- اول یہ کہ مجھے جوامع الکلم دیئے گئے  
اور دوسری یہ کہ رعب سے میری مدد گئی، (یعنی مخالفین پر میرا رعب پڑ کر ان کو  
مفلوب کر دیتا ہے) تیسرے میرے لئے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا (بخلاف انبیاء  
سابقین کے کہ مال غنیمت ان کے لئے حلال نہ تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ نازل  
ہوتی تھی جو تمام مال غنیمت کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی تھی، اور یہی جہاد کی مقبولیت  
کی علامت سمجھی جاتی تھی) اور چوتھے میرے لئے تمام زمین ناز پڑنے کی جگہ بنا دی گئی  
(بخلاف اُمم سابقہ کے کہ ان کی ناز صرف مسجدوں ہی میں ہو سکتی تھی) اور زمین کی ٹٹی  
میرے لئے پاک کرنے والی بنا دی گئی (یعنی بوقت ضرورت تیمم جائز کیا گیا جو کہ  
پہلی امتوں کے لئے جائز نہ تھا) پانچویں میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا  
گیا ہوں (بخلاف انبیاء سابقین کے کہ وہ خاص خاص قوموں کی طرف کسی خاص  
اقلیم میں ایک محدود زمانہ تک کے لئے مبعوث ہوتے تھے) چھٹے یہ کہ مجھ پر انبیا ختم  
کر دیئے گئے (روایت کیا اس کو مسلم نے فضائل میں) :-

حدیث نمبر ۱۱ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَنْبِقْ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ (رواہ  
البخاری فی کتاب التبعییر، ص ۳۳۱ ج ۱۲ علی هامش الفتح و مسلم)۔

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
ہے کہ لے لوگو! نبوت کا کوئی جزو سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں (اس حدیث  
کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے) ۴

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی اور سلسلہ وحی منقطع ہو گیا  
البتہ اجزائے نبوت میں سے ایک جزو مبشرات باقی ہے یعنی جو سچے خواب مسلمان

دیکھتے ہیں، یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے جس کی تشریح بخاری ہی کی دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھیا لیسواں جزو ہے۔  
ایک شب اور اس کا ازالہ | عبرت کی جگہ ہے کہ ارشادات نبویہ کے ان بیانات کے بعد بھی سچا اس کے کہ مرزائی قلوب میں زلزلہ پڑ جاتا، اور وہ ایک متنبی کا ذب کو چھوڑ کر سید الانبیاء کی نبوت کو اپنے لئے کافی سمجھ لیتے، ان کی جسارت اور تحریف میں دلیری اور بڑھتی جاتی ہے، وکذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار۔

اور حدیث میں سلسلہ نبوت کے انقطاع پر یہ صاف ارشاد ہوتا ہے، اور ادر قادیانی دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقاء نبوت ثابت ہو گیا  
 اِنَّ هَذَا النَّبِيُّ مَعْجَبٌ۔

کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ نبوت کا ایک جزو باقی ہے جس سے نفس نبوت کا بقاء ثابت ہوتا ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ بھی باقی ہو تو پانی کو باقی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح نبوت کے ایک جزو کا باقی ہونا خود نبوت کا باقی ہونا ہے۔ اہل دانش فیصلہ کریں کہ اس فلسفہ اور سائنس کے دور میں ایک مدعی نبوت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اُس کو جس روز اور گھل کا بدیہی امتیاز معلوم نہیں، وہ کسی شے کے ایک جزو موجود ہونے کو گھل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ایک جزو مثلاً اللہ اکبر کو پوری نماز اور وضو کے ایک جزو مثلاً ماتمہ دھونے کو پورا وضو کہا جائے، اسی طرح ایک لفظ اللہ کو پوری اذان اور ایک منٹ کے روزہ کو ادا سے روزہ کہا جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ اگر قادیانی نبوت کی یہی برکات ہیں کہ کسی شے کے ایک جزو کے وجود کو گھل کا وجود قرار دیا جائے، اور جزو پر گھل کا اطلاق درست ہو جائے تو پھر ایک اینٹ کو پورا مکان کہنا بھی درست ہوگا، اور کھانے کے بیس اجزاء میں سے ایک جزو نمک ہے تو نمک کو کھانا کہنا بھی روا ہوگا۔ نمک کو پلاؤ اور پلاؤ کو نمک کہا جائے تو کوئی غلطی نہ ہوگی۔ اور پھر تو شاید ایک تاکہ کو کپڑا کہنا بھی جائز ہوگا۔ اور ایک انگلی کے ناخن کو انسان اور ایک رسی کو چار پائی بھی کہا جائے اور ایک میخ کو کوائر بھی۔ کیا خوب! نبوت ہو تو ایسی ہو کہ تمام ہی کو بدل ڈالے۔

پس اگر ایک اینٹ کو مکان اور نمک کو پلاؤ اور ایک ٹاگہ کو کپڑا اور ایک رسی کو چار پائی اور ایک میخ کو کوڑا نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے چھالیسویں جزو کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتے۔

رہی پانی کی مثال کہ اس کا ایک قطرہ بھی پانی ہی کہلاتا ہے اور پورا سمندر بھی پانی کہلاتا ہے۔ سو یہ ایک جدید مرزائی فلسفہ ہے کہ ان عقلمندوں نے پانی کے ایک قطرہ کو پانی کا ایک جزو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہی جیسے ایک دیا۔ جو شخص علم کی اسجد سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے ہر قطرہ میں اجزائے مائیکرو پورے پورے موجود ہیں، فرق اتنا ہے کہ سمندر میں پانی کے اجزاء زیادہ ہیں، اور قطرہ میں کم مقدار میں موجود ہیں، مگر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک قطرہ میں پانی کے دونوں اجزاء جن کو جدید فلسفہ ہیڈروجن اور آکسیجن کہتا ہے موجود ہیں اس لئے پانی کے قطرات کو پانی کے اجزاء نہیں کہا جاسکتا بلکہ پانی کے اجزاء وہی ہیڈروجن اور آکسیجن ہیں، تو جس طرح تنہا ہیڈروجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے اور تنہا آکسیجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے، اسی طرح نبوت کے کسی جزو کو نبوت کہنا بھی غلط ہے، یہ محض لچر اور ناقابلِ ذکر بات ہے کہ نبوت کا ایک جزو باقی ہونے سے نبوت کا بقا ثابت کر ڈالا۔

نبوت بروز یہ یا ظنیہ وغیرہ | اس حدیث میں یہ بات زیادہ قابلِ لحاظ ہے کہ آنحضرت  
بالفرض اگر نبوت ہے تو وہی | صلی اللہ علیہ وسلم نے انقطاع نبوت کے ذکر کے ساتھ صرف  
آپ کے بعد منقطع ہے | روایات سے صالحہ کے بقا کا ذکر فرمایا ہے اور کسی قسم کی نبوت  
کا نام نہیں لیا، جو اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک نبوت کی کوئی  
قسم آپ کے بعد باقی نہیں رہی ورنہ ضروری تھا کہ نبوت کی جو قسم باقی رہنے والی ہو  
جگہ سے صحیح خواب کے اس قسم کا ذکر فرمایا جاتا۔

اور اسی پر بس نہیں، بلکہ نبوت کے تمام اجزاء اور اقسام کے بالکل انقطاع کی  
خبر دے کر صرف ایک جزو یعنی روایات سے صالحہ کا استثناء فرمایا گیا ہے، اب انصاف  
سمجھیے کہ اگر سوائے روایات سے صالحہ کے اور بھی کوئی جزو یا کوئی نوع یا کوئی قسم  
نبوت کی باقی رہنے والی تھی، تو اس کا استثناء کیوں نہیں فرمایا گیا؟

مرزا صاحب نے اپنی اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنے کے لئے کبھی فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرا ایمان ہے مگر صرف تشریحی نبوت ختم ہوئی ہے، اور میری نبوت غیر تشریحی ہے۔ اور کبھی کہا کہ کلی نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت بنزلی ہے۔ اور کبھی ارشاد ہوا کہ حقیقی نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت ظلی اور بروزی ہے۔ اور کبھی لکھا ہے کہ مستقل نبوت ختم ہوئی ہے اور میری نبوت غیر مستقل ہے۔

غرض ان متعارض اور متہانت اقوال کو اختیار کر کے مرزا صاحب نے سمجھا ہے کہ ہماری نبوت بھی سیدھی ہو گئی، اور مسلمانوں کے سامنے یہ کہنے کی بھی جگہ باقی رہی کہ قرآن و حدیث کے صریح حکم یا امت کے اجماعی عقیدہ ختم نبوت کے منکر نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث نے مرزا صاحب کے سامنے منسوب بے خاک میں ملائیے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیں کہ ظلی و بروزی وغیرہ جو ختم نبوت کی مرزا صاحب نے ایجاد کی ہے وہ واقعی نبوت کی ایک قسم ہے، اس حدیث میں اس کے بھی القطاع کی خبر بصراحت موجود ہے۔ کیونکہ اس میں اجزاء و اوارخ نبوت میں سے رویارے مالمحہ کے سوا کچھ مستثنیٰ نہیں فرمایا گیا۔ پس اگر ظلی و بروزی وغیرہ بھی نبوت کی قسمیں ہیں تو وہ بھی اس حدیث کی زور سے منقطع و منقطع ہو چکیں، اور مرزا صاحب کو ان متعارض اقوال اور نئی نئی قسم کی نبوتیں تراشنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا۔

حدیث نمبر ۱۳ | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ

الْتِمَارَةَ وَرَأَسَهُ مَعْصُوبًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ مَعْصُوبٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنِّي مَبَشَرَاتِ النَّبُوتِ إِلَّا التَّوْبَةُ وَالصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى  
لَهُ (رواه مسلم والنسائي وغيره)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضِ وفات میں دروانہ کا پردہ کھولا، آپ کا سر مبارک بوجہ مرض کے بندھا ہوا تھا، اور لوگ حضرت صدیق اکبرؓ کے پیچھے منہیں باندھے کھڑے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت میں کوئی جزو باقی نہیں رہا، مگر اچھے خواب جو مسلمان دیکھتے ہیں، یا اس کے لئے کوئی اور دیکھے (روایت کیا اسکی مسلم اور نسائی نے)؛

حدیث نمبر ۱۳ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ  
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِي أَخِيرَ الْأَنْبِيَاءِ  
وَمَسْجِدِي فِي أَخِيرِ الْمَسَاجِدِ (رواه مسلم صفحہ ۴۳۶ جلد ۱) و  
النسائی ولفظه خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتِمِ الْمَسَاجِدِ۔

ترجمہ۔ " حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے  
ابو ہریرہؓ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے  
کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے، (اس حدیث کو مسلم نے صفحہ ۴۳۶  
جلد اول میں اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نسائی کے الفاظ میں بجائے آخر الانبیاء  
اور آخر المساجد کے خاتم الانبیاء اور خاتم المساجد واقع ہوا ہے) اور یہ روایت معنی  
واحد ہیں، جیسا کہ اسی رسالہ میں مفصل گزر چکا ہے۔

تنبیہ۔ ۱۔ حدیث میں خاتم المساجد سے مراد خاتم مساجد الانبیاء ہے،  
جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں خود یہی لفظ موجود ہے، جس کو ائمہ حدیث دینی، ابن  
نجار، بزار وغیرہ نے حضرت عائشہؓ سے بایں الفاظ روایت کیا ہے۔

أَنَا خَاتِمَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي | " میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد  
خَاتِمُ الْمَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَذَلِكَ الْكَلِمَاتُ | مساجد انبیاء کی خاتم اور آخر ہے۔

حاصل یہ ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا اور نہ کسی نبی کی اور

مسجد بنے گی۔

ایک لطیفہ۔ ۲۔ مرزائی دنیا میں صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ دیکھ کر خوشی  
منانی گئیں کہ اس نے ختم نبوت کے مسئلہ میں تحریف کا راستہ نکال دیا، کیونکہ خاتم المساجد  
کے معنی باتفاق یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ کے بعد کوئی مسجد نہیں بنے گی، کیونکہ یہ واقعات  
کے خلاف ہے، اسی طرح خاتم الانبیاء کے معنی بھی یہ نہیں ہوں گے کہ آپ کے بعد کوئی  
نبی پیدا نہیں ہوگا۔

لیکن دینی، ابن نجار اور بزار کے حوالہ سے حضرت عائشہؓ کی جو حدیث ابھی پیش کی  
گئی ہے کہ خاتم المساجد کے معنی خاتم مساجد الانبیاء ہیں، اس نے ان کے تمام  
منصوبے خاک میں ملا دیئے۔

حدیث نمبر ۱۵ | عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءَ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمَقْفِيُّ

(الحديث، رواه مسلم صفحة ۲۶۱ جلد ۲۔)

ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسم کے شریفہم سے بیان فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں اور احمد اور مقفیؓ بھی ہوں (اس حدیث کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے)۔  
امام نوویؒ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لفظ مقفی کے معنی شمر سے نقل کئے ہیں کہ مقفی بمعنی عاقب ہے، اور عاقب کے معنی خود نص حدیث میں آخر الانبیاء بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ حدیث نمبر ۵ میں گذرا ہے۔ اور ابن الاعرابی نے مقفی کا ترجمہ ہوا المتبہم للانبیاء کیا ہے، جس کے معنی بھی یہی آخر الانبیاء ہوتے ہیں۔ اس لئے نوویؒ نے دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ نظر انداز کرنا مقفی ہوا الآخر، یعنی ثابت ہوا کہ مقفی کے معنی آخر کے ہیں، اور اس لئے حدیث کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ میں آخر الانبیاء ہوں۔

حدیث نمبر ۱۶ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ يَقُولُ لَهُمْ عَيْسَى إِذْ هَبُوا إِلَى غَيْرِي إِذْ هَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ

اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ السلامة (رواه البخاری ۶۸۵ ج ۲۷ وسلم ۱۷۱)

ترجمہ۔ " حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل حدیث کہ ذیل میں روایت کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰؑ سے قیامت کے روز شفاعت کے لئے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نعم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں (الآخر الحدیث)، روایت کیا اس کو بخاری نے صفحہ ۶۸۵ ج ۲۷ میں اور مسلم نے صفحہ ۱۱۱ جلد اول میں۔ "

حدیث نمبر ۱۷ | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (رواه البخاری

فصیحہ - مشکوٰۃ المصابیح باب قرب القیامة

ترجمہ ۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (انگشت شہاد اور بیچ کی انگلی کو ملا کر) فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔

باقی علماء سے حدیث اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی جدید نبی پیدا نہ ہوگا اور قیامت آپ کے ساتھ ملی ہوئی آنے سے سبھی مراد ہو سکتی ہے۔ ورنہ حدیث کا خلاف واقعہ ہونا لازم آتا ہے کہ آپ کی پیدائش تقریباً چودہ سو برس ہو چکی اور اب تک قیامت کا پتہ نہیں۔

اور دوسری احادیث میں آپ کے ساتھ قیامت کے متصل ہونے کا ہی مطلب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جیسا کہ ختم النبوة فی القرآن (آیت نمبر ۶۶ کے تحت) صفحہ ۱۷۸ میں حضرت ابو زمرہ کی طویل حدیث کا ایک حصہ نقل ہو چکا ہے جس کے چند جملے یہ ہیں۔

<p>• وہ ناکہ جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور یہ کہ میں اس کو چلا رہا ہوں وہ قیامت جو میرے قائم ہوگی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔</p>	<p>رَأَى مَا النَّاقَةُ الَّتِي ذَلَّتْ بِهَا أَبْعَثَهَا فِي السَّاعَةِ عَلَيْنَا نَعُوْمٌ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي . (ابن کثیر ص ۳۶۹ ج ۱)</p>
--	--

اس میں بوضاحت معلوم ہو گیا کہ قیامت کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہوئے آنے کے یہی معنی ہیں کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی دوسری امت۔

حدیث نمبر ۱۸ | عَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَدْ كَانَ فِي الْأَسْمِ قَبْلَكُمْ مُخَدِّتُونَ فَإِنْ تَمَكَّنَ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ  
أَحَدٌ فَعَسَوْبُنُ الْخَطَّابِ (رواه مسلم والنسائي والبيهقي والحمد)

ترجمہ ۱۸۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہو کر تھے، اگر میری امت میں بھی ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عورت ہیں (اس حدیث کو مسلم اور نسائی اور ابویعلیٰ اور امام احمد نے روایت فرمایا ہے)

حدیث نمبر کے تحت محدث کے معنی اور مضمون حدیث کا مطلب مفصل گذر چکا ہے۔

حدیث نمبر ۱۹ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْأَخِيرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ أَنَّهُمْ أَوْثْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ الْحَدِيث (رواه البخاری و مسلم والنسائی من الكنز ج ۲ ص ۶) ومثله عند ابی نعیم فی الدلائل صفحہ ۹۔

ترجمہ - حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سب سے آخر میں اور قیامت میں سب سے سابق ہوں گے، صرف اتنی بات ہے کہ ایم سنبھالو کہ کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد ملی (روایت کیا اس حدیث کو بخاری اور مسلم اور نسائی نے (کنزانی الکنز ص ۲ ج ۶) اور ابو نعیم نے دلائل نبوت ص ۹ میں بعینہ یہی حدیث نقل کی ہے ۲۔

صحیح مسلم میں ابواب الجمعہ میں اس حدیث کو چار طریق سے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر ۲۰ | عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ وَ لَفْظُهُ نَحْنُ الْأَخِيرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم ص ۲۸۳ ج ۲)

ترجمہ - حضرت حذیفہؓ سے بھی یہی مضمون مسلم نے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ میں کہ ہم دنیا میں سب سے آخری امت میں اور قیامت میں سب سے پہلے ہوں گے ۲۔

صحیحین کے علاوہ، وہ احادیث جن کو ائمہ حدیث نے صحیح کہا ہے؛

حدیث نمبر ۲۱ | عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَجَائِلُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعٌ نَسُوا وَرَأَى خَاتِمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (رواه احمد والطبرانی و اسنادہ جید و الساجسی فی مشکل الآثار ص ۱۳ ج ۴)

ترجمہ - حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ستر گنا کذاب و جال ہوں گے، جن میں سے چار عورتیں ہوں گی،

حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اس کو امام احمد اور طبرانی نے باسناد جید روایت کیا ہے اور اسی طرح روایت کیا اس کو طحاوی نے مشکل الآثار ۱۲۴۱ میں ہے اس سے پہلے ایک حدیث گذر چکی ہے جس میں تیش و جالوں کا ذکر ہے، اس میں سنیوں میں مذکور ہیں، مگر ان میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا ہے اول آپ کو سنیوں کا علم ہوا ہو پھر میں کا ہونا معلوم ہوا۔

حدیث نمبر ۲۲ | عَنْ عَلِيٍّ قَالَ دُجِعْتُ دَجْعًا فَأَتَيْتُكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمْتُ فَأَقَامَ مَعِيَ فِي مَقَامِهِ وَقَامَ يُصَلِّي وَآلَتِي عَلَى طَرَفِ تَوْبِهِ  
ثُمَّ قَالَ بَرَأْتُ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ مَا سَأَلْتُ بِاللَّهِ  
فِي شَيْءٍ إِلَّا سَأَلْتُ لَكَ مِثْلَهُ وَلَا سَأَلْتُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَانِيهِ  
غَيْرَ أَنَّهُ قِيلَ لِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَقَعْتُ كَأَنِّي مَا اشْتَكَيْتُ رَوَاهُ  
ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ شَاهِينَ فِي السَّنَةِ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبُلْعَمِيُّ  
فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ كَذَانِي الْكُتُبِ

ترجمہ اور ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت درد ہوا، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کر دیا، اور خود نماز پڑھنے لئے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے پیرے کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا، پھر فرمایا کہ اے علی! تم شفا یاب ہو گئے، اب تم میں کوئی مرض نہیں رہا۔ جو کچھ تم اللہ سے میرے لئے دعا کرو گے، میں تمہارے لئے وہی دعا کروں گا، اور میں جو کچھ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے سوا کہ مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، (اس لئے تمہارے لئے بھی نبوت کی دعا نہیں کر سکتا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دہاں سے ایسا نادرست ہو کر اٹھا کہ گویا بیار تھا ہی نہیں) روایت کیا اس کو ابن جریر نے اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، نیز روایت کیا ابن شاہین نے سنت میں اور طبرانی نے معجم اوسط میں اور ابونعیم نے فضائل صحابہ میں (اذا کثر العمال)

حدیث نمبر ۲۳ | عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَا أَبَا ذَرٍّ أَدُلُّكَ الْأَنْبِيَاءَ أَدُمُّ وَأَخِيرُهُ مُحَمَّدٌ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ

فی صحیحہ و ابونعیم فی الحلیۃ و ابن عساکر و الحکیم الترمذی  
(من الکنتز ۱ ج ۶) و اخرجہ ابن حبان فی تاریخہ فی السنۃ  
العاشرة ص ۶۹ قلی)

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب  
انبیاء میں پہلے آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔  
(روایت کیا اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں، نیز اپنی تاریخ میں سنہ  
کے احوال کے تحت قلی ص ۶۹ پر اور ابونعیم نے علیہ میں اور ابن عساکر و حکیم ترمذی  
دیگر نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے (دیکھو کنز العمال صفحہ ۱۲۰ ج ۶) اور حافظ  
ابن حجر نے بھی مستح الباری میں اس کی تصحیح کی ہے)؛

حدیث نمبر ۲۴ | وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرِي أَنْ تَكُونَ يَمْنَزَلَةَ هَانُؤُنَ مِنْ  
مُؤَسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا تَبِيَّ بَعْدِي (رواه الحاكم في المستدرک و  
الطبرانی في الكبير كذا في الكنز، ص ۱۵۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت مالک ابن حوریتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ  
سے فرمایا کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم ایسے ہو جیسے اروؤن مؤسی کے ساتھ  
تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ (اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں نقل  
کر کے تصحیح کی ہے اور طبرانی نے معجم کبیر میں بھی روایت کیا ہے۔ حدیث کا مطلب اور  
تحقیق مفصل پہلے گزر چکی ہے)؛

حدیث نمبر ۲۵ | عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا  
مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمُعْتَقِيُّ وَالْحَاشِيُّ وَالْمَاسِحِيُّ وَالْحَاقِئِيُّ  
وَالْعَاقِبِيُّ (رواه احمد و ابن سعد و الطبرانی و الحاكم (من الكنز)

ترجمہ ۱۔ "حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ  
میں محمد ہوں، اور احمد، معتقی، حاشی، ماسحی، حاقی، اور عاقب (روایت کیا  
اس کو امام احمد نے مسند میں اور ابن سعد و طبرانی نے اور حاکم نے اس کو مستدرک  
میں درج کر کے تصحیح فرمایا، (من السنن)

**مراد حدیث کی یہ ہے کہ یہ سب میرے نام ہیں۔** مقفی اور عاقب کے معنی پہلے گذر چکے ہیں کہ خاتم الانبیاء کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حاشرہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ کے بعد ہی حشر و قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی نبی اور نہ پیدا ہوگا۔ اور ماحی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا۔

**حدیث نمبر ۱۲۶** | عَنْ عَوْتِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا قَوْلَهُ لَأَنَا الْحَاشِيَةُ وَأَنَا الْعَاقِبَةُ وَأَنَا الْمُقْفِيُّ (رواه رطب وک من الکندر)

ترجمہ:- "حضرت عوت بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا! تم میں ماحی اور عاقب اور مقفی ہوں (روایت کیا اس کو طبرانی نے اور حاکم نے مستدرک میں درج کر کے تصحیح کی ہے)۔"

ابھی گذر چکا ہے کہ حاشرہ، عاقب، مقفی تینوں کی مراد ایک ہے، یعنی آخر الانبیاء۔

**حدیث نمبر ۱۲۷** | عَنْ وَهْبِ بْنِ مُتَّابٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثِهِ طَوِيلٌ فِي الْمُخْتَصِرِ يَقُولُ قَوْمٌ نُوحٍ وَأَيُّ عَلِيَّتْ هَذَا يَا أَحْمَدُ وَأَنْتَ وَأُمَّتُكَ أَخِرُ الْأُمَمِ (رواه الحاكم في المستدرک كذا في الكندر)

ترجمہ:- "حضرت وہب بن متاب حضرت ابن عباس سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح کی امت کہے گی کہ اے احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آپ اور آپ کی امت آخر الامم ہے (اس کو حاکم نے مستدرک میں درج کر کے صحت کا حکم کیا ہے)۔"

**حدیث نمبر ۱۲۸** | عَنْ الْحَسَنِ عَنِ سَبْعَةَ رَهْطٍ شَهِدُوا بَدْرًا كَلَّمَهُمْ رَفَعُوا الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رواه الحاكم في المستدرک)

ترجمہ:- "حضرت حسن سے سات صحابہ جو غزوة بدر کے شہداء ہیں سے تمہے مرفوعاً اسی مضمون کو نقل کرتے ہیں جو اس سے پہلی حدیث میں حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا گیا ہے (حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے صحت کا حکم کیا ہے)۔"

لہ ایک معاملہ کی طرف اشارہ ہے جو ابتدائے حدیث میں مذکور ہے، ۱۲۱ منہ

حدیث نمبر ۲۹ | عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إِلَى خَاتِمِ الْإِنْبِيَاءِ أَذْكَرَ رِوَاةَ

الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنَ الْكُتُبِ ص ۱۳۷ ج ۶

ترجمہ: "حضرت ابوسعیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ہزار انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں یا کچھ زیادہ کا (حاکم نے مستدرک میں نقل کر کے تصحیح فرمائی ہے)۔"

حدیث نمبر ۳۰ | عَنْ عِزِّ بْنِ أَبِي سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ رِوَاةُ السَّيِّمِيِّ وَالْحَاكِمِ

وَصَدْرُهُ (كُنْ فِي الدَّر المنثور ص ۲۰۲ ج ۵)

ترجمہ: "حضرت عز بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمام انبیاء کا خاتم اور آخر (اس کو بیہقی نے روایت کیا) اور حاکم نے مستدرک میں روایت کر کے تصحیح فرمائی۔ (ازد و مشور)۔"

حدیث نمبر ۳۱ | عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي قِصَّةِ طَوِيلَةَ لَهُ حِينَ جَاءَتْ

عَشِيرَتَهُ يُطَلَبُونَكَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا

أَسْلَمَ فَقَالُوا لَهُ إِمْرُؤُا مَعَنَا يَا زَيْدُ فَقَالَ مَا أُرِيدُ بِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلًا وَلَا غَيْرِهِ أَحَدًا فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا

مُعْطُونَكَ بِهَذَا الْعِلَامِ دِيَارَ قَسَمٍ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّا حَامِلُونَ إِلَيْكَ

فَقَالَ أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّيَ حَسْبُكُمْ

أَنْبِيَائِهِمْ وَرُسُلِهِمْ وَأَرْسِلُهُمْ مَعَكُمْ الْحَدِيثُ (اخرجه الحاكم

مفصلًا ورسد قصته في مستدرک ص ۳۱۳ ج ۳)

ترجمہ: "حضرت زید بن حارثہؓ اپنے اسلام لانے کا ایک طویل اور دلچسپ قصہ بیان فرما کر آخر میں فرماتے ہیں کہ جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر مسلمان ہو گیا تو میرا قبیلہ مجھے تلاش کرتا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچا اور مجھے آپ کے پاس دیکھ کر کہا اے زید! اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو، میں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلہ میں ساری دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا اور نہ آپ کے سوا کسی اور کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے

کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ! ہم آپ کو اس لڑکے کے بدلہ میں بہت سی دیتیں (اموال) دینے کے لئے تیار ہیں، جو آپ چاہیں سہرا دیں، ہم ادا کر دیں گے، مگر اس لڑکے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔

آپ نے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شہادت دو اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں، اور یہ کہ میں رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں (جیسا کہ تم یہ گواہی دو گے) میں اس لڑکے کو تمہارے ساتھ کر دوں گا (الحديث)۔  
روایت کیا اس کو حاکم نے مستدرک ص ۳۱۴ ج ۳ میں، ۳۵

فائدہ :- اس حدیث میں یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو کلمہ شہادت کی طرح ایمان کا جزو و استمرار دیا ہے۔

حدیث نمبر ۲۲ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَسَرْتُ بِأَخِي مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَةِ لِأَعْرِضَهَا عَلَيْكَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَأْصَبَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ لَصَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظِي مِنَ الْأُمَمِ أَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ رواه احمد في مسنده كذا في الدر المنثور للسيوطي، ص ۳۲۸ ج ۲۔

ترجمہ ۱۔ " حضرت عبد اللہ بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں بنی قریظہ میں اپنے ایک بھائی کے پاس گذرا، اس نے تورات سے کچھ جامع کلمات لکھ کر مجھے بیٹے میں تاکہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، اور فرمایا کہ اس ذاتِ قدوس کی قسم ہے جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر خود موسیٰؑ بھی تمہارے اندر آجائیں اور تم اس وقت ان کی اتباع کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ کیونکہ تم تمام امتوں سے صرف میرا حصہ ہو، اور تمام انبیاء میں سے صرف میں تمہارا حصہ ہوں۔ (اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے) (ازد منشور ص ۴۳ ج ۲)۔  
نیز اس کو حاکم نے روایت کیا ہے (کذا فی الکتر ص ۱۶)۔

فائدہ ۱۔ اس حدیث میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کر کے بتلادیا ہے کہ نہ اس امت کے لئے اور کوئی نبی ہو سکتا ہے اور نہ یہ امت کسی اور نبی کی امت بن سکتی ہے۔

حدیث نمبر ۲۳ | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ ج ۸ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا

ترجمہ ۲۔ حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی، (اس حدیث کو ترمذی نے روایت کر کے فرمایا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر ج ۸ میں فرمایا ہے کہ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے؛

فائدہ ۱۔ اس حدیث میں لفظ نبی اور رسول کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ نہ کوئی تشریحی نبی آپ کے بعد ہوگا نہ غیر تشریحی، کیونکہ ہم اس رسالہ کے پہلے حصہ کے شروع میں لکھ چکے ہیں کہ جبہور کے نزدیک رسول صاحب شریعت نبی کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی عام ہے، صاحب شریعت جدیدہ ہو یا پہلی شریعت کا منج۔

حدیث نمبر ۲۴ | عَنْ أُمِّ كُرَيْبَةَ كَعْبِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشَّرَاتُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ فِي سُنَنِهِ ج ۲۸۹ وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ كَذَا فِي الْكُنْزِ .

ترجمہ ۱۔ حضرت ام کرز کعبیہ منرانی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ نبوت ختم ہو گئی صرف مبشرات باقی رہ گئے (اس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن ج ۲۸۹ میں اور امام احمد نے مسند میں اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو روایت کر کے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے (کنزانی الکنز)

اس حدیث میں بھی مبشرات سے اچھے خواب مراد ہیں، جس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔

حدیث نمبر ۲۵ | عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَأَنَا أَخِيرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ أَخِيرُ الْأُمَّمِ

رواہ ابن ماجہ فی سننہ ص ۲۰۰ باب فتنۃ الدجال وابن خزیمہ

والحاکم والضیاء من منتخب الکتب ص ۶۷

ترجمہ :- حضرت ابو امامہ باہلیؓ نے ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں اور تم سب آخری امت ہو (دیکھو ابن ماجہ صفحہ ۲۰۰ باب فتنۃ الرجال اور منتخب الکتب صفحہ ۴۱ جلد ۶ میں اس

حدیث کو بحوالہ صحیح ابن خزیمہ اور حاکم اور ضیاء نے بھی روایت کیا ہے) :

حدیث نمبر ۳۶ | عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ

التَّمثِيلُ بِاللِّسْنَةِ الْخَاتِمَةِ فِي آخِرِ مَا خَلَقْنَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ مُؤْتَمِرًا

قَالَ التِّرْمِذِيُّ (رواه احمد والترمذی وقال الترمذی هذا

حدیث حسن صحیح غریب)

ترجمہ :- حضرت ابی بن کعبؓ نے مذکورہ بالا حدیث جس میں نبوت کو آپؐ نے ایک

عظیم الشان محل کے ساتھ اور انبیاءِ عظیم السلام کو اس کی انیٹوں کے ساتھ تشبیہ

دی ہے مفصل الفاظ نقل کرنے کے بعد یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ میں خاتم النبیین

ہوں اور درجہ میرا انبیاء میں ایسا ہے جیسا اس محل میں آخری اینٹ کا (روایت کیا

اس کو ترمذی اور امام احمد نے اور ترمذی نے فرمایا جو کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے) :

یہ چلتی ہیں احادیث ختم نبوت کے ثبوت میں محدثین کی اصطلاح کے مطابق

صحیح احادیث ہیں جو حدیث کے اقسام میں سب سے قوی حجت سمجھی جاتی ہیں ۔

## سنن اربعہ یعنی صحاح ستہ کی باقی احادیث

نسائی ، ابوداؤد ، ترمذی ، ابن ماجہ

حدیث نمبر ۳۷ | عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ لَوْ كَانَتْ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رواه الترمذی)

ترجمہ :- حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ اگر میرے

بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطابؓ ہوتے ۔ (روایت کیا اس کو ترمذی نے) :

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ میں کمالات نبوت موجود تھے، مگر بائیں ہنہ ان کو عہدہ نبوت نہیں دیا گیا، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں لفظ لَوْ كَانَ سے اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ لفظ لَوْ عربی زبان میں اسی غرض کے لئے آتا ہے کہ شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے شرط بھی موجود نہیں، لہذا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس لئے عمرؓ بھی نبی نہیں ہوئے۔

خیر الامم اور کمالات نبوت | اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کے انقطاع سے یہ لازم نہیں آتا کہ کمالات نبوت بھی منقطع ہو جائیں، بلکہ اس امت میں بھی کمالات نبوت موجود ہیں، البتہ عہدہ نبوت نہیں دیا جاتا، اور یہ ایسا ہے کہ ایک نافع تحصیل عالم میں مدرس ہونے کی قوت اور درس و تدریس کا کمال موجود ہے مگر اس وقت تک مدرس نہیں کہا جاسکتا، جب تک کہ کسی مدرسہ میں یہ عہدہ اس کو نہ دیا جائے یا ایک گریجویٹ جو انگریزی فنون کا پورا ماہر ہے، اس میں ڈپٹی کلکٹر ہونے کی قوت اور کمال موجود ہے، مگر کلکٹری کا عہدہ اس کو جب تک نہ دیا جائے وہ کلکٹر نہیں کہلا سکتا۔ الحاصل اس امت کے فضلاء کمالات نبوت سے محروم نہیں، بلکہ کمالات نبوت میں سے ان کو دافرصہ ملا ہے، البتہ آپ کی نبوت چونکہ قیامت تک باقی اور قائم ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو عہدہ نبوت دینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مناسب کیونکہ آپ کی نبوت قائم ہوتے ہوئے کسی کو عہدہ نبوت دینا آپ کی کسر شان ہے، اس لئے عہدہ نبوت کسی کو نہیں دیا گیا۔

حضرت ابن عباسؓ ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام ائم سابقہ ہمارا احترام کریں گی اور کہیں گی۔

كَانَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونُوا أَنْبِيَاءَ  
كُلَّمَا رَدَّوهُ إِلَى اللَّهِ كَفَىٰ  
۳۵۴ وَكَذَلِكَ نَقُولُ (احمدی ابوعلی)

یہ امت بلحاظ کمالات تک سب  
انبیاء ہونے کے قریب ہیں۔

اور شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ صفحہ ۱۶ میں بھی مضمون حضرت کعب اجازت سے بحوالہ تورات و انجیل نقل کیا ہے۔ اور کثر العمال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے چند صحابہ کے متعلق فرمایا کہ کاذب ان تَكُونُوا أَنْبِيَاءَ

یعنی یہ لوگ باعتبار کمالات انبیاء ہونے کے قریب ہیں۔

اس بیان سے اُس قادیانی مکر کی بھی حقیقت کھل گئی جس کو وہ مسلمانوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا کرتے ہیں، کہ اگر بالکل نبوت کا انقطاع تسلیم کر لیا جائے تو اس امت مرحومہ کی سخت توہین ہوگی، کہ ساری امتیں ہمیشہ نبوت کا شرف پاتی رہیں اور یہ اس سے محروم رہ گئی۔

کیونکہ احادیث مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ امت کمالات نبوت میں تمام پہلی امتوں سے بھی بہت آگے ہے۔ اور عہد نبوت کا نہ ملنا چونکہ آپ کی نبوت کے بقا و قیام کی وجہ سے ہے، اس لئے یہ بھی درحقیقت اس امت کے لئے افضلیت کا باعث ہے نہ کہ محرومی یا نقصان کا۔

حدیث نمبر ۲۸ | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا آذَانَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلِعَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي

إِذَا خَلَعْتَنِي قَالَ فَقَالَ أَمَا أَنْ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ

مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَعْدِي نَبِيٌّ (رواہ احمد وابن ماجہ والترمذی)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ روایت فرماتے ہیں کہ جب (غزوہ تبوک کے موقع پر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکان پر چھوڑ دیں

اور جہاد میں نہ لے جائیں، تو حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ نے

مجھے چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے (کہ جہاد چھوڑ کر بیٹھ گئے) آپ نے فرمایا کیا تم اس

پر راضی نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ حضرت ہارونؑ کا موسیٰؑ کے ساتھ

ہے (یعنی جیسے موسیٰؑ کو وہ طور پر جانے کے وقت حضرت ہارونؑ کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے

اسی طرح تم میرے پیچھے رہو، مگر اتنا فرق ہے کہ حضرت ہارونؑ نبی تھے) اور میری نبوت

کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا (اس لئے تم بھی نبی نہیں ہو)۔

فاصلہ: اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ جیسی نبوت ہارونؑ کو ملی تھی

وہ بھی منقطع ہو چکی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہارونؑ کی نبوت شریعت مستقلہ کے ساتھ

نہیں تھی، بلکہ شریعت موسویہ کے اتباع اور احکام تورات کی تبلیغ کے لئے تھی، اس

سے ثابت ہوا کہ جس کو مرزا صاحب غیر شرعی نبوت کہہ کر باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی

اس حدیث کے حکم سے ختم اور منقطع ہو چکی ہے۔

حدیث نمبر ۳۱ | عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أَيْمَنَ سَلَمَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي التَّوْحِيدِ

وَنَزُولِ الْمِيزَانِ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ فَتَعَيَّرَ وَجْهَهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ خِلَافَةُ الشُّبُوحِ ثَلَاثُونَ عَامًا ثُمَّ يَكُونُ مُلْكُ

فَأَسْتَأْذِنُ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَنَسَاءَهُ ذَلِكَ فَقَالَ

خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (رواه الترمذی ابو داؤد)

ترجمہ ۱۔ حضرت اہم سلمہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ ایک طویل حدیث میں ایک خواب

اور اس میں آسمان سے ایک ترازو کا اترا نا ذکر کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ خواب سنکر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا اور پھر فرمایا کہ نبوت کی خلافت تیس

برس تک ہے گی، اور پھر ملک و سلطنت ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس پر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ کچھ دنوں خلافت نبوت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو

چاہے ملک دے (روایت کیا اس کے ترمذی اور ابو داؤد نے) ۲

نبوت بروز یہ اگر بالفرض نبوت ہو | اس حدیث میں بھی بوضاحت بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے

تو وہ بھی آپ کے بعد منقطع ہے | بعد صرف خلافت نبوت باقی رہے گی، نبوت بالکل نہیں رہے گی

اور اگر نبوت کی بھی کوئی قسم باقی رہتی تو لازم تھا کہ خلافت کے ذکر سے اس کے ذکر کو مقدم سمجھا جاتا۔

اس سے بھی بلا تکلف ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کی تو اس سجا و نبوت بروزی وظلی یا غیر

مستقل نبوت اگر واقع میں بھی نبوت کی قسمیں فرض کر لی جائیں تو وہ بھی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہ سکتیں۔

حدیث نمبر ۳۲ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ الشُّبُوحِ

إِلَّا الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ (رواه النسائي و ابو داؤد من الفتح ص ۲۳۱)

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ میرے بعد سوائے روایات صالحہ کے نبوت میں سے کوئی جزو باقی نہیں رہے گا۔

(روایت کیا اس کو نسائی اور ابو داؤد نے، کذا فی فتح الباری صفحہ ۲۳۱ ج ۱۲) ۳

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریحی یا غیر تشریحی یا بقول مرزا

صاحب ظلی یا بروزی وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہ سکتی۔

حدیث نمبر ۲۱ | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ أَيْنَ الْأُمَّةُ أُمِّيَّةٌ وَنَسَبُهَا  
فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ (رسد ۱۱ ابن ماجہ کذا فی الکتر ص ۶۳)

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم  
سب آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، پکارا جائے گا  
کہ کہاں ہے امتِ امیہ اور اس کے نبی؟ اس لئے ہم ایک حیثیت سے سب اول  
بھی ہیں اور سب آخری بھی (روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے، کذا فی الکتر،)۔"

حدیث نمبر ۲۲ | عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا تَكْمَلُ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أُمَّةً نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا (رسد ۱۱ الترمذی ابن ماجہ  
والدارمی کذا فی الکتر ص ۶۳) وقال هذا حديث حسن كذا  
في المشکوٰۃ ص ۵۸۳

ترجمہ ۱۔ "حضرت بہر بن حکیم اپنے باپ حکیم سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے  
ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ستر امتیں کامل  
ہوں گی۔ ہم ان سب سے آخراور سب سے بہتر ہوں گے (روایت کیا اس کو ترمذی ابن ماجہ  
اور دارمی نے اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے)۔"

حدیث نمبر ۲۳ | عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَنْدَةَ قَالَ السَّيِّئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنْتُمْ سَبْعُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ،  
رواه احمد في مسنده والترمذی وابن ماجه والحاکم في  
المستدرک، کتر، ص ۲۳۰ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت معاویہ بن جندہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ  
تم ستر امتیں پوری کرتے ہو جن میں سے تم سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محترم  
ہو (روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اور احمد نے مسند میں اور حاکم  
نے مستدرک میں کذا فی الکتر، ص ۲۳۰ ج ۶)۔"

حدیث نمبر ۲۴ | عَنْ حُدَيْفَةَ كَمَا نَبَّيْنَا مِنْ مَبَشَرَاتِ الشُّبُوحِ إِلَّا الرُّؤْيَا  
الْقَالِيَةَ (رواه النسائي، کتر، ص ۳۳۰ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت ہذیلہؓ فر فرغاروایت کرتے ہیں کہ نبوت میں سے اچھے خواب کے سوائے کوئی چیز دو باقی نہیں رہا ہے

حدیث نمبر ۳۵ | عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (رواه الترمذی فی شمائلہ، ص ۳)

ترجمہ ۱۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، (رواه الترمذی) ۲

## مسند امام احمد بن حنبل کی احادیث

یہ حدیث کی دستند اور معتبر کتاب ہے کہ جس کی شہرت تعریف سے بے نیاز ہے سات لاکھ پچاس احادیث کے ذخیرہ میں سے صرف تیس ہزار احادیث کا انتخاب کر کے امام احمد بن حنبلؒ نے یہ کتاب تیار کی ہے اور جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس میں کوئی حدیث حسن لغیرہ سے کم نہیں، اس لئے اس کی احادیث معتبر و مستند ہیں۔

حدیث نمبر ۳۶ | عَنْ عِدَا بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُكْتَبَدَلٌ فِي طَيْبَتِهِ (رواه فی شرح السنۃ واحمد فی مسند کذا فی مشکوٰۃ والکنز ص ۱۳ ج ۶) وفی لفظ لہذا الحدیث عند ابن سعد إلی فی أم الکتاب خاتم النبیین الحدیث کذا فی الکنز۔

ترجمہ ۱۔ حضرت عریاض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جبکہ آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، (کذا فی مشکوٰۃ) نیز یہ حدیث کنز العمال میں بھی بحوالہ ابن سعد روایت کی گئی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں ام الکتاب میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا (کذا فی الکنز صفحہ ۱۱۲ جلد ۶) ۲

حدیث نمبر ۲۷ | عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ يَقُولُ حَزَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَالْمُودِيعِ فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ الْأَوْتِيُّ ثَلَاثًا وَلَا تَبِيَّ بَعْدِي إِلَى قَوْلِهِ فَا سَمِعُوا وَأَطَاعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ فَإِنَا ذَهَبَ لِي فَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَلُّوا حَلَالَهُ وَحَرَمُوا حَرَامَهُ رَوَاهُ  
احمد فی مسندہ کذا فی تفسیر ابن کثیر ص ۸۶ ج ۱ ص ۳۷۹ طبع قدیم ۳ بغوی

ترجمہ ۱۔ حضرت عبید بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، (اور اس طرح تقریر کرنے لگے) جیسے کوئی رخصت ہونے والا کرتا ہے، پس تین مرتبہ مکرر منبر آیا کہ میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور (اسی حدیث کے آخر میں منبر آیا کہ) جب تک میں تمہارے اندر موجود ہوں اس وقت تک میرے احکام سنتے اور ان کا اتباع کرتے رہو، اور جب مجھے دنیا سے لے لیا جائے تو تم کتاب اللہ کو مضبوط پکڑو اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو (روایت کیا اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں) (اور ابن مردود نے، کذا فی الدر المنثور ج ۳) کذا فی ابن کثیر ص ۸۶ ج ۱

مطلب یہ ہے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں مفہوم قرآنی کی تعبیر و تفسیر خود حضور فرماتے ہیں اس کا اتباع ضروری ہے، اور آپ کے بعد جو کوئی نئی بات پیش آئے اس کو خود قرآن میں تلاش کر کے حکم معلوم کرو۔

اور حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر تکرار میں مسئلہ نہ ملے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کریں اس میں بھی نہ ملے تو مسلمانوں کے اجماع کو، پھر قیاس شرعی کو استعمال کریں۔

حدیث نمبر ۲۸ | عَنِ نَعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَ حَذِيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُونَ الشُّبُوحَ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُونَ مُلْكًا جَبْرِيَّةً تَكُونُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُونَ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ الشُّبُوحِ ثُمَّ سَكَتَ  
(رواہ احمد فی مسندہ والبیہقی کذا فی مشکوٰۃ)

ترجمہ ۱۔ حضرت نعمان بن بشیر اور حذیقہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ تمہاری امتد نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یعنی جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھائے گا، اس کے بعد قوت کے زور پر بادشاہت ہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا پھر خلافت طریقہ نبوت پر ہوگی، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ (امام احمد نے مسند میں اور بیہقی نے روایت کیا ہے (المشکوٰۃ) اس حدیث میں سب سے آخر میں جس خلافت کا ذکر ہے اس سے وہ خلافت مراد ہے جو قریب قیامت حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ہوگی۔

فائدہ ۱۰۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں رہے گی، بلکہ صرف ملک و جیروت یا خلافت باقی ہے گی جس سے مرزا صاحب کی تعریف کردہ نبوت کے اقسام ظلیہ، برزخیہ وغیرہ کا بھی قلع قمع ہو جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۳۹ | عَنْ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ حَدِيثِ الثَّعْنَانِيِّ الْمَدَنِيِّ مَرْوُوعًا

(رواہ احمد فی مسندہ والبیہقی کذا فی المشکوٰۃ)

ترجمہ ۱۰۔ حضرت یزید بن ابی حبیب سے اسی مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جو حضرت نعمان بن ابی شیبہ کی روایت سے اس سے پہلی روایت میں بیان ہوئے (روایت کیا اس کو احمد نے)۔

حدیث نمبر ۴۰ | عَنْ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ذَهَبَتِ النَّبُوءُ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشَّرَاتُ، قِيلَ مَا

الْمُبَشَّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ

أَوْ تُرْمَى لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْخَطِيبُ كَذَا فِي الْكَنَزِ

ترجمہ ۱۰۔ حضرت یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت چلی گئی میرے بعد نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں باقی رہا عرض کیا گیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ اچھے خواب جو انسان خود دیکھتا ہے یا اس کے واسطے کوئی اور دیکھے (اس کو احمد نے مسند میں اور خطیب نے کنز میں روایت کیا ہے (کنز الکنز) اس روایت کی مفصل تحقیق گزر چکی ہے۔

حدیث نمبر ۴۱ | عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ أَنْتَ مَعِي بِسُزْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُؤَسَى إِلَّا أَنَّ

لَا نَبِيَّ بَعْدِي (رواہ احمد و ابویکسر لمطیری فی جزئہ ۱۵۳ ج ۶ کنز فی اللغہ ترجمہ ۱۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اللہ وجہ سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارونؑ مگر راتنا فرق ہے کہ ہارون نبی ہیں تم نہیں کیونکہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور خطیب مطیری نے جز میں روایت کیا ہے) (ازکثر ص ۱۶۷، ۱۵۳) اس روایت کی توضیح میں پہلے گزر چکی ہے۔

حدیث نمبر ۵۲ | عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا اخْتَرْتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي وَ أَنْتَ مَعِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (رواہ احمد و ابن عساکر من الکنز)

ترجمہ ۱۔ حضرت زید بن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے علی! تم ہی اس ذات قدوس کی جس نے مجھے دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے تمہیں اپنے ہی لئے پسند کیا ہے، اور تم مجھ سے ایسے ہو جیسے موسیٰ سے ہارونؑ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ (اس کو امام احمد نے مسند میں اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے) (ازکثر) ؟

حدیث نمبر ۵۳ | عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ قِيَا تُكُونُ عَلِيٌّ يَقُولُونَ اشْفَعْنَا لَنَا إِلَى رَبِّنَا نَقْضِي بَيْنَنَا نَقُولُ إِنِّي كُنْتُ هُنَا كَمَا إِنِّي أَخَذْتُ وَأَتَى الْهَمِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَكِنْ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مَتَاعًا فِي وَعَاؤِ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ أَكَانَ يُؤْمَلُ أَمْ مَا فِي الْوِعَاءِ حَتَّى يُفْضَ الْخَاتَمُ يَقُولُونَ لَا يَقُولُ فَإِنَّ مُحْتَدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَا يُبْنِي النَّاسُ يَقُولُونَ اشْفَعْنَا لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَنَا فَأَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا إِلَى أَنْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَخَّرَ الْآخِرُونَ وَالْأَوَّلُونَ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسِبُ وَتَمَرَجَ لَنَا الْأُمَّةُ عَلَى طَرِيقَتِنَا

وَتَقُولُ الْأُمَّةُ كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَسِيَاءَ مِمَّا كَانَتْ  
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ۳۵۴ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ  
 فِي الْغَاظِ نَقِيضًا (یعنی عیسیٰ) اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 خَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَدْ حَصَرَ النَّبُوْمَ۔

ترجمہ :- حضرت ابن عباسؓ سے قیامت اور شفاعت کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں جس کے آخر میں ہے کہ تمام لوگ حضرت عیسیٰؑ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے روح اللہ آپ ہی ہماری شفاعت فرمائیں کہ ہمارا حساب ہو جائے وہ فرمائیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں میری اور میری والدہ کی پرستش کی گئی ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اگر کسی برتن کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو کیا اس برتن کی چیز کو اس وقت تک لے سکتے ہیں جب تک کہ اس کی مہر نہ توڑی جائے؟ لوگ کہیں گے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر عیسیٰؑ فرمائیں گے کہ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم (جو انبیاء کے خاتمہ پر مبتزلہ مہر کے ہیں) آج موجود ہیں اور ان کی انگلی اور کھلی لغزشیں سب معاف کر دی گئی ہیں (تم ان کے پاس جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ یسین کر میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا محمد آپ ہی ہماری شفاعت فرمائیے تاکہ ہمارا حساب ہو جائے۔ میں کہوں گا کہ ہاں یہ کام میں ہی کروں گا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب آخروں اور سب پہلے، اور وہ امت جس کا حساب سب سے پہلے ہو گا اور تمام امتیں ہمارے لئے تعظیماً راستہ چھوڑ دیں گی، اور سب امتیں کہیں گی کہ یہ امت تو قریب ہے کہ سب ہی انبیاء میں شمار ہوں (الیٰ آخر الحدیث) :-

اس طویل حدیث کو ابوداؤد الطیالسی نے اپنی مسند صفحہ ۳۵۴ میں روایت کیا ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابویعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آج یہاں موجود ہیں الخ۔

حدیث نمبر ۵۴ | عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيعًا إِنَّ كَادَتْ لِتَسْبِقَنِي (اخرجہ ابن جریر)

بحوالہ مسند احمد، کذا فی تفسیر ابن کثیر ص ۱۵۶ ج ۶ طبع قدیم ۳۳ بیروت  
ترجمہ ۱۔ " حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور قیامت  
دونوں ساتھ بھیجے گئے ہیں وہ تو قریب تھی کہ مجھ سے بھی آگے جائے :

اس حدیث میں مبالغہ کے ساتھ قرب قیامت کو بیان فرمایا گیا ہے، اور حدیث  
نمبر ۱ کے تحت آپ نے معلوم کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے  
ساتھ ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔  
حدیث نمبر ۵ | عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ مَرْفُوعًا لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلَّا الْمُبَشَّرَاتُ الرَّؤْيَا  
الصَّالِحَةُ (اخرجه سعيد بن منصور واحمد في مسندهما وابن مردويه

من الكنز، ص ۳۳۳ ج ۸)

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابو الطفیلؓ فرمادی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ میرے  
بعد نبوت باقی نہیں رہے گی مگر مبشرات، یعنی اچھے خواب باقی رہیں گے (روایت کیا

اس کو سعید بن منصور اور امام احمد بن حنبل اور ابن مردویہ نے (کنز العمال ص ۳۳ ج ۸) :  
حدیث نمبر ۵ | عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَأَنْبِيَاءَ بَعْدِي مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا الْمُبَشَّرَاتُ  
الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ (اخرجه احمد والخطيب، من الكنز ص ۳۳ ج ۸)

ترجمہ ۱۔ " حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد  
نبوت میں سے کوئی جزو سوائے مبشرات یعنی اچھے خوابوں کے باقی نہیں رہے گا (روایت  
کیا اس کو امام احمد بن حنبلؓ اور خطیب نے (کنز العمال ص ۳۳ ج ۸) :

## باقی مستند کتب کی احادیث

اس حصہ میں وہ احادیث ہدیہ ناظرین کی جائیں گی جو معتبر ائمہ حدیث نے  
اپنی مستند کتابوں میں درج فرمائی ہیں، مگر محدثین نے ان کے متعلق خاص طور پر  
کوئی حکم تجویز نہیں کیا۔

حدیث نمبر ۵ | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا

نَحْرًا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَقِّعٍ وَلَا نَحْرَ - (رواہ الدارمی وابن  
عساکر کذا فی المشکوٰۃ والکنز ص ۱۰۹ ج ۶)۔

ترجمہ ۱۔ " حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
فرمایا ہے کہ میں تمام رسولوں کا پیشوا ہوں اور کوئی فخر نہیں اور میں خاتم النبیینؐ ہوں  
اور کوئی فخر نہیں، اور میں قیامت کے روز پہلا شفاعت کرنے والا اور دعوت قبول  
الشفاعت ہوں اور کوئی فخر نہیں، روایت کیا اس کو دارمی نے اور ابن عساکر  
نے (کذا فی المشکوٰۃ والکنز، ص ۱۰۹ ج ۶) ؟

اور خصائص کبریٰ صفحہ ۲۲۴ جلد ۲ میں اسی حدیث کو تاریخ بخاری اور معجم اوسط  
لبرانی اور سیبوی اور ابو نعیم کے حوالہ سے بھی نقل کیا ہے۔

حدیث نمبر ۵۸ عَنْ تَيْمِيزِ الدَّارِمِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي سَوَالِ الْقَبْرِ  
فَيَقُولُ (أَيُّ الْمَيِّتِ) أَلَا سَلَامٌ دِينِي وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَهُوَ خَاتَمُ  
النَّبِيِّينَ يَتَوَلَّوْنَ لَهُ صَدَقَاتُ الدُّنْيَا وَالْبُوعِلَى كَذَا  
فِي الدَّرِّ الْمَشْهُورِ لِلْسَيُوطِيِّ ص ۱۲۵ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ " حضرت تميم دارمیؓ ایک طویل حدیث کے ذیل میں سوال قبر کے بارے میں روایت  
فرماتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (منکر و نیکر کے جواب میں) مسلمان  
کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور وہ خاتم  
النبیین ہیں، منکر و نیکر یہ منکر کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ روایت کیا اس کو ابن ابی اللیثی  
اور ابو یعلیٰ نے (منقول از درمنثور، صفحہ ۱۶۵ جلد ۶) ؟

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسئلہ ختم نبوت ایمان کا اس قدر اہم جزو ہے  
کہ قبر کے متعلق سوال و جواب میں بھی اس کی شہادت دی جاتی ہے۔

حدیث نمبر ۵۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ أَخْبَرَهُ بِبَيْنِيهِ فَجَعَلَ يَرَى فَمَسَائِلَ  
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَرَأَى نُورًا سَاطِعًا فِي آسْفَلِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ  
مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ أَحْمَدُ هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَهُوَ شَافِعٌ  
وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ (رواہ ابن عساکر کذا فی الکنز)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو اپنی اولاد پر مطلع فرمایا، آدم ان میں دیکھ رہے تھے کہ بعض بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، پس ان سبکے نیچے کی جانب میں ایک نور دیکھا، تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ آپ کے بیٹے احمد ہیں، وہی سبکے پہلے نبی ہیں اور وہی سبکے آخری ہیں، اور قیامت کے دن سبکے پہلے شفاعت کرنے والے اور مقبول الشفاعت ہوں گے (روایت کیا اس کو ابن عساکر نے) (از کتر)

حدیث نمبر ۶۰ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ آدَمَ بِالْمَنْدِ وَأَسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى بِأَذْنِ اللَّهِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا أَرْسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ آدَمُ لِجِبْرِيلَ مَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخِي وَوَلَدِيكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ رَمَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ كَذَا فِي الْكَلْبِ

ترجمہ ۱۔ حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمؑ ہنڈسٹا میں نازل ہوئے (مگر تنہائی کی وجہ سے) ان کو وحشت ہوئی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ، اشہدان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ، اشہدان محمد رسول اللہ دو مرتبہ۔ آدم نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ محمد کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ انبیاء میں سے آپ کے سبکے آخری بیٹے ہیں (روایت کیا اس کو ابن عساکر نے) (کترالعمال، ص ۱۱۱ جلد ۱۶)؛

اور خصائص کبریٰ جلد ۱ میں اسی حدیث کو بحوالہ علیہ ابو نعیم بھی نقل کیا ہے۔

حدیث نمبر ۶۱ | عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ فَاغْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ أُمُورِكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّكُمْ (كذا في منتخب الكنتز على هامش مسند احمد

ترجمہ ۱۔ حضرت ابوامامہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوارح کے خلیبہ میں فرمایا اے لوگو! نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت خسر داد! اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور پانچ نمازیں پڑھتے رہو اور رمضان کے روزے رکھتے رہو، اور اپنے اسوا ل کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو اور اپنے خلفاء اور حکام کی اطاعت کرتے رہو تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے (مختب کتر علی حاشیہ مسند امام احمد، ص ۳۹۱ ج ۲) ۴

فائدہ ۱۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہو سکتا، نہ تشریحی نہ غیر تشریحی، اور مرزا صاحب کا ایجا دکردہ بروزی ظلی، لغوی جزئی وغیرہ۔ کیونکہ اگر کسی قسم کا کوئی نبی بعد میں آنے والا ہوتا تو ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت امت کے لئے اولی الامر کی اطاعت سے زیادہ ضروری قرار دے کر اس کی تاکید کو مقدم فرماتے، حالانکہ حدیث میں صرف اولی الامر کی اطاعت کے حکم پر بس کیا گیا ہے۔

حدیث نمبر ۶۳ | عَنْ نَعِيمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يُزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ (رواه الطبرانی)

ترجمہ ۱۔ حضرت نعیم بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تین دجال نہ پیدا ہوں، جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہو کہ میں نبی ہوں (طبرانی) ۴

حدیث نمبر ۶۳ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يُزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ابی شیبہ)

” حضرت عبد اللہ بن عمروؓ لیسٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تین کذاب نہ پیدا ہو چکیں، جن میں سے ہر ایک یہ کہتا ہو کہ میں نبی ہوں (روایت فرمایا اس ابن ابی شیبہ نے) ۴

حدیث نمبر ۶۳ | عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي أُمَّرِئِمْسِيئِمَةِ الْكُذَّابِ

تَبْلُ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَحْرَمُونَ قَبْلَ الدَّجَالِ (رواه الطحاوی فی مسند الامم ص ۱۰۴) ترجمہ ۱۔ " حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا تھا اس وقت تک لوگوں میں چھ بیگونیاں ہو رہی تھیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا اور بعد حمد وصلوٰۃ کے ارشاد فرمایا کہ شخص جس کے بارے میں تم رائے زنی کر رہے ہو وہ تین کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال اکبر سے پہلے نکلیں گے (دیکھو شکل اکثر اطحاوی ص ۱۰۴ ج ۱) ۴

حدیث نمبر ۶۵ | عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُوْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَ أُمَّتِي (رواه البيهقي في كتاب التذوييا)۔

ترجمہ ۱۔ " حضرت فحاک بن نوفلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی (طبرانی اور بیہقی نے روایت فرمایا ہے) ۵

حدیث نمبر ۶۶ | عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قَرَّبَنِي رَبِّي اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَقَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى قَالَ يَا حَبِيبِي يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَيْتِكَ يَا رَبِّ قَالَ هَلْ غَمَّتْ إِنْ جَعَلْتِكَ آخِرَ النَّبِيِّينَ قُلْتُ لَا يَا رَبِّ قَالَ يَا حَبِيبِي هَلْ غَمَّتْ أُمَّتِكَ إِنْ جَعَلْتَهُمْ آخِرَ الْأُمَمِ قُلْتُ يَا رَبِّ لَا قَالَ أَبْلَغَ عَنِّي السَّلَامَ وَآخِرُهُمْ إِيَّيْ جَعَلْتَهُمْ آخِرَ الْأُمَمِ (رواه الخطيب والذيلي) (كذا في الكناز ص ۱۱۷ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ " حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبِ امری میں جب مجھے آسمان پر لے گئے تو مجھے میرے رب اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب فرمایا کہ قاب قوسین (دو کمانوں کی مقدار) کا فاصلہ درمیان میں رہ گیا یا اس سے بھی کم ہو

اور آواز دی اے میرے محبوب اے محمد! میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں، اے میرے پروردگار۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا تمہیں یہ ناگوار ہے کہ میں نے تمہیں آخر التبعین کو یا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا تمہیں یہ ناگوار ہے کہ ہم نے تمہاری امت کو آخر الام بنا دیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں اے میرے رب، ایسا نہیں، پھر فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ میں نے تمہیں

آخر الام کر دیا (روایت کیا اس کو خطیب اور دلمی نے) (کنزانی الکتب ۱۱۳ ج ۲) ۵  
**حدیث نمبر ۶۷** | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِعِنَ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ  
 آلِهِ قَالَ كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ (رواه  
 ابن ابی حاتم و ابن مردويه و ابونعیم فی الدلائل ص ۱۸۱ و الدلمی  
 و ابن عساکر و ابن ابی شیبہ و ابن جریر و ابن سعد و کذا فی  
 تفسیر ابن کثیر) ص ۸۹ ج ۸ طبع قدیم مع بغوی و الدر المنثور ۱۱۵  
 کنز العمال ۱۱۳ ج ۶

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ  
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں باعتبار  
 اصل خلقت کے سب سے پہلا نبی ہوں اور باعتبار بعثت کے سب سے آخری (روایت  
 کیا اس کو ابن ابی حاتم نے، ابن مردویہ اور ابونعیم نے دلائل النبوة ملا میں نیز ابن عساکر  
 و ابن شیبہ اور ابن جریر و ابن سعد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے) دیکھو تفسیر ابن کثیر  
 صفحہ ۸۹ جلد ۸، اور درمنثور ۱۱۵ جلد ۸، اور کنز العمال ۱۱۳ ج ۶ ۵

**حدیث نمبر ۶۸** | عَنْ قَتَادَةَ وَكَانَتْ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ  
 (رواه ابن سعد مرسلًا و کذا فی الکتب ۱۱۳ ج ۶ و رواه ابن ابی شیبہ مسندًا  
 عنه، کذا فی الدس ۱۸۳ ج ۵)

ترجمہ ۱۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں باعتبار  
 اصل خلقت کے سب انسانوں سے پہلا ہوں اور باعتبار بعثت کے سب انبیاء سے  
 آخری (روایت کیا اس کو ابن سعد نے مرسلًا اور ابن ابی شیبہ نے مسندًا) دیکھو درمنثور ۱۱۵ ج ۶

حدیث نمبر ۶۹ | عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَحَقُّكَ بِالنُّبُوءَةِ وَلَا نُبُوءَةَ بَعْدِي وَتُحَقِّقُهُ بِسَبْعٍ لَا يَحَاجُّكَ فِيهَا أَحَدٌ أَنْتَ أَوْ لَهْمُ إِيْمَانًا (رواه ابو نعیم فی الحلیۃ، کذا فی الکفرۃ ص ۶۶) ترجمہ ۱۔ " حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی! میں نبوت میں تمہارے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہوں، مگر میرے بعد نبوت نہیں ہو سکتی، اور تم سب چیزوں میں مقابلہ کئے جاؤ گے جن میں کوئی تم سے بڑھ نہ سکے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو، روایت کیا اس کو ابو نعیم نے علیہ (من کنز العمال، صفحہ ۵۶، ج ۶) "۔

حدیث نمبر ۷۰ | وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوءَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ لِأَنبِيِّ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ وَلَا لَكِنْ بَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ قَالَُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ رُؤْيَا الْمُشَاهِدِينَ جُزْءًا مِنَ أَجْزَاءِ النُّبُوءَةِ أَخْرَجَهُ ابُو بَعْلَى (من النفع ص ۳۳ ج ۱۲) ترجمہ ۲۔ " حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی اور میرے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ رسول، لیکن مبشرات باقی رہ گئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خواب جو کہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہیں (روایت کیا اس کو ابو بعلی نے) دیکھو فتح الباری، صفحہ ۲۳۲ جلد ۱۲) "۔

فائدہ ۱۔ اس حدیث کی مفصل تحقیق تو پہلے گزر چکی ہے، اور جو مطلب اس جگہ عرض کیا گیا ہے اُس کے متعلق یہ حدیث بہت صاف دلیل ہے، اس میں خود تصریح ہے کہ نبوت موجود نہیں بلکہ اس کا ایک جز موجود ہے۔

حدیث نمبر ۷۱ | عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالِ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَجْرَةِ فَكَلَّمَ إِلَيْهِ يَا عَمُّ يَا عَمُّ مَا تَكُنَّ أَنْتَ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَذَّ حَنَمَ بِكَ الْهَجْرَةَ كَمَا حَتَمَ فِي النَّبِيِّينَ (رواه الطبرانی وابو نعیم وابو بعلی وابن عساکر وابن النجار) من الکتاب " حضرت سہل بن سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ اے عمو! اپنی جگہ

ٹھہرے رہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ہجرت ختم کر دی جس طرح کہ مجھ پر انبیاء ختم کر دیئے گئے (روایت کیا اس کو طبرانی، ابونعیم، ابویعلیٰ، ابن عساکر اور ابن نجاشی نے کثرتاً) فتح مکہ کے بعد چونکہ مکہ خود دار الاسلام ہو گیا تھا اس لئے وہاں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی۔

حدیث نمبر ۷۲ | عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقْتُكَ أَنْ تَكُونَ خَلِيفَتِي قُلْتُ أَتَخَلِّقُ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّ تَكُونُ مِنِّي بِسُؤْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَمُنُّ بَعْدِي (رواه الطبرانی فی الاوسط)

ترجمہ ۱۔ "حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لئے تمہیں پیچھے چھوڑا ہے کہ تم مکان پر میرے قائم مقام رہو، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا میں آپ سے طلحہ و زہر ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم مجھ سے ایسے ہو جیسے موسیٰ سے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا (اس لئے تم ہارون کی طرح نبی نہیں) (روایت کیا طبرانی نے معجم اوسط میں) "

حدیث نمبر ۷۳ | وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مَرْثَدَةَ عِنْدَ الْخَطِيبِ (كَذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ ج ۶) "حضرت عمرؓ نے بھی بعینہ اسی مضمون کی حدیث روایت فرمائی جس کو خطیب نے نقل فرمایا ہے (دیکھو کتر العمال، صفحہ ۱۵۲، جلد ۱) "

حدیث نمبر ۷۴ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ (كَذَلِكَ فِي الْكَلْبَرِ ج ۶) ترجمہ ۱۔ "حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی بعینہ اسی مضمون مروا ہے جس کو طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے (دیکھو کتر، صفحہ ۱۵۲، جلد ۱) "

حدیث نمبر ۷۵ | عَنْ حَبِشَةَ بِنْتِ جَنَادَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِسُؤْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَمُنُّ بَعْدِي (رواه ابونعیم، کذا فی الکتر)

ترجمہ ۱۔ "اسی مضمون کی حدیث حضرت حبشہ بنت جنادہ نے بھی بیان فرمائی ہے جس کو ابونعیم نے روایت کیا ہے (کذا فی الکتر) "

حدیث نمبر ۷۶ | عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُنِي  
(رواہ الطبرانی)

ترجمہ ۱۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
اے علیؑ! تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارونؑ موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی  
نبی نہیں ہو سکتا (طبرانی)

حدیث نمبر ۷۷ | عَنْ مَا لِيْقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ  
كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رواہ الخلیب)

ترجمہ ۱۔ حضرت مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد

کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے (روایت کیا اس کو خطیب نے)۔

اس حدیث کی تحقیق گندھکی ہے اور مطلب ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ میں اگرچہ  
کمالات نبوت سے حصہ دار نہ موجود ہے، مگر چونکہ آپ کے بعد دروازہ نبوت  
بند ہے، اس لئے عہدہ نبوت ان کو نہیں دیا گیا۔

حدیث نمبر ۷۸ | عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَا خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي خَاتِمُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاءِ (رواہ

الدیلی وابن النجار والبخاری) (من الکفر)

ترجمہ ۱۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں

خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد انبیاء کی خاتم ہے (روایت کیا اس

کو دیلی، بخاری، ابن ماجہ، (ازکنز العمال)۔

حدیث کا مطلب صاف ہے کہ میرے بعد نہ کوئی اور نبی پیدا ہوگا اور نہ کوئی اور

مسجد نبی کی تیار ہوگی۔

حدیث نمبر ۷۹ | عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُرَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنَا رَسُولُ مَنْ أَدْرِكُ حَيَاتًا وَمَنْ يُولَدُ بَعْدِي (رواہ ابن

سعد) (من الکفر، ص ۱۰۱، ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت حسن مرسلہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

اس شخص کا بھی رسول ہوں جس کو میں زندگی میں پاؤں اور اس شخص کا بھی جو میرے

بعد پیدا ہوگا۔ (روایت کیا اس کو ابن سعد نے، دیکھو کتر العمال ص ۶۱) اور  
خصائص کبریٰ، صفحہ ۱۸۸ جلد ۱ :-

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا اس کے نبی صرف  
آپ ہی ہیں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر ۸۷ | عَنْ أَبِي قُبَيْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَأَنْبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدِي كَمَا عَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِيمُوا خِسْمَكُمْ  
وَصَوْمُوا شَهْرَكُمْ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ أَمْرِكُمْ تَذْخُلُوا اجْتَنَّةَ رَبِّكُمْ  
(رواه الطبرانی والبخاری، (من الكنز)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو قبیلہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد  
کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ پس تم اپنے پروردگار کی  
عبادت کرتے رہو اور پانچوں نمازیں (ٹھیک وقت پر موافق شرط) پڑھتے رہو،  
اور ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہو اور اپنے مسلمان حکام کی اطاعت کرتے رہو تو  
تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے (روایت کیا اس کے طبرانی اور بخاری نے) (کتر العمال)

حدیث نمبر ۸۱ | عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا كَانَتْ فِي أُمَّتِهِ مَنْ يُحَدِّثُ فَإِنْ  
يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَبِعَوْعَمَرُ (رواه ابن عساکر، (من الكنز)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ  
مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، جس کی امت میں کوئی محدث نہ ہو، اگر ان میں سے  
کوئی میری امت میں بھی ہے تو وہ عمر میں (روایت کیا اس کو ابن عساکر نے) اور  
کتر :- اور خصائص کبریٰ ص ۱۲۹ ج ۲ میں اسی حدیث کو بحوالہ طبرانی نقل کیا ہے۔

پہلے گذر چکا ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے لئے آپ نے صاف محدث کا درجہ بیان  
فرمایا ہے، حالانکہ دوسری احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اس امت میں کوئی نبی  
ہوتا تو وہ عمرؓ ہی ہوسکتے تھے، تو جب بااثر ہمہ حضرت عمرؓ کے لئے درجہ نبوت حاصل  
نہیں ہے، تو صاف ثابت ہوا کہ آپ کے بعد کسی کے لئے یہ درجہ ملنے والا نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۸۲ | عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي مَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا عَقِيلُ وَاللَّهِ لَأَدْرِيكَ لِحَمَلَتَيْنِ لِقَمَا ابْتِكَ وَلِحُبِّ أَبِي طَالِبٍ  
 أَيَّاكَ وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَنَخْلُكَ يُشْبِهُ خَلْقِي وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ  
 فَأَنْتَ مَتِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (رواہ ابن عساکر)

ترجمہ ۱۔ " حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
 کہ اے علی! تم مجھ سے اُس درجہ میں ہو جس میں موسیٰ سے ہارون تھے، مگر میرے  
 بعد کوئی نبی نہیں ہوگا (ابن عساکر، از کتر اعمال)؛

حدیث نمبر ۸۲ | عَنْ أَبِي الْفَضْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنِّي عِنْدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَشْرَةٌ أَسْمَاءُ مُحَمَّدٌ، أَحْمَدُ وَأَبُو الْقَاسِمِ  
 وَالْقَاسِمُ وَالْخَاتِمُ وَالْمَاتِحِيُّ وَالْعَاقِبُ وَالْحَاشِيَةُ وَطَهٌ.

(رواہ ابن عساکر و ابن عدی فی الکامل) (من الکنز ص ۱۱۶ ج ۶)۔

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابو الفضل روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے  
 کہ میرے پروردگار کے نزدیک میرے دس نام ہیں۔ محمد، احمد، ابو القاسم،  
 فاتح، خاتم، ماتحی، عاقب، حاشیہ، طہ (بروایت ابن عساکر  
 ابن عدی، از کتر، صفحہ ۱۱۶، جلد ۱)؛

حدیث نمبر ۸۳ | عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنِّي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةٌ أَسْمَاءُ مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْحَاشِيَةُ الَّذِي  
 أُخْتِيسُ النَّاسَ عَلَى قَدِّ قَمِيٍّ (من الکنز ص ۱۱۶ ج ۶ بروایة طبرانی)

ترجمہ ۱۔ " حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں،  
 اور احمد، اور حاشیہ کہ میرے زمانہ میں لوگوں کا حشر ہوگا (طبرانی از کتر، صفحہ ۱۱۶ ج ۶)؛  
 پہلے لکڑ چکا ہے کہ اس حدیث کا حامل آپ کا آخر النبیین ہونا ہے۔

حدیث نمبر ۸۵ | عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنِّي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةٌ أَسْمَاءُ مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْحَاشِيَةُ وَالْمُقْتَلِيُّ وَالْخَاتِمُ (رواہ سعید بن منصور فی سننہ من الکنز ص ۱۱۶ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ " حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث سعید بن منصور نے اپنے سنن میں روایت  
 فرمائی ہے (دیکھو کتر اعمال صفحہ ۱۱۶ جلد ۱) اور خصائص میں جو الہ ترمذی وغیر وہ ہے؛

حدیث نمبر ۸۶ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَالْحَاشِيَةُ وَالْمُقْتَلِيُّ وَالْخَاتِمُ (رواہ الخطیب  
 و ابن عساکر، من الکنز ص ۱۱۶ ج ۶)

ترجمہ۔ حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں احمد ہوں اور محمد ہوں اور حاشر ہوں اور یسعی اور خاتم (روایت کیا اس کو خطیب اور ابن عساکر نے) (کنز العمال، صفحہ ۱۱۶ جلد ۱)۔

ان سب احادیث میں جو اسماء گرامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان میں کئی ایسے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل گذر چکا ہے۔

حدیث نمبر ۸۷ | عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَدَأَ هَذَا الْأَمْرَ نُبُوءًا وَرَحْمَةً وَكَأَيُّهَا خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَأَيُّهَا مُلْكًا عَضُومًا وَكَأَيُّهَا عُتُوًّا وَجَبْرِيَّةٌ وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ (رواه الطبرانی في الكبير، كذا في الكتبخانة، ص ۲۹ ج ۶)

ترجمہ۔ حضرت ابومالک اشعریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو نبوت اور رحمت بنا کر شروع کیا اور پھر (کچھ دنوں کے بعد) خلافت اور رحمت ہونے والی ہے، اور پھر (کچھ دنوں کے بعد) ملک عضوم (یعنی مفرسلطنت) ہونے والی ہے اور پھر کبیر اور جبر اور امت میں فساد ہونے والا ہے۔ (روایت کیا اس کو طبرانی نے معجم کبیر میں) (دیکھو کنز العمال ص ۲۹ ج ۶)۔

حدیث نمبر ۸۸ | عَنْ مُعَاذِ بْنِ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ (رواه ابوداؤد الطيالسی والبیہقی فی السنن) (من الکتبخانة، ص ۲۹ ج ۶)

ترجمہ۔ حضرت معاذ بن مرفوعؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث ابوداؤد طيالسی نے اور بیہقی نے سنن میں روایت کی ہے (کنز العمال، صفحہ ۲۹، جلد ۱)۔

حدیث نمبر ۸۹ | عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَدْرَسِي لَه (رواه البيهقي في الشعب) (من الکتبخانة، ص ۳۳ ج ۸)

ترجمہ۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد مبشرات میں سوائے اچھے خوابوں کے کچھ باقی نہیں رہا (یعنی سلسلہ وحی منقطع ہو گیا) ادواب مبشرات میں سے مراد خواب کی صورت نہ گئی)۔

حدیث نمبر ۹۰ | عَنْ عَصْمَةَ بِنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ

كَانَ بَدَلِي نَبِيًّا لَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رواه الطبرانی، من الکبیر ص ۳۳۳)

ترجمہ:۔ حضرت عاصم بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے (روایت کیا اس حدیث کو طبرانی

نے) (از کتر العمال صفحہ ۱۳۶ ج ۱۶) ۵

اور پہلے احادیث میں گزر چکا ہے کہ حضرت عمرؓ نبی نہیں ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ آپ

کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

حدیث نمبر ۹۱ | عَنْ مَعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْفِتَنِ تَنَاسَخَتِ الشُّبُوهُ نَصَارَتْ مُلْكًا عَضُوضًا

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَخَذَهَا بِالْحَقِّ خَرُوجٌ مِنْهَا كَمَا دَخَلَهَا (رواه الطبرانی

فی الکبیر، (کنزانی الکبیر، ص ۶۳۹ ج ۶)

ترجمہ:۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کو بیان کرتے ہوئے

ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی اور اب ملک عضو ضا

اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو اس ملک کو حق کے موافق لے، اور اس سے اسی طرح

پاک و صاف نکل جائے جس طرح داخل ہوا تھا (روایت کیا اس کو طبرانی نے

معجم کبیر میں) (کتر صفحہ ۳۹ جلد ۱) ۵

حدیث نمبر ۹۲ | عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى الْكَلْبَةِ نَحْنُ نَكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سَبْعِينَ أُمَّةً نَحْنُ أَحْسَرُهَا وَخَيْرُهَا رِوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (الآية) (کنزانی الدس، ص ۶۳ ج ۶)

ترجمہ:۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ایک روز کعبہ سے کمر مبارک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اس وقت فرمایا کہ ہم سترائیں

پوری کریں گے جن میں ہم سب سے آخر اور سب سے بہتر ہوں گے، اس کو ابن جریر نے

آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے (دیکھو درجہ منثور، صفحہ ۶۳ جلد ۶) ۵

حدیث نمبر ۹۳ | عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ

أُمَّةٌ نَحْنُ أَخْرُهَا وَخَيْرُهَا رَوَاهُ الْمَادِرِيُّ، كَذَا فِي الْكَلْتَرَمَاتِ (۶ ج ۳۳۷)  
ترجمہ ۱۔ حضرت محمد بن حزمؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ستر امتیں پوری ہو جائیں گی جن میں ہم سب سے آخر اور سب سے بہتر ہوں گے، روایت کیا اس کو ماوردی نے۔ (ازکتر، ص ۲۳۲ ج ۶) ۵

حدیث نمبر ۹۱۲ | عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْبِيِّ مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِي كَعَدِيْقَةٍ قَامَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَآخَذَهَا رَدَاكِيهَا وَهَيَّا مَسَاكِنَهَا وَحَلَقَ سَعْفَهَا فَطَعَمَ عَامًا فَوْجًا وَعَامًا فَوْجًا فَلَقَعَ لِأَخْرِهَا طَعْمًا أَنْ يَكُونُ أَجُودَ هُمَا قِتْوَانًا وَأَطْوَلُ لَعْمًا شَمْرًا حَا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لِيَجِدَنَّ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي خُلَفَاءَ مِنْ حَوَارِيهِ رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ (كَذَا فِي الْكَلْتَرَمَاتِ ۲۵ جلد ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت عبدالرحمن بن سمروہؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ والا اپنے باغ کا پورا حتی ادا کرے اور اس کی گولیں گہری اور اس کی ٹھیکیں درست اور اس کے درختوں کی شاخ بریکے پھر ایک سال اس کے پھل ایک فوج کو کھلائے اور دوسرے سال دوسری فوج کو (اسی طرح ہر سال ایک فوج کو کھلاتا ہے) تو شاید وہ فوج جو آخر میں کھائے گی، اُس کے پھل عود ہوں گے، اور اُن کے خوشے لائے ہوں گے۔ اُس ذات قدوس کی قسم جس نے دین حق کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ عیسیٰ (جب نزل نہرائیں گے تو میری امت میں اپنے حواریں کے قائم مقام لوگ پائیں گے) روایت کیا اس کو ابو نعیم نے، (ازکتر العمال صفحہ ۲۲۵ ج ۶) ۵

حدیث نمبر ۹۱۵ | عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْسَلًا إِنَّمَا بُعِثْتُ حَاتِمًا وَفَاتِحًا وَأُعْطِيتُ جَوَامِيسَ الْكَلِمَةِ وَفَوَاتِيحَهُ رَسَاوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ (كَذَا فِي الْكَلْتَرَمَاتِ ۱۱ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابوقتادہؒ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہرایا ہے میں فاتح اور حاتم بنا کر بھیجا گیا ہوں (یعنی اصل خلقت میں سب سے پہلے اور بعثت نبوت میں سب سے آخر) اور

مجھے جو اس علم اور فوٹاج علم دیئے گئے ہیں۔ روایت کیا اس کو بیہتی نے شعب اللیمان  
میں (از کتر العمال، صفحہ ۱۰۶ جلد ۶) =

حدیث نمبر ۹۶ | عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ مَرْثُومًا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدْرَكَ بِي فِي الْأَجَلِ  
الْمَرْجُوعِ وَاخْتَارَنِي اخْتِيَارًا فَتَخَنُّ الْأَخِرُونَ وَتَخَنُّ السَّابِقُونَ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ (رواه الدارمی، من الکتر، ص ۱۱۰ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک امر منتظر کے لئے چھانٹ لیا ہے، اور مجھے انتخاب  
فرمایا ہے، پس ہم قیامت کے روز آخرین ہوں گے اور ہم ہی سابقین ہوں گے  
روایت کیا اس کو دارمی نے (کتر، صفحہ ۱۱۰ ج ۶) =

حدیث نمبر ۹۷ | عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا  
خَلَقَ اللَّهُ الْعَرَشَ كَتَبَ عَلَيْهِ مِنْ نُورِ طُولِ الْقَلَمِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَبِهِ أُخِذَ وَبِهِ أُعْطِيَ  
وَأُمَّتُهُ أَفْضَلُ الْأُمَمِ وَأَفْضَلُهَا أَبُو بَكْرٍ (رواه الراغبی، من الکتر، ص ۱۳۸ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب  
اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو اس پر نور سے یہ کلمہ لکھا، قلم کا طول اتنا تھا جتنا  
مغرب سے مشرق کا فاصلہ، البتہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں  
انہی کی وجہ سے اطاعت نہ کرنے پر مواخذہ کروں گا اور انہی کی وجہ سے اطاعت  
کرنے پر عطا کروں گا، ان کی امت تمام امتوں پر افضل ہے اور پھر ساری امت  
میں ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں، روایت کیا اس کو راغبی نے (کتر، ص ۱۳۸ ج ۶) =

حدیث کی تصریح سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام امت محمدیہ سے افضل  
ترین مسرود ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں، جس سے صاف ثابت ہوا کہ اس امت

لہ خصائص کبریٰ صفحہ ۱۹۴ جلد ۲ میں ابن شہاب سے نقل کیا ہے کہ جو اصح الکلم سے مراد یہ ہے کہ پہلے  
انبیاء کی وحی میں جو بیہت سے امر رکھے جاتے تھے وہ آپ کے لئے ایک یاد دہانی میں جمع کر دیئے گئے، انہی  
اور فوٹاج کلم سے مراد وہ کلمات ہیں جو کسی مستقل علم کا باب کھول دیتے ہیں ۱۳ نہ

میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر نبی (ابوبکرؓ) نبی سے بڑھ جائے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔

حدیث نمبر ۹۸ | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا وَحْيَ إِلَّا الْقُرْآنُ رَكْنٌ فِي الْمَعْتَصِرِ  
من مشکل الآثار، ص ۴۵۲

ترجمہ ۱۔ "حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا کوئی وحی نہیں،  
(دیکھو معتبر من مشکل الآثار، صفحہ ۴۵۲)۔"

مراد یہ ہے کہ قرآن کے بعد اور کوئی جدید آسمانی کتاب نہیں آ سکتی۔

حدیث نمبر ۹۹ | عَنِ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنِّي عِنْدَ رَبِّي عَشْرَةٌ أَسْمَاءُ قَالَ أَبُو الطَّفَيْلِ حَفِيظُكَ مِنْهَا  
ثَمَانِيَةٌ مُحَمَّدٌ وَ أَحْمَدُ وَ أَبُو الْقَاسِمِ وَ الْقَاتِمُ وَ الْحَاقِمُ وَ  
الْعَاقِبُ وَ الْحَاشِي وَ الْمَاحِي (رواه ابو نعیم فی الدلائل ص ۱۱۲)

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابوالطفیلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے  
پروردگار کے نزدیک میرے دس نام ہیں (ابوالطفیل کہتے ہیں) کہ مجھ ان میں سے  
آٹھ یاد رہ گئے وہ یہ ہیں ۱۔ محمد، ۲۔ احمد، ۳۔ ابوالقاسم، ۴۔ فاتح، ۵۔ خاتم، ۶۔ عاقب، ۷۔ ماحی  
(دیکھو دلائل النبوة، ابو نعیم، صفحہ ۱۱۲)۔"

حدیث نمبر ۱۰۰ | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي الشُّبُورَةِ وَ لَكُمْ الْخِلَافَةُ (رواه ابن عساکر) (من الکفر ص ۶۱۸۰)

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
کہ میرے لئے نبوت ہے اور تمہارے لئے خلافت، روایت کیا اس کو ابن عساکر  
نے، (از کثر العمال ص ۶۱۸)۔"

حدیث کی تقسیم سے معلوم ہوا کہ اس امت میں سب سے نبوت کے محض خلافت ہی  
نبوت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حتم ہو گئی۔

حدیث نمبر ۱۰۱ | عَنِ ابْنِ شِقَاقٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الطَّمِينِ يَا عَمَّ فَإِنَّكَ حَاتِمُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْمُهَاجِرَةِ كَمَا أَنَا  
حَاتِمُ النَّبِيِّينَ فِي النَّبُوتَةِ (لذانی الکفر، ص ۶۱۸۰)

ترجمہ ۱۔ "ابن شہابؒ مسلماً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ اے چچا آپ مطمئن رہیں (اور مکہ سے ہجرت نہ کریں) اس لئے کہ آپ ہجرت میں خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں نبوت میں خاتم النبیین ہوں۔ روایت کیا اس کو رویانی اور ابن عساکر نے (کنزانی الکتب، ص ۱۶۸ ج ۶)۔

حدیث نمبر ۱۰۲ | عَنْ مَسْمَعَةَ بِنِ الْأَكُوْعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيٌّ (رواه الطبرانی وابن عدی فی الكامل) (من الکنز، ص ۱۳۷ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت سلمہ بن الاکوعؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر انبیاء کے سوا تمام انسانوں سے بہتر ہیں، روایت کیا اس کو طبرانی نے معجم کبیر میں اور ابن عدی نے کامل میں (ازکنز، صفحہ ۱۳۷ ج ۶)۔

حدیث نمبر ۱۰۳ | عَنْ عِكْرَمَةَ بِنِ الْأَكُوْعِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا أَبُو بَكْرٍ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَبِيٌّ (رواه ابن عدی والطبرانی فی اللبیر والخطیب فی المتفق والمفترق والذہبی) (من الکنز، ص ۱۳۷ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت عکرمہ بن الاکوعؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابوبکرؓ سوائے نبی کے میرے بعد سب انسانوں سے افضل ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن عدی نے اور طبرانی نے معجم کبیر میں، اور خطیب نے متفق و مفترق میں اور ذہبی نے (کنز، ص ۱۳۸ ج ۶)۔

حدیث نمبر ۱۰۴ | عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِي جِبْرِيلٍ فَقُلْتُ مَنْ يُبَاحِدُ مَعِيَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ نَبِيٌّ أَمْرٌ أَمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَهُوَ أَفْضَلُ أُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ (رواه الذہبی من الکنز، ص ۱۳۸ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ "حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو میں نے دریافت کیا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ فرمایا ابوبکرؓ، اور وہی آپ کے بعد آپ کی امت کے خلیفہ ہوں گے اور وہ آپ کے بعد ساری امت سے افضل ہیں (کنز، ص ۱۳۸ ج ۶)۔

حدیث نمبر ۱۰۵ | عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَمَشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غُرُبَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ (رواه ابن النجار ورجل) (من اللآلئ ص ۶۷)

ترجمہ - "حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ  
اے ابو الدرداءؓ! کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو تم سے دنیا و آخرت میں  
افضل ہے۔ یاد رکھو کہ نبیین اور مرسلین کے بعد پورے دو شمس یعنی زمانہ میں  
ابو بکرؓ سے افضل کوئی نہیں ہوا (کنز، ص ۱۳۰ ج ۶)

حدیث نمبر ۱۰۶ | عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا قَالَ خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ

عُمَرُ (رواه ابن عساکر - من اللآلئ ص ۱۳۳ ج ۶)

ترجمہ - "حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس  
امت کے نبی کے بعد ساری امت سے افضل ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں (روایت کیا  
اس کو ابن عساکر نے) (کنز، ص ۱۳۳ ج ۶) =

حدیث نمبر ۱۰۷ | عَنِ الرَّبِيعِ مَرْفُوعًا خَيْرُ أُمَّتِي بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -

(رواه ابن عساکر - من اللآلئ ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ - "حضرت زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے  
بعد میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمرؓ ہیں (ابن عساکر) (کنز، ص ۱۳۲ ج ۶) =

ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ تمام امت محمدیہ میں افضل  
السان ہیں، اور باایں ہمہ جب کے وہ نبی نہیں تو معلوم ہوا کہ اس امت میں کوئی نبی نہیں  
ہو سکتا ورنہ غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا لازم آئے گا۔

حدیث نمبر ۱۰۸ | عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ

لَا أَمَنْتُ بِكَ رِيعِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُوَثِّقَ

بِكَ هَذَا الصَّبُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنَا

يَا صَبُّ فَقَالَ الصَّبُّ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يَفْهَمُهُ الْقَوْمُ حَبِيبًا

لَبِيكَ وَمَعْدُوكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ مَنْ تَعْبُدُ فَقَالَ

الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَيِّدُهُ  
 وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَ أَنْتَ رَسُولُ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَحَاتِيْمُ النَّبِيِّينَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي  
 الْأَدْوَابِ وَالصَّغِيرِ وَابْنِ عَدَى وَالْحَاكِمُ فِي الْمَعْجَزَاتِ وَالْبَيْهَقِيُّ  
 وَابْنُ أَبِي عَسَاكِرٍ وَابْنُ عَدَى وَالْحَاكِمُ فِي الْمَعْجَزَاتِ وَالْبَيْهَقِيُّ  
 وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ السَّمْعَلِيُّ شَيْخُ الطَّبْرَانِيِّ وَابْنُ عَدَى وَ  
 قَالَ السِّيوطِيُّ فِي الْخَصَائِصِ ثَلَاثُ أَحَادِيثَ عَمْرٍو طَرِيقَ أَخْرِيسَ فِيهِ  
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَسَاكِرٍ .

ترجمہ :- حضرت عمر فاروقؓ سے ایک طویل حدیث کے ذیل میں مروی ہے کہ (ایک گاؤں والے  
 کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے ایک گواہ آپ کے  
 سامنے چھوڑ دی، اور کہا، میں جب تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گواہ آپ  
 پر ایمان نہ لائے۔ آپ نے گواہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ بتلا میں کون ہوں؟  
 گواہ نے نہایت بلیغ عربی زبان میں جس کو ساری مجلس سمجھتی تھی، کہا اللہ  
 سعیدیک یا رسول رب العالمین، یعنی اے رب العالمین کے سچے رسول میں  
 حاضر ہوں، اور آپ کی اطاعت کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کس کی عبادت  
 کرتی ہے؟ گواہ نے جواب دیا کہ اس ذات مقدس کی کہ آسمان میں اس کا عرش عظیم  
 ہے اور زمین پر اس کا قبضہ و سلطنت ہے اور دریا میں اس کا بنایا ہوا ستہ ہوا  
 جنت میں اس کی رحمت ہوا اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون  
 ہوں؟ گواہ نے جواب دیا کہ آپ پروردگار عالم کے سچے رسول ہیں اور انبیاء  
 کے ختم کرنے والے ہیں۔

اس حدیث کو طبرانی نے معجم الاوسط اور معجم صغیر میں اور ابن عدی اور حاکم نے  
 معجزات میں اور بیہقی، ابونعیم، ابن عساکر نے ردایت کیا ہے (دیکھو خصائص کبریٰ  
 للسیوطی صفحہ ۶۵ جلد ۲) شیخ حلال الدین سیوطی اس حدیث کو نقل کرنے کے  
 بعد فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ثقاہت میں کلام  
 کیا جائے، سوائے محمد بن علی بن الولید کے جو کہ طبرانی اور ابن عدی کے استاد ہیں

لیکن اس روایت کے لئے ایک اور طریق سند بھی ہے جس میں محمد بن علی بن الولید نہیں ہیں، ابو نعیم نے اسی اسناد کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے ؟  
الحاصل حدیث کے قابل وثوق ہونے میں کوئی تاثر نہیں ہو سکتا۔

حدیث نمبر ۱۰۹ | عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ كَذَا فِي الْخِصَالِ الْكُبْرَى (ج ۶) ترجمہ ۱۔ " حضرت عائشہؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث یہی نے روایت کی ہے (دیکھو خصائص کبیر صفحہ ۶۵ جلد ۱۲) "

حدیث نمبر ۱۱۰ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (من الخصائص الكبرى) ترجمہ ۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بعینہ اسی مضمون کی حدیث یہی نے روایت کی ہے (از خصائص کبریٰ) حدیث نمبر ۱۱۱ | وَمِثْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَسَاكَرٍ كَذَا فِي الْخِصَالِ (ج ۶) ترجمہ ۱۔ " اسی طرح بعینہ مضمون کی حدیث حضرت علیؓ سے ابن عساکر نے روایت فرمائی ہے ؟  
افسوس جنگل کے وحشی جانور آپ کے آخر التعمین ہونے پر ایمان لاتے ہیں

مگر اسلام کے مدعی قادیانیوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رہ سکتی ہے

گفتہ میں شرط آدمیت نیست ؛ مرغ تسبیح خوان و تو خاموش  
حدیث نمبر ۱۱۲ | عَنْ أَبِي زَبِيلٍ الْجَهَنِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَأْوِيلِ رُؤْيَاةٍ (وفی الحدیث طول) وبعض الغاظه هكذا وآمتا  
الثاقاة التي رأيتها ورأيتني أبعثها في الساعة علينا نقوم لأنبي  
بعدي ولا أمة بعد أمي. رواه البيهقي في دلائل النبوة هكذا

عند ابن كثير في التفسير، ص ۳۶۹ ج ۹ طبع قدیم مع بغوی

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابو زبیل جہنیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ایک طویل خواب بیان کیا۔ آپ نے اُس کی مفصل تعبیر بیان فرمائی، اس کے آخری جملے مسئلہ زیر بحث کے لئے روشن دلیل ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو خواب میں اونٹنی کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں اس کو چلا رہا ہوں تو اسے مراد قیامت ہے جو ہماری امت پر قائم ہوگی، کیونکہ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت۔ روایت کیا اس کو یہی نے دلائل نبوت میں (از تفسیر ابن کثیر، ج ۹، ص ۳۶۹ طبع قدیم مع بغوی) "

حدیث نمبر ۱۱۳ | فی حدیث طویل فی باب الاسماء عن ابی ہریرۃ <sup>رض</sup> مرفوعاً

قَالُوا يَا جِبْرِيلُ مِنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ خَاتِمِ  
النَّبِيِّينَ (الی ان قال) فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ اخَذْتُكَ  
حَبِيْبًا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَةِ مُحَمَّدٌ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنِ وَارْسَلْتُكَ  
لِلنَّاسِ كَافَّةً وَجَعَلْتُ اُمَّتَكَ هُمْ الْاَوْلٰوْنَ وَهُمْ الْاٰخِرُونَ وَ  
جَعَلْتُ اُمَّتَكَ لَا تَجُوْرُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اِنَّكَ عَبْدِيْ وَ  
رَسُوْلِيْ وَجَعَلْتُكَ اَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَاٰخِرَهُمْ بَعْثًا وَاَعْطَيْتُكَ  
سَبْعًا مِنَ الْمَنَافِيْ وَكَلَّمْتُكَ بِمَا نَبِيًّا قَبْلَكَ وَاَعْطَيْتُكَ خَوَاتِمَ  
سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كُنُوْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ لَمَّا اَعْطَيْتُكَ قَبْلَكَ وَجَعَلْتُكَ  
فَاتِحًا وَاخَاتِمًا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الْبَزَّازُ (کنزانی مجمع الزوائد ص ۲۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو ہریرہ <sup>رض</sup> نے شب اسری کے واقعہ کو مفصل ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے جس کے چند جملے حسب ضرورت درج کئے جاتے ہیں۔ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے جبریل سے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء میں سے آخر محمد <sup>رض</sup> ہیں (اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے ارشاد ہوا کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا یا ہے اور توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کے محبوب ہیں) انہم نے تمہیں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی امت کو اولین و آخرین بنایا، اور میں نے آپ کی امت کو اس طرح رکھا کہ ان کے لئے کوئی خطبہ جائز نہیں جب تک کہ وہ خالص دل سے گواہی نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو باعتبار اصل خلقت کے سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخر بنا یا ہے اور آپ کو سب سے ثانی (سورہ فاتحہ) دی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور آپ کو آخر سورہ بقرہ کی آیتیں دی ہیں اس خزانہ سے جو عرش کے نیچے ہے اور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا

اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا (الی احسن الحدیث) (مجمع الزوائد، از صفحہ ۲۷،  
ص ۲۹ بحوالہ بزار) :

اور خصائص کبریٰ، صفحہ ۱۷۱ میں اس حدیث کو بحوالہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور  
ابن مردویہ اور ابو یعلیٰ اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے۔

حدیث نمبر ۱۱۲ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِخْرَاجِ هَاجِرَ  
حُجِّلَ عَلَى الذُّبَابِ فَكَانَ لَا يَسْتَرِي بِأَرْضٍ عَدْبَةً سَهْلَةً إِلَّا قَالَ أَنْزِلْ هَهُنَا يَا حَبْرِيْلُ  
فَيَقُولُ لَا حَشَىٰ أَتَىٰ مَكَّةَ فَقَالَ حَبْرِيْلُ أَنْزِلْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ حَيْثُ لَمْ يَصْرُحْ وَلَا  
زُرِعَ قَالَ لَعَنَ هَهُنَا يَخْرُجُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ابْنِكَ الَّذِي تَسْتَمُّ بِهِ الْكَلْبَةَ  
الْعَلْيَا (کنزانی الخصائص الکبریٰ ص ۹)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو حضرت ہاجرہ کے  
لیمانے کا حکم دیا گیا تو آپ کو بُراق پر سوار کیا گیا، پس جب براق کسی عمدہ شیر یا  
نرم زمین پر لیکر گذرنا تھا تو ابراہیمؑ فرماتے تھے کہ حبریلؑ یہاں اتر جاؤ مگر حبریلؑ انکار  
کرتے تھے یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین پر گذر ہوا تو حبریلؑ ان میں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اے  
ابراہیمؑ یہاں اتر جاؤ۔ ابراہیمؑ نے جواب دیا کہ عجیب بات ہے یہاں اتارتے ہو جہاں  
نہ کوئی گھیتی کا سامان ہے نہ دودھ کا۔ حبریلؑ نے جواب دیا کہ ہاں اسی جگہ آپ کے  
ماجرائے کی ذریت سے نبی اُمی پیدا ہوں گے جن کے ذریعہ کلمہ علیا تمام (کمل) ہوگا  
(خصائص کبریٰ ص ۹) :

حدیث نمبر ۱۱۵ | عَنْ سَلْمَانَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ يَا تَوْفَّيْكَ يَا مُحَمَّدًا ائْتِئُو لَوْ تَنِيَا  
نَبِيَّ اللَّهِ أَنْتَ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِكَ رَحْمَةً وَغَفِيْرًا لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا  
تَأَخَّرَ۔ رواه ابن ابی شیبہ (کنزانی فتح الباری، ص ۳۷۸ ج ۱۱)

ترجمہ ۱۔ حضرت سلمان فارسیؓ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز تمام مخلوق جمع ہو کر آئیں گی اور کہیں گی کہ  
اے اللہ کے نبی آپ ہی وہ ہیں کہ اللہ نے آپؐ کو نبوت کو شروع فرمایا اور آپؐ ہی پر  
ختم کیا، اور آپؐ کی سب اگلی پھلی لفرشیں معاف کیں (آپؐ ہی ہماری سفارش  
کیئے) روایت کیا اس کو ابن ابی شیبہ نے (از فتح الباری، ص ۳۷۸ ج ۱۱) :

حدیث نمبر ۱۱۶ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ قَالَ لَوْ نَزَلَ مُوسَى فَاَتَّبَعَهُمْ وَتَرَكَ مُوسَى لَصَلَّيْتُمْ اَنَا حِطْلُكُمْ

مِنَ النَّبِيِّينَ وَاَنْتُمْ حَقْلِي مِنَ الْاُمَمِ . رواه البيهقي في الشعب (ك، ۳۹)

ترجمہ ۱۔ " حضرت عبداللہ بن الحارث راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

تم میں خود موسیٰ علیہ السلام بھی آجاویں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرو تو البتہ تم

گمراہ ہو جاؤ۔ انبیاء میں سے تمہارا حصہ صرف میں ہی ہوں، اور امتوں میں سے میرا

حصہ صرف تم ہی ہو۔ روایت کیا اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں (من الکتر)؛

اسی مضمون کی ایک حدیث بحوالہ مسند احمد نمبر ۴۸ میں گذر چکی ہے، جس میں آپ نے

انحصار کے ساتھ اس امت کے لئے صرف اپنی ذات اقدس کو نبی قرار دیا ہے، اور اس

امت کے لئے اپنے سوا کسی اور کے نبی ہونے سے انکار فرمایا۔

حدیث نمبر ۱۱۷ | عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُهُ عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَلْبِيِّ دَاكِرْتَمِ ۱۵ جلد ۱

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابوالدرداء سے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث طبرانی نے روایت فرمائی ہے؛

حدیث نمبر ۱۱۸ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ

مُوسَى لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَةُ وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ

فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلْوَابِ أُمَّةَ هُمُ الْأَخْوَرُونَ السَّائِقُونَ

فَاَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي (الحدیث)

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابوبریرہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ پر جب

تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اس کو پڑھا تو اس میں اس امت کا ذکر پایا، یہاں

وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں الواح تورات

میں ایک ایسی امت پاتا ہوں (جو دنیا میں) سب سے آخری امت ہے اور (قیامت

میں) سب پہلے ہیں، ان کو میری امت بنا دے (دلائل نبوت، البونعم، ص ۱۱۴)؛

حدیث نمبر ۱۱۹ | أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ بَيْنَ بَيْنِي

أَدَمُ مَكْتُوبٌ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ (انضمام کبریٰ ص ۳۶)

ترجمہ ۱۔ " ابن عساکر نے بطریق ابوالزبیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم کے

دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا " محمد رسول اللہ خاتم النبیین؛

حدیث نمبر ۱۲۰ | عَنْ أَنَسٍ (فی حدیث طویل)، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مُوسَى دَعَا اللَّهَ تَعَالَى اجْعَلْنِي نَبِيَّ تِلْكَ الْأُمَّةِ (بِعَنِي) تِلْكَ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ، قَالَ (بِعَنِي اللَّهُ تَعَالَى)، نَسِيَهَا مِنْهَا قَالَ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةٍ ذَلِكَ النَّبِيُّ قَالَ اسْتَقْدَمْتُ وَاسْتَأْخَرْتُ وَلَكِنْ مَا جِئْتُ بِبَيْنِكُمْ فِي دَارِ جَلال (رواه البونعیم فی الحلیة کذا فی الخصائص ص ۱۷۱) ترجمہ ۱۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اس امت (یعنی امت محمدیہ) کا نبی بنا دے تو ارشاد ہوا کہ اس امت کا نبی خود انہیں میں سے ہوگا (آپ نہیں ہو سکتے) پھر موسیٰ نے عرض کیا کہ مجھے اس نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت بنا دیا جائے تو ارشاد ہوا کہ آپ ان سے پہلے آئے ہیں اور وہ بعد میں تشریف لائیں گے (اس لئے امت بھی نہیں ہو سکتے) البتہ دار جلال میں ہم آپ دونوں کو جمع کر دیں گے (البونعیم فی الحلیة کذا فی الخصائص، ص ۱۷۱) ۹

اس حدیث میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ جیسا اولوالعزم پیغمبر بھی جب اس امت کا نبی نہیں بن سکتا، تو پھر اور کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نبوت کا درجہ کیسے پاسکتا ہے۔ دوسرے اس حدیث میں لفظ نبیہا زیادہ قابل غور ہے کیونکہ اس کو بصیغہ واحد اکر کے بتلادیا گیا ہے کہ اس امت کے لئے صرف ایک نبی ہوگا ورنہ اقتضائے مقام یہ تھا کہ بصیغہ جمع انبیاء ہا منها فرمایا جاتا۔

حدیث نمبر ۱۲۱ | عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ أَنَا رَسُولُ الْمَلْأَةِ وَالْمَأْشِرِ بُيُوتٌ بِالْجِهَادِ وَلَمْ أُبْعَثْ بِالزَّرْعِ (اخرجه ابن سعد، کذا فی الخصائص ص ۱۷۱) ترجمہ ۱۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں محمدؐ ہوں میں احمد ہوں اور رسول رحمت ہوں اور جہاد کا رسول ہوں اور سب آخری رسول ہوں جس کے بعد حشر و قیامت ہوگی، مجھے جہاد کے لئے بھیجا گیا ہر ذراعت کے لئے نہیں۔ ۲

حدیث نمبر ۱۲۲ | عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْمُعْرَابِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

يَا بَنِيَّ إِنَّكَ لَأَتِي رَبَّكَ اللَّيْلَةَ وَإِنَّ أُمَّتَكَ أَخِرَ الْأُمَمِ وَأَضْعَفُهَا  
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَاجَتَكَ كُلَّهَا أَوْجِلَهَا فِي أُمَّتِكَ فَافْعَلْ،  
اخرجه ابن عساکر في جزئيه وابونعیم وابن عساکر من طریق ابن ابی عمیر  
عن ابن مسعود (خصائص، ص ۱۶۲ ج ۱)

ترجمہ ۱۔ "حضرت عبداللہ بن مسعود واقعہ معراج بیان فرماتے ہوئے ایک طویل حدیث  
کے ذیل میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ شب  
معراج میں مجھ سے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ آپ آج کی رات اپنے پروردگار سے  
ملنے والے ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور سب زیادہ ضعیف ہے،  
اس لئے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی امت کے لئے سہولت کے بارے میں کوشش  
کیجئے (ابن عساکر، ابونعیم، ابن عساکر)۔"

حدیث نمبر ۱۲۲ | عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ نَبِيٌّ  
إِلَّا كَانَ فِي أُمَّتِهِ مُعَلِّمٌ أَوْ مُعَلِّمَانِ فَإِنْ تَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَهُوَ  
عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ (اخرجه الطبرانی في الاوسط - خصائص کبریٰ ص ۱۲۹ ج ۱)  
ترجمہ ۱۔ "حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کی  
امت میں ایک یا دو معلم (محدث) ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں ان میں سے  
کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطابؓ ہیں (طبرانی)۔"

اس مضمون کی متعدد احادیث باختلاف الفاظ پہلے گزر چکی ہیں، اس حدیث میں  
سبھی بجائے محدث کے معلم کا لفظ رکھ لے، مگر مضمون واحد ہے، تقریباً مضمون اور ختم  
نبوت کا ثبوت مفصل ملاحظہ فرما چکے ہیں

حدیث نمبر ۱۲۳ | اخرجہ ابن عساکر عن سلمان في حديث طويل قال قال جبريل  
للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربك يقول ان كنت اضلقت ادم  
فقد خدمت بك الانبياء وما خلقت خلقا اكرم منك على .  
(خصائص، ص ۱۹۳ ج ۲)

ترجمہ ۱۔ "ابن عساکر نے حضرت سلمانؓ سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ جبریلؑ  
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ اگر ہم نے آدم کو

معنی اللہ ہونے کا متمتع امتیازی دیا ہے تو آپ پر تمام انبیاء کو ختم کر کے آپ کی شان امتیاز سب بڑھادی ہے، اور میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ عزیز ہو۔

حدیث نمبر ۱۲ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَيَّدَنِي بِأَرْبَعَةٍ وَزَلَّاءَ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَبِي بَكْرًا وَعُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَزَارُ وَالطَّبْرَانِيُّ (كذافي الخصائص، ص ۲۰۰-۲۰۱)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار وزیروں کے ذریعہ میری تائید فرمائی جن میں سے دو آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبریلؑ اور میکائیلؑ اور دو زمین والوں میں سے یعنی ابوبکرؓ اور عمرؓ (بزار، طبرانی، از خصائص کبریٰ، جلد ثانی ص ۲۰۰)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابوبکرؓ و عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، لیکن با ایں ہمہ تبصریحات نبویہ و اجماع امت وہ دونوں انبیاء میں داخل نہیں، حالانکہ انبیاء سابقین کے وزیر نبی ہوتے تھے جیسا کہ خود قرآن میں موجود ہے وَجَعَلْنَا أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا لَهُ (الآیۃ) اور ہم نے موسیٰ کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ اور دوسری جگہ حضرت موسیٰ کی دعا اس طرح نقل کی گئی ہے۔

وَجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ اٰهْلِيْ | یعنی اے اللہ میرے لئے میرے اہل بیت کے  
هَارُوْنَ اٰخِيْ | میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء انبیاء و رسل نہیں رہا لاکھ انبیاء سابقین کے وزیر نبی ہوتے تھے، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس امت میں سوائے آپ کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

حدیث نمبر ۱۲۶ | اخرج ابن جرير في كتاب السنة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اخذنا ايماننا على جسيم العالمين يوسى التيتيين والمرسلين واخترنا من اصحابي اربعة ابا بكر وعمر وعثمان وعليًا فجعلهم خير اصحابي واني اصحابي كلهم خير

(خصائص کبریٰ، صفحہ ۲۰۳ جلد ۲)

ترجمہ ۱۔ "ابن حشر نے کتاب السنۃ میں حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام اہل عالم میں پسند فرمایا، اور میرے صحابہؓ میں سے چار کو پسند فرمایا یعنی ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، اور ان چاروں کو تمام صحابہ میں بہترین قرار دیا اور میرے سب صحابہ میں خیر اور بھلائی غالب ہے (خصائص کبریٰ)۔"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام امت سے افضل ہیں اور باہر میں ہمہ جب وہ بھی نبی نہیں تو اور کوئی کیسے نبی ہو سکتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۲۷ | عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي حَدِيث طَوِيل) بَلْ يَا يَهُودِي أَنْتُمْ أَلَا وَتَلُونَ وَنَحْنُ الْأَخِيرُونَ السَّائِفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَخْرَجَهُ ابْنُ رَاهَوِيَةَ فِي مَسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنَفِ (خصائص، ص ۲۰۹، ۲۱۰)

ترجمہ ۱۔ "ایک طویل حدیث کے ذیل میں حضرت عمرؓ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی تم دنیا میں ہم سب سے پہلے ہو، اور ہم دنیا میں سب سے آخر میں اور قیامت میں سب سے آگے ہوں گے (مسند ابن راہویہ مصنف ابن ابی شیبہ)۔"

حدیث نمبر ۱۲۸ | أَخْرَجَ ابْنُ نَعِيمٍ فِي حَدِيث طَوِيلٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ سَأَلَهُ مَا هَاتَا عَائِلُ مَلِكِ الرُّومِ عَلَى الشَّامِ هَلْ كَانَ رَسُولُكُمْ أَخْبَرَكُمْ أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَهُ رَسُولٌ قَالَ لَا وَكَلَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بَعْدَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ قَدْ نَبَسَ بِهِ قَوْمَهُ قَالَ الرُّومِيُّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (خصائص ص ۲۸۴ جلد ۲)

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جب یرموک پہنچے تو لشکرِ روم کے سردار نے ایک قاصد بھیجا، قاصد نے کہا کہ ملکِ شام کے گورنر ماہان کی طرف سے آیا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنی جماعت میں سے ایک عقلمند کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ان سے مکالمہ کریں، حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو اس کام کیلئے منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت خالدؓ تشریف لے گئے۔ دورانِ محفّت گو میں ماہان نے

دریافت کیا کہ کیا تمہارے رسول نے تمہیں یہ خبر بھی دی ہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول آئے گا، حضرت خالد نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے میرے وجود کی اپنی امت کو پہلے ہی سے بشارت دی تھی، ماہانِ رومی نے یہ سنا کہ کہا کہ ہاں میں بھی اس پر گواہ ہوں (ابونعیم) :-

حدیث نمبر ۱۲۹ | عَنْ أَنَسٍ (فی حدیث طویل) مَرْفُوعًا الْحَدِيثُ لِلَّهِ الَّذِي رَسَلَنِي

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَكَأَنَّهُ لِلنَّاسِ (الی قولہ) وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْآخِرُونَ

وَهُمُ الْآدِلُونَ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلْتُ أُمَّتَكَ هُمُ الْآخِرُونَ

وَهُمُ الْآدِلُونَ (الی قولہ) جَعَلْتُكَ أَوْلَى النَّبِيِّينَ خَلْقًا وَآخِرَهُمْ

بَعَثْنَا (الی قولہ) وَجَعَلْتُكَ نَائِحًا وَخَاتِمًا (آخر حجہ ابونعیم) (خصائص کبریٰ ص ۱۹۶)

ترجمہ :- " حضرت انسؓ ایک طویل الذیل حدیث میں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ محمد ہے اُس ذاتِ قدوس کے لئے جس نے مجھے تمام اہل عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور میری امت کو سب سے آخری اور سب سے پہلا بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری امت کو آخری امت اور اول بنایا، اور ہم نے باعتبار خلقت کے آپ کو سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخری بنایا اور ہم نے آپ کو فاتح اور خاتم بنایا :-

حدیث نمبر ۱۳۰ | عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَعْضِ

أُمَّتِكَ هُنِي أَنْ تَكُونِ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ

وَلَا وِلَايَةَ (خصائص ص ۲۳۹ ج ۲ بحوالہ طبرانی)

ترجمہ :- " حضرت ابن عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم مجھ سے اس مرتبہ پر ہو جاؤ جس پر حضرت موسیٰ سے ہارونؓ تھے، مگر ہارون کی طرح تم کو نبوت اور ولایت نہیں مل سکتی (طبرانی) :-

حدیث نمبر ۱۳۱ | أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فِي مَلَكٍ بِطَيْبٍ مِنْ ذَهَبٍ نَشَقُّ

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

بَطْنِي فَأَخْرَجَ حُشْوَةً فِي جَوْفِي نَقَلَهَا شَمَّ ذَرَّ عَلَيْهِ ذُرُورًا شَمَّ قَالَ رَفِئَا

تَال) وَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الْمُتَّقِي وَالْحَاشِسُ (خصائص ۱۲۵ ج ۱)  
 ترجمہ ۱۔ " حضرت یونس بن میسرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ  
 میرے پاس ایک فرشتہ ایک سونے کا طباق لایا، پھر میرے پیٹ کو چاک کر کے  
 اس میں سے ایک لوتھر نکالا پھر اس کو دھویا، اور اس پر کوئی چیز چھڑکی،  
 پھر کہا کہ آپ محمد ہیں اللہ کے رسول جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور جن کے  
 بعد ہی خسرو نشر ہو جائے گا (ابونعیم)؛

حدیث نمبر ۱۳۲ | اخراج الدارمی وابن عساکر عن ابن عَنَمَةَ قَالَ قَالَ جِبْرِيلُ  
 اَنْزَلَ عَلَيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ بَطْنَهُ ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ  
 قَلْبٌ وَكَيْفٌ فِيهِ اُدْنَانِ سَمِيْعَتَانِ وَعَيْنَانِ بَصِيْرَتَانِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ  
 اللّٰهِ الْمُتَّقِي وَالْحَاشِسُ (م ۶۵ ج ۱)

ترجمہ ۱۔ " دارمی اور ابن عساکر نے ابن غنم سے روایت کیا ہے کہ جبریلؑ آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا پیٹ چاک کیا، اور پھر  
 کہا کہ قلب حفاظت کرنے والا ہے، کان سننے والے ہیں، اور آنکھیں دیکھنے  
 والی ہیں یہ محمد ہیں اللہ کے رسول جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور جن کے بعد  
 ہی قیامت قائم ہو جائے گی (از خصائص، صفحہ ۲۵ جلد ۱)؛

حدیث نمبر ۱۳۳ | عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةَ مِنْ سَرَاقَةِ  
 الْأَنْصَارِ نَبِيًّا مَا هُوَ يَشِيْرُ فِي طَرِيْقِي مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ  
 الْعَصْرِ اِذْ خَرَفْتُوْنِي فَاَعْلَمْتُ بِهٖ الْأَنْصَارُ فَاَتَوْهُ فَاَحْتَمَلُوْهُ اِلَى  
 بَيْتِهٖ وَسَجَّوْهُ كَسَاءً وَبُرْدِيْنَ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءِ الْأَنْصَارِ  
 يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ وَرِجَالٌ مِّنْ رِّجَالِهِمْ تَمْتَكُ عَلَى حَالِهٖ حَتَّى اِذَا كَانَ بَيْنَ  
 الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِذَا سَمِعُوا صَوْتًا قَائِلٍ يَقُوْلُ اَنْصَتُوا اَنْصَتُوا  
 فَتَنْظُرُوْنَ اِذَا اَذَاعُوا الصَّوْتِ مِنْ تَحْتِ النَّيَابِ فَحَسَرُوْا عَن رِّجْلِهٖ وَ  
 صَدْرِهٖ فَاِذَا الْعَائِلُ يَقُوْلُ عَلَى لِسَانِهٖ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ النَّبِيُّ  
 الْأَمِيْنُ خَاتِمَ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ  
 الْأَدْلِ صَدَقَ صَدَقَ .

## ایک حیرت انگیز واقعہ

ترجمہ ۱۔ ”نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ زید بن خارجه انصار کے سرداروں میں سے تھے، ایک روز وہ مدینہ طیبہ کے کسی راستے میں چل رہے تھے کہ یکایک زمین پر گرے اور فوراً وفات ہو گئی، انصار کو اس کی خبر ہوئی تو ان کو دہاں جا کر اٹھایا اور گھر لائے اور چاروں طرف سے ڈھانپ دیا، گھر میں کچھ انصاری عورتیں تھیں جو ان کی وفات پر گریہ و زاری میں مبتلا تھیں، اور کچھ مرد جمع تھے، اسی طرح پر جب مغرب و عشاء کا درمیانی وقت آیا تو اچانک ایک آواز سنی کہ ”چپ رہو چپ رہو“ لوگ متحیر ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی چادر کے نیچے سے آرہی ہے جس میں میت ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اُن کا منہ کھول دیا، اس وقت دیکھا گیا کہ زید بن خارجه کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لانی بعدہ الخ ”یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبی امی ہیں، جو انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا“ یہی مضمون کتاب اول یعنی توریث و انجیل وغیرہ میں موجود ہے، سچ کہا سچ کہا“

حدیث نمبر ۱۳۴ | رَوَى أَبُو يَعْقُبٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا مِنْهُمْ الْمُسَيِّمَةُ وَالْعَنَسِيُّ وَالْمُخْتَارُ الْكَذَّابِيُّ

فتح الباری من طبع الهند، ص ۳۴۳، پ ۱۳۴

ترجمہ ۱۔ ”ابو یعلیٰ نے باسناد حسن حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اُس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ نکل آویں، جن میں سے سیلمہ، عنسی، اور مختار ہیں“

حدیث نمبر ۱۳۵ | عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي خُطْبَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَجَمَّعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُمُ الْأُمَّةَ الْبَاقِيَةَ الْوَسْطَى رَكَزَ الْعَمَالَ ۱۳۵ ج ۳

ترجمہ ۱۔ ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض عرب مرتد ہو گئے

اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ان پر جہاد کا ارادہ کر کے صحابہ سے مشورہ طلب کیا اور ان سب اپنی قلبی تعداد اور ضعف کی وجہ سے جہاد کو مناسب نہ سمجھا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ منبر پر چڑھے، اور ایک نہایت شجاعانہ طویل الذیل خطبہ دیا (جس کے ابتدائی کلمات یہ ہیں) کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے ذریعہ تمام متفرق اور مختلف لوگوں کا سر جوڑ دیا، اور ان کو تاقیامت باقی رہنے والی درمیانہ چال کی امت بنا دیا (تا آخر حدیث)، آپ کی امت تاقیامت جب ہی آپ کی امت رہ سکتی ہے جب کوئی دوسرا نبی نہ آئے :

حدیث نمبر ۱۳۶ | وفی حدیث النبی عند البیهقی فی الدلائل فی حدیث الامم  
بیتما هو لیسیر اذ لقیہ خلق اللہ فسلموا علیہ فقالوا السلام علیک یا  
اڈل السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشیر (نورانی شرح صحابہ  
 ص ۶۳۰) وفی آخرہ قال جبریل واما الذین سلموا علیک فابراہیم  
وموسیٰ وعیسیٰ .

ترجمہ ۱۔ " یہی نبی نے حضرت انسؓ سے واقعہ معراج میں ایک حدیث روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے تو آپ کا ایک جماعت پر گذر ہوا، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر اس طرح پر سلام کیا، السلام علیک یا اڈل، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشیر۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جبریلؑ نے بعد میں آپ سے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ تھے "۔

اس میں آپ کے آخر اور حاشیر ہونے اور آپ پر نبوت ختم ہونے کا اعلان ہے۔  
حدیث نمبر ۱۳۷ | عین ابن عباسؓ میں مروی عن ابوسبیرؓ وعمرو بن ہشامؓ  
میں موسیٰؑ (رواہ ابن جوزیؒ)

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ اور عمرؓ کا مرتبہ میرے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ حضرت ہارونؑ کا تھا۔ (ابن جوزی) "۔

اس حدیث میں شیخین کا مرتبہ مقام ہارونی کو قرار دیا گیا ہے، مگر باایں ہمہ وہ نبی نہیں تھے

اور آپ نے اُن کے نبی نہ ہونے کے متعلق بار بار اعلان فرمایا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہو سکتا تو یہ دونوں بزرگ جو مقام ہارون میں تھے ضرور یہ عہدہ پاتے۔

حدیث نمبر ۱۳۸ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خَيْرُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَحَيْرٌ مَنْ بَقِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه الدیلمی) (کنز ص ۱۳۳، ۱۳۴)

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکرؓ

عمرؓ تمام آسمانی اور زمینی مخلوقات سے بہتر ہیں، اور ان تمام لوگوں سے بھی بہتر

ہیں کہ قیامت تک جن کا پیدا ہونا باقی اور مقدر ہے :-

اس حدیث نے نہایت وضاحت سے ہمارے مقصد کو صاف کر دیا ہے کہ شیخینؓ ناقیامت

تمام آنے والی نسلوں سے افضل ہیں جن کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا تاکہ غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا لازم نہ آئے۔ اور اسی مضمون کی دو حدیثیں پہلے بھی گذر چکی ہیں۔

حدیث نمبر ۱۳۹

| عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا أُتِيَتْ بِكَفَّةٍ يَكْفَةُ مِيزَانٍ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَ

رُجِيئَتْ بِأُمَّتِي وَوُضِعَتْ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى فَوَجَّحَتْ بِأُمَّتِي ثُمَّ رُفِعَتْ

فَجِيئَتْ بِأَبِي بَكْرٍ فَوُضِعَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ فَوَجَّحَ بِأُمَّتِي ثُمَّ رُفِعَ أَبُو بَكْرٍ وَ

جِيئَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوُضِعَ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ فَوَجَّحَ بِأُمَّتِي ثُمَّ رُفِعَ

الْمِيزَانُ إِلَى السَّمَاءِ وَأَنَا أَنْظُرُ (رواه ابو نعیم فی فضائل الصحابة) (کنز ص ۱۳۳)

" حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (خواب میں)

میرے سامنے ایک ترازو لائی گئی اور مجھے اس کے پلہ میں رکھ دیا گیا اور پھر میری

تمام امت کو جمع کر کے دوسرے پلہ میں رکھ دیا گیا، تو میں وزن میں ساری امت

بڑھ گیا اس کے بعد مجھے وہاں سے اٹھا دیا اور ابو بکرؓ کو رکھ دیا گیا تو وہ بھی ساری امت

سے بڑھ گئے، اس کے بعد ابو بکرؓ کو اس میں سے اٹھایا گیا اور عمرؓ کو اس میں رکھ دیا

گیا وہ بھی ساری امت سے بڑھ گئے۔ اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھالی گئی،

جس کو میں سامنے دیکھ رہا تھا (ابو نعیم) :-

حدیث نمبر ۱۴۰ | عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي مِثْلِهِ (بتغییر ما) عِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ كَرْتَمَعَالٍ (۱۳۳)

ترجمہ :- اسی مضمون کی حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ سے بھی طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی ہے :-

حدیث نمبر ۱۴۱ | عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ . اخرجہ الدیلمی مرفوعاً قال الحافظ ابن حجر العسقلانی المعروف  
أنه موقوف عليه كذا رواه ابن ماجه (الکنز ص ۱۷۱۲۵)

ترجمہ ۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ  
(بوقت ورود) تم یہ کہا کرو کہ اے اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکات رسولوں کے سردار  
اور متقیوں کے امام اور انبیاء کے ختم کرنے والے رسول (محمد) پر نازل فرما  
اس کو دیلمی نے مرفوعاً روایت کیا ہے، مگر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس  
حدیث کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود پر موقوف ہے،  
چنانچہ ابن ماجہ نے اس کو موقوفاً ہی روایت کیا ہے :

حدیث نمبر ۱۲۲ | عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ زَوْقَلٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الرَّؤْيَا مَرْفُوعًا  
قَالَ ذُنَيْبًا سَبْعَةَ الْأَلْبِ سَنَةً وَأَمَّا فِي آخِرِهَا أَلْفًا (القولها وَأَمَّا النَّبِيُّ  
الَّذِي رَأَيْتَهَا ذُرِّيَّتِي أَنْبَغَهَا فِي السَّاعَةِ عَلَيْنَا نَقُومُ لِأَنِّي تَبَدُّدِي  
وَلَا أُمَّةَ بَعْدِي أُمَّتِي (رواه الطبرانی في الكبير والبيهقي) (الکنز ص ۸۷۳۵)

ترجمہ ۱۔ حضرت ضحاک بن زوقل نے تعبیر خواب کے باب میں ایک طویل حدیث کے  
ذیل میں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی کل  
عمرات ہزار سال ہے اور میں اس کے آخری ہزار میں مبعوث ہوا ہوں (اس کے  
بعد ضحاک کے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ) تم نے جو اونٹنی دیکھی اور یہ دیکھا  
کہ میں اس کے پیچھے ہوں تو سمجھ لو کہ وہ قیامت ہے، جو ہم پر قائم ہوگی، نہ میرے  
بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی (طبرانی، بیہقی) :

حدیث نمبر ۱۲۳ | عَنْ عَلِيٍّ فِي صَيْغِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمِ  
النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ ، الْحَدِيثُ (رواه عياض في الشفاء)

ترجمہ ۱۔ حضرت علیؑ سے ورود شریف کے صیغے جو روایت کئے گئے ہیں ان میں اللہ صلی  
علیٰ محمد خاتم النبیین دامام المرسلین بھی آیا ہے (قاضی عیاض نے اپنی کتاب  
شفاء میں اس کو نقل کیا) :

## وہ احادیث جن کے مسئلہ ختم نبوت بطور استنباط سمجھا جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۳ | عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا أَنَّهُا سَتَكُونُ فِشْتَهٍ قِيلَ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَخَبْرٌ مِنْ بَعْدِكُمْ وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْمُرْتَلِّ مِنْ تَرَكُّهُ مِنْ جَبَابٍ قَصَصَهُ اللَّهُ وَمِنْ أُبْتَعَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَصْلَهُ اللَّهُ. (رواه احمد والترمذی) (کنز، ص ۱۶۴)

ترجمہ۔ "حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر اس سے بچنے کی کیا سیل ہو؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی کتاب (قرآن) جس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات اور آئندہ آنے والوں کی خبریں اور تمہارے نزاعات کے فیصلے موجود ہیں، وہ فیصلہ کن کتاب ہے، چھٹھا نہیں، جو ظالم اس کو چھوٹے گا اللہ اس کو ہلاک کرے گا، اور جو اس کے سوا (کسی منسوخ شدہ آسمانی کتاب سے) ہدایت دھونڈے گا اس کو اللہ گمراہ کر دے گا (امام احمد، ترمذی)۔"

حدیث نمبر ۱۳۵ | عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ مِثْلَهُ دَلْفُظُهُ مِمَّنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَآخَذَ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ الْحَدِيثَ (رواه احمد في مسنداه وعبدا لله بن حميد) (من الكنز، ص ۱۳۵)

ترجمہ۔ "حضرت زید بن ارقمؓ سے بھی یہی مضمون مروی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص نے اس کی (یعنی قرآن کی) پیروی کی وہ ہدایت پہنچے اور جس نے اُسے چھوڑا وہ گمراہ ہو گیا۔"

حدیث نمبر ۱۳۶ | عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ مَرْفُوعًا إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مِمَّنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ (رواه ابن ابى شيبه دا بن حبان في صحيحه) (کنز، ص ۱۳۶)

ترجمہ۔ "حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا اندر اللہ کی کتاب (قرآن) چھوڑتا ہوں وہ اللہ کی رسی جو جس سے پکڑ لیا اور اس کا اتباع کیا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے چھوڑ دیا گمراہ ہو گیا (ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان)۔"

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کے بعد نہ کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی شریعت جدیدہ آئے گی، نہ قرآن کا کوئی حرف منسوخ ہوگا۔ یہ صرف نبوتِ قشریعیہ کے انقطاع کی دلیلیں ہیں۔

حدیث نمبر ۱۳۷ | عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْزَلَ اللَّهُ كِتَابَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَأَخْلَ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَعْنَى فِي الْأَمَانَةِ (کنز، ص ۵۰، ۱۷)

ترجمہ ۱۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! اللہ نے اپنی کتاب اپنے نبی کی زبان پر نازل فرمائی، اور اپنے حلال کو حلال اور حرام کو حرام بیان فرمادیا ہے، پس جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کی زبان پر حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔

حدیث نمبر ۱۳۸ | عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ بِرَبِّكَ هَذَا الَّذِي قَاتِلًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ رَوَاهُ إِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ (کنز، ص ۵۰، ۱۷)

ترجمہ ۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دین میری دین محمدیؐ ہمیشہ قائم رہے گا، اور اس کے باقی رکھنے کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، جب تک کہ قیامت قائم ہو (صحیح مسلم)

حدیث نمبر ۱۳۹ | عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مَيْمُونَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (کنز، ص ۲۳۱، جلد ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت مغیرہؓ سے اسی مضمون کی حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۰ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ (کنز، ص ۲۳۱، جلد ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی مضمون کی حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۱ | عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (کنز، ص ۲۳۱، جلد ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت عمروؓ سے اسی مضمون کی حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔

حدیث نمبر ۱۴۲ | عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَرْثَدَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي مَسْنَدِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (کنز، ص ۲۳۲، جلد ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت معاویہؓ سے یہی مضمون بخاری و مسلم و مسند احمد میں مروی ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۲ | عَنْ ثَوْبَانَ مِثْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ (کنز، ص ۶۲، ۲۳۲)  
ترجمہ ۱۔ "حضرت ثوبان سے بھی اسی معنی کی حدیث کو مسلم و ترمذی، ابن ماجہ میں روایت کیا ہے؟"  
حدیث نمبر ۱۵۳ | عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَائِظٍ مِثْلَهُ وَفِيهِ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَهُ . مُسْلِمٍ (کنز، ص ۶۲، ۲۳۲)

ترجمہ ۱۔ حضرت عقبہ بن عائر سے بھی اسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے؟  
حدیث نمبر ۱۵۵ | وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَهُ وَفِيهِ حَتَّى يُقَاتِلُوا أَخِرَهُمُ النَّجَالِ  
اُخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَابُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (ص ۶۲، ۲۳۲)  
ترجمہ ۱۔ حضرت عمران بن حصین سے بھی یہی مضمون امام احمد اور حاکم اور ابوداؤد نے روایت کیا اور اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ یہاں تک کہ اس امت کا آخری طائفہ دجال سے مقابلہ کرے گا؟

حدیث نمبر ۱۵۶ | وَعَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ أَيَّاسٍ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ جَبَانَ فِي صَحِيحِهِ وَاحْمَدُ التِّرْمِذِيُّ  
(کنز، ص ۶۲، ۲۳۲)

ترجمہ ۱۔ حضرت قوتیب بن ایاس سے بھی یہی مضمون صحیح ابن جبان اور مسند احمد جامع ترمذی وغیرہ میں مروی ہے؟  
حدیث نمبر ۱۵۷ | عَنْ سَلْمَةَ بْنِ نَفِيلٍ مِثْلَهُ عِنْدَ لَطِبْرِانِي فِي الْكَبِيرِ وَابْنِ سَعْدٍ (ص ۶۲، ۲۳۵)  
ترجمہ ۱۔ سلم بن نفیل سے بھی مضمون طبرانی اور ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے؟  
حدیث نمبر ۱۵۸ | وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ جَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (کنز، ص ۶۲، ۲۳۵)

ترجمہ ۱۔ حضرت انس سے صحیح ابن جبان میں بھی مروی ہے؟  
حدیث نمبر ۱۵۹ | وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ مِثْلَهُ عِنْدَ عَبْدِ بْنِ حَمِيدٍ .

ترجمہ ۱۔ "یزید بن ارقم سے بھی مضمون مروی ہے (مسند عبد بن حمید)؟"

حدیث نمبر ۱۶۰ | وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَهُ اُخْرَجَهُ ابُو النَّصْرِ السَّنْجَرِيُّ فِي  
الْاِبَانَةِ وَالهَرَوِيُّ فِي ذِمِّ الْكَلَامِ (کنز، ص ۶۲، ۲۳۵)

ترجمہ ۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی مضمون ابوالنضر سنجرى نے ابانہ میں اور ہروی

نے ذم الکلام میں روایت کیا ہے؟

یہ کُل کی کُل تعدادِ احادیث اعلان کر رہی ہے کہ اُمّتِ محمدیہ آپ کی امت ہو کر قیامت تک باقی ہے گی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا،

ورنہ پھر تو لوگ اس نبی کی امت کہلا دیں گے جیسے انبیاء سابقین کی امتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی امت کہلاتی ہیں نہ کہ گذشتہ انبیاء کی۔

حدیث نمبر ۱۶۱ | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أُعْطِيَتْ حَمَّالَةٌ يُعْطَمُنُ نَبِيَّ قَبْلِي وَلَا أُخْلَعُ نَحْرًا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَكَانَ النَّبِيُّ قَبْلِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ (رواه احمد فی مسندہ والحکیم - من الکنز ص ۶۱۰۹)

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور یہ میں فورے نہیں کھتا، ان پانچ چیزوں میں، ایک یہ ہے کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کی عرب و عجم سب برابر ہیں، اور مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی قوم کے لئے مبعوث ہوتے تھے (مسند احمد و حکیم ترمذی) "

حدیث نمبر ۱۶۲ | عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا أُعْطِيَتْ حَمَّالَةٌ يُعْطَمُنُ نَبِيَّ قَبْلِي أُرْسِلْتُ إِلَى الْأَيُّمِ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ (الحدیث) رواه العسکری فی الامثال (کنز ص ۶۱۰۹)

ترجمہ ۱۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک یہ کہ مجھے بلا امتیاز کالے گھوڑے (عرب و عجم کے) تمام عالم کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے (عسکری فی الامثال) "

حدیث نمبر ۱۶۳ | وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رواه طحطاح والدارمی (من الکنز ص ۶۱۰۹)

ترجمہ ۱۔ اسی مضمون کی حدیث ابو ذر سے مسند احمد و مستدرک حاکم وغیر میں بھی موجود ہے (کنز ص ۶۱۰۹)

حدیث نمبر ۱۶۴ | وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْحَكِيمِ وَالطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ (کنز ص ۶۱۰۹)

ترجمہ ۱۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حکیم ترمذی اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی بتوئی ہے؟

حدیث نمبر ۱۶۵ | وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - أخرجه احمد فی مسندہ والطبرانی فی الکبیر - (من الکنز ص ۶۱۰۹)

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابو موسیٰ اشعری سے امام احمد نے مسند میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں اسی مضمون کی حدیث روایت کی ہے "

حدیث نمبر ۱۶۶ | عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُعْطِيَتْ اللَّيْلَةُ حَمَّالًا يُعْطَمُنُ نَبِيَّ قَبْلِي أَمَا أَدْرَأَهُنَّ فَأُرْسِلْتُ

إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ كَأَنَّهُ عَامَّةٌ وَكَانَ مِنْ قَبْلِي إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ . رواه احمد  
فی مسنده والحدیث (من الكنز، ص ۱۱۰ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ میں تمام عالم کی طرف نبی ہو کر آیا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف پیغمبر ہو کر آتے تھے ۛ

حدیث نمبر ۱۶۷ | مِثْلُهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ نَعْنُدُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِي  
بُخَارَةَ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ (من الكنز، ص ۱۱۰ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ " حضرت ابو امامہؓ سے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کے ایک حصہ کو روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہے (کنز العمال، ص ۱۱۰ ج ۶) ۛ

حدیث نمبر ۱۶۸ | عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ (الحدیث)

ترجمہ ۱۔ " حضرت خالد بن معدانؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام عالم والوں کی طرف بھیجا گیا ہوں ۛ

یہ احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے نبی ہیں، آپ کی نبوت کے بعد قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے سب آپ کی امت میں نبی نہیں۔ کیونکہ عموم بعثت میں دونوں قسم کے عموم داخل ہیں، یعنی عموم اقوام عالم اور عموم زمان یعنی اپنے زمانہ میں بھی آپ کی نبوت تمام اقوام دنیا کے لئے ثابت تھی اور باعتبار زمانہ کے آپ کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی شامل ہے جیسا کہ گذشتہ احادیث میں حضرت حسنؓ کی حدیث میں تبصریح گذر چکا ہے، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ: أَنَا رَسُولٌ مِّنْ أَدْرِكُهُ حَيَاتًا وَمَنْ يُّؤَدُّ بَعْدِي (یعنی میں اس شخص کا بھی رسول ہوں جس کو میں اپنی زندگی میں پا لوں اور اس شخص کا بھی جو میرے بعد قیامت تک پیدا ہوگا)۔

بہر حال آپ کی نبوت تمام اقوام عالم کے لئے اور قیامت تک ہر زمانہ کو شامل ہے اور قیامت تک آپ کی نبوت کا سلسلہ باقی ہے، جب یہ ظاہر ہے تو آپ کی نبوت کے

ہوتے ہوئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ورنہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نبوت کی توہین ہوگی، اور احادیث ذیل بھی اسی مضمون کی تائید کرتی ہیں۔

**حدیث نمبر ۱۶۹** | عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَهُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ (رواه احمد في مسنده والطبرانی في الكبير) ترجمہ: "حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اہل عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مومنین کے لئے ہدایت۔ (مسند احمد و معجم کبیر طبرانی)۔"

**حدیث نمبر ۱۷۰** | عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلنَّاسِ كَأَنَّهُ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (کنز، ص ۱۱۱ ج ۶) ترجمہ: "حضرت مسور بن مخرمہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

**حدیث نمبر ۱۷۱** | وَمِثْلُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ مَسْرُوقٍ وَابْنِ نَعِيمٍ وَابْنِ النُّجَّارِ ترجمہ: "حضرت انس سے بھی یہی مضمون ایک روایت حسن بن سفیان اور ابن منذر اور ابو نعیم اور ابن النجار میں مروی ہے (خصائص کبریٰ، ص ۱۶ ج ۱)۔"

**حدیث نمبر ۱۷۲** | عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ مَرْفُوعًا خَيْرًا مِنْ أَبِي أَدُوْلَةَ وَأَخِيهَا وَأَوْلِيَّهَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَآخِرُهَا فِيهِمْ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَبَيْنَ ذَلِكَ نَهْجٌ أَعْوَجٌ لَيْسَ بِأَمْتِكُمْ وَكُتِبَتْ مِنْهُمْ . رواه ابو نعیم فی الحلیة مرسلًا (من الکنز، ص ۱۳۲ ج ۶) ترجمہ: "حضرت عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا بہترین طبقہ اس کا سبک پہلا اور سبک آخری طبقہ ہے، کیونکہ پہلا طبقہ میں اللہ کا رسول (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں، اور آخری طبقہ میں حضرت عیسیٰؑ ہیں اور اس کے درمیان بیڑے راستہ والے ہیں، تم میں وہ ہیں اور تم ان میں سے (علاؤ نعیم مرسلًا)۔"

**حدیث نمبر ۱۷۳** | عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو وَالْعَدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ثُمَّ قَالَ رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ الْأَنْبِيَاءِ كَأَنَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ، فَتَنَ أَجَابَنِي فَلَهُ الْجَنَّةُ نَزْلًا وَتَوَابًا وَمَنْ عَصَانِي كَانَتْ لَهُ النَّارُ مُنْقَلَبًا (الحديث، من الکنز)

ترجمہ ۱۔ "حضرت زمل بن عمرو عدری رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور پھر فرمایا کہ جس نے میری دعوت قبول کی اس کے لئے جنت میں بہمانی ہے، اور جس نے نافرمانی کی اس کے لئے جہنم ٹھکانا ہے۔"

حدیث نمبر ۱۷۱ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَّ اللَّهَ أَيَّدَ فِي يَأْزَبَعَةَ وَرِثَاءِ اثْنَيْنِ مِنَ أَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاثْنَيْنِ مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (خَطِيبِ طَرَانِي وَبَارِئُ) ترجمہ ۱۔ "حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار وزیروں کے ساتھ میری تائید فرمائی دو آسمان والوں میں سے یعنی جبرائیل و میکائیل اور دو زمین والوں میں سے یعنی ابوبکرؓ و عمرؓ (طبرانی و بزار)۔"

اس سے بھی ثابت ہوا کہ تمام اقوام عالم قیامت تک آپ ہی کی امت ہوگی حتیٰ کہ نزولِ عیسیٰ کے بعد بھی سب لوگ آپ ہی کی امت ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰؑ باوجود عہدہ نبوت پر باقی رہنے کے اس امت کے لئے نبی ہو کر نہ آئیں گے، بلکہ جس طرح پہلے نبی اسرائیل کے نبی تھے اسی عہدہ نبوت پر ہوں گے۔

حدیث نمبر ۱۷۲ | عَنْ ابْنِ الدُّوَاءِ مَرْفُوعًا رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِنِ حَوْلِ الْعَرَشِ فَمِنْدًا خَصَاءَ مَكْتُوبٍ فِيهَا يَعْلَمُ نُورًا أَبْيَضَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَوَاهُ ابْنُ جَبَانَ فِي الضَّعْفَاءِ وَالِدِ الدَّارِ قَطْنِي فِي الْأَفْرَادِ (کنز، ص ۱۳۸ ج ۶) ترجمہ ۱۔ حضرت ابوالدرداءؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ شبِ اسیری میں ایک بہزبوتی دیکھا، جس میں نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر الصدیق (ابن جبان، دارقطنی)۔"

حدیث نمبر ۱۷۳ | عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ فِي آخِرِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عُمَرُ الْفَارُوقُ وَعُمَانُ ذُو النُّوَرَيْنِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ (کنز انی الخصائص)

ترجمہ ۱۔ "حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث ابن عساکر نے روایت کی ہے، اور اس کے آخر میں ہے ابوبکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین۔"

حدیث نمبر ۱۷۴ | عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَوْرَةِ إِبْنِ السَّمَاءِ مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إِلَّا وَجَدْتُ اسْمِي مَكْتُوبًا فِيهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ

حَلْفِي - اخروجه ابويعلى والطبراني في الادسط وابن عساكر وابن عرفة في جزئيه ترجمه ۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب امرئی میں نے ہر آسمان سے گذرتے ہوئے وہاں اپنا نام اور اس کے پیچھے ابو بکر الصدیقؓ لکھا ہوا پایا (روایت کیا اس کو ابو یعلیٰ، طبرانی نے اوسط میں، ابن عساكر نے اول ابن ہنف نے حبزہ میں) (کذا فی الخصائص)“

ان احادیث سے تبصریح ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب وہ نبی نہیں ہیں تو اور کیسے نبی ہو سکتا ہے، ورنہ غیر کا نبی سے افضل ہونا لازم آئے گا۔

**ناورہ** | ابن عساكر اور ابن نجار نے اپنی اپنی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ابوالحسن علی بن عبداللہ البہاشمی الرقی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہندوستان کے بعض شہروں میں گیا، میں نے اس کے ایک گاؤں میں سیاہ گلاب دیکھا جس پر گلاب کا بڑا پھول کھلتا تھا، اس کی خوشبو نہایت عمدہ اور رنگ سیاہ ہوتا تھا، جس پر سفیدی سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابوبکر الصدیق عمور الفاروق۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور یہ خیال کیا کہ مصنوعی ہے کسی نے لکھ دیا ہوگا۔ مگر جب میں نے اس کے دوسرے غنچے کو جو ابھی کھلا نہیں تھا توڑ کر دیکھا تو اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا پھول نکلا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے شہر کے لوگ سب پتھروں کو پوجتے تھے، کوئی اللہ کو جانتا بھی نہ تھا (کذا فی الخصائص الکبریٰ للسیوطی، ص ۸ ج ۱۱)

**حدیث نمبر ۱۷۸** | عن جابر قال قال رسول اللہ علیہ وسلم انی تزکرت فیکم ما ان اتخذتم بہ لکن تفضلوا کتاب اللہ وعترتی اهل بیتی رواہ ت (کذا فی الکتر ص ۳۳)

ترجمہ ۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جن کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی اہل بیت ہیں (ذکرنا

و جامع ترمذی شریف)“

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد تمام انسانوں کی نجات کے لئے قرآن کریم اور اہل بیتؑ و صحابہؓ کے اتباع کو مدار ہدایت قرار دیا ہے، جو اس کی دلیل ہے

کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ در نہ ضروری تھا کہ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کا ذکر فرماتے جو بعد میں ہونے والا ہے۔

اس مضمون کی احادیث ذخیرہ حدیث میں بے شمار ہیں جن میں سے بعض ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

حدیث نمبر ۱۷۹ | عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِثٍ مِثْلَهُ دَلْفَةُ ابْنِ تَارِكٍ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَمْدُودَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّمَا لَنْ يَنْفَعَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الرَّحْمَنَ . رواه احمد في مسنده والطبرانی في الكبير (کنز ص ۱۳۴ ج ۱)

ترجمہ ۱۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر اپنے دو قائم مقام چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو زمین و آسمان کے درمیان خدائی سلسلہ ہے اور دوسرے میری عزت اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے (سنن صحیحین)

حدیث نمبر ۱۸۰ | عَنْ زَيْدِ بْنِ أَوْقَمٍ مِثْلَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (كذا في الكفر)

ترجمہ ۲۔ حضرت زید بن ارقم سے بھی اسی مضمون کی حدیث ترمذی نے روایت کی ہے (کنز العمال)۔

حدیث نمبر ۱۸۱ | عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَإِبْنِ بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ (مسند الكفر)

ترجمہ ۳۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی مضمون کی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے۔

حدیث نمبر ۱۸۲ | عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سَارِيَةَ مَرْفُوعًا أَوْصَيْتُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

وَلَوْ أَمَرْتُكُمْ عَبْدًا وَحَبِيبِي فَأَلَاةٌ مَنْ يَعْشُرُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرِي إِخْتِلَافًا كَثِيرًا

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا

بِالنَّوَاجِذِ وَإِنَّا كُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ

ضَلَالَةٌ . رواه احمد في المسند وابوداؤد والترمذی وابن ماجه والحاكم

في المستدرک (کنز ص ۱۳۴ ج ۴)

ترجمہ ۴۔ حضرت عمران بن ساریہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اور مسلم حکام کی اطاعت کرو، اگرچہ ایک

حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے، اس لئے کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ ہے گا

وہ بہت اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے

اتباع کو لازم سمجھو، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں میں پکڑ لو، تم نئی باتوں سے بچو، کیونکہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے (ابوداؤد ترمذی)

ابن ماجہ، مسند امام احمد، حاکم (ارکتر اعمال، ص ۱۴۴ ج ۳)

حدیث نمبر ۱۸۳ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِلَى تَرْكُوتِ فَيْكُمُ مَا اِنْ اَعَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَقْبَلُوا

أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَرُسُلَهُ نَبِيِّكُمْ - رواه الحاكم في المستدرک (من الكنز ج ۳)

ترجمہ ۱۰۰ - حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم نے ان کو لازم پکڑا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے،

ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے نبی کی سنت (المحدث، مستدرک) =

حدیث نمبر ۱۸۴ | وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَارِدِيِّ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَاحْمَدَ وَابْنَ

سَعْدَ وَابْنَ بَعْلَى (کنز، ص ۱۴۷ ج ۳)

ترجمہ ۱۰۱ - "حضرت سعیدؓ سے بھی یہی مضمون مروی ہے (امام احمد، ابن ابی شیبہ، ابویعلیٰ) =

حدیث نمبر ۱۸۵ | وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَ

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ (کنز، ص ۱۴۷ ج ۳)

ترجمہ ۱۰۲ - حضرت زید بن ثابتؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث امام احمد اور طبرانی اور سعید

بن منصور نے روایت فرمائی ہے (کنز، ص ۱۴۷ ج ۱)

حدیث نمبر ۱۸۶ | عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّيْبَةَ وَالْخَطِيبِ (کنز، ص ۱۴۸ ج ۱)

ترجمہ ۱۰۳ - حضرت جابرؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث ابن ابی شیبہ اور خطیب نے روایت کی ہے =

حدیث نمبر ۱۸۷ | عَنْ مَعَاذِ بْنِ مَعَاذٍ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ (کنز، ص ۱۴۸ ج ۱)

ترجمہ ۱۰۴ - حضرت معاذؓ سے بھی یہی مضمون دہلی نے روایت کیا ہے =

ان سب احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے جو دستور العمل

تجویز فرمایا ہے اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ بعد میں کوئی نبی مبعوث ہو گا جو تمہاری ہدایت کا کفیل ہو گا۔

حدیث نمبر ۱۸۸ | عَنْ سَعْدِ بْنِ مَرْفُوعًا رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا بِالْإِسْلَامِ فَبَيْنَا

رَوَاهُ ابْنُ السَّنَنِ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ -

ترجمہ ۱۰۵ - میں عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ پر اور نبوت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین کے لئے

اسلام پر راضی ہوں، یعنی ان کے سوا مہر عبود اور آپ کے بعد ہر مٹی نبوت اور ہر مٹی کبریا ہوں؟

حدیث نمبر ۱۸۹ | من طریق سعید بن خنیس عن شیبہ بن اہل الشام مَرْفُوعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَن تَمَتَّعَ اللَّهُ وَتَلَنَ مَوَاسْتَبِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الْمُهَادِيَةِ الْمُهَدِيَّةِ نَفَعُوا عَلَيَّ مَا بَالِغًا

وَأَنِ اسْتَعِيلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا. رواه البغوي (کنز، ص ۵۴، ۱۱۷)

ترجمہ ۱۔ "جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو، اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ روایت کیا اس کو بغوی نے (کنز، ص ۵۴، ۱۱۷)

حدیث نمبر ۱۹۰ | عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا مِنْ أَهْلِ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ. (طبرانی (کنز، ص ۵۵، ۱۱۷)

ترجمہ ۱۔ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حاکم کی امانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اور جو اس کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔"

حدیث نمبر ۱۹۱ | عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ عِنْدَ السَّجِسِيِّ.

ترجمہ ۱۔ "حضرت ابن عباسؓ سے یہی مضمون سجسی نے بھی روایت کیا ہے؟"

حدیث نمبر ۱۹۲ | عَنْ حُدَيْفَةَ مِثْلُهُ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ (کنز، ص ۵۵، ۱۱۷)

ترجمہ ۱۔ "حضرت حذیفہؓ سے بھی یہی مضمون دلمی نے روایت کیا ہے؟"

حدیث نمبر ۱۹۳ | وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَلُوا

بِالْقُرْآنِ أَحَلُّوا أَحْلَالَهُ وَحَرَمُوا حَرَامَهُ وَرَأَتْكَ رَأْيَهُ وَلَا تَكْفُرُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَا

تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَرُودُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى أَرْبِي الْعِلْمِ مِنْ بَعْدِي كَيْمَا يُخْبِرُكُمْ

وَأَمِنُوا بِالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالرَّبُّورِ وَمَا أُوتِيَ السَّبْيُونَ مِنْ رَبِّهِمْ. رواه

الطبرانی في الكبير والحاكم في المستدرک (من الکنز، ص ۴۹، جلد ۱)

ترجمہ ۱۔ "حضرت معقل بن یسارؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر عمل کرو،

۱۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اختلاف و اشتباہ کے موقعوں پر اہل علم کی تقلید کرنی چاہئے اور یہ تقلید صحیح

نبوت کی اطاعت ہے، نہ کہ شرک فی النبوۃ جیسا کہ ہمارے زمانہ کے بعض جہلاء کا خیال ہے، ۲۔

اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اور اس کی اقتدار کرو، اور اس کے کسی حرفت کا انکار نہ کرو، اور اس کی جو آیت تم پرشتہ ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور میرے بعد اہل علم کی طرف رجوع کرو، تاکہ وہ تمہیں صحیح تفسیر بتلائیں، اور تورات و انجیل و زبور اور تمام ان کتابوں یا صحف پر ایمان لاؤ جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں (مسند رک حاکم، معجم کبیر للطبرانی) :-

حدیث نمبر ۱۹۳ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ سُنَّةٌ مِنْ يُحْيِدُ دُلْهَا دِينَهَا. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة (ص ۳۳۸) ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر برس سال کے ایک مجدد بھیجے گا جو اس کے دین کو درست کرے گا، اور جو کچھ اس میں رخنہ واقع کر دیئے گئے ہیں ان کا انسداد کرے گا (کنز العمال ص ۳۳۸)۔

حدیث نمبر ۱۹۵ | عَنْ تَسِيمِ الدَّارِيِّ مَرْفُوعًا لِلَّذِينَ التَّصِيحَةَ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا قِيَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتِهِمْ (رواه مسلم) ترجمہ :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، بہنے عرض کیا کہ کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں اور مسلمانوں کے اماموں اور عام مسلمانوں کی :-

حدیث نمبر ۱۹۶ | عَنْ حُدَيْفَةَ مَرْفُوعًا اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (کنز، ص ۱۳۲)۔

ترجمہ :- حضرت حذیفہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دو شخصوں کا اتباع کرو جو میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یعنی ابو بکرؓ و عمرؓ۔ روایت کیا اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے اور امام احمد نے اپنی مسند میں (کنز، ص ۱۳۲) :-

حدیث نمبر ۱۹۷ | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ أُمَّةٍ عَطَا شَأْنًا لِمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ (رواه الرافعي (کنز، ص ۱۶۱)۔

ترجمہ :- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ساری امتیں پیاسی آئیں گی مگر جو شخص کہ ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ کی محبت رکھتا ہوگا وہ پیاسا نہ ہوگا۔

روایت کیا اس کو امام رافعی نے (کنز، ص ۱۶۱)۔

حدیث نمبر ۱۹ | عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا اَنَّكَ ذَا بَالٍ لِّدِينٍ مِنْ اَصْحَابِ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ  
اِهْتَدَا وَابْنِ مَسْعُودٍ وَتَسْلُو بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ . رواه الترمذی اکنز  
صفحہ ۱۳۲ جلد ۶۔

ترجمہ ۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ  
آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اطاعت کرو جو میرے صحابہ میں سے میرے بعد ہوں گے،  
یعنی ابوبکرؓ اور عمرؓ، اور عمارؓ کی سی عادت اختیار کرو، اور عبداللہ بن مسعودؓ کے عہد کے ساتھ رکھے؟

حدیث نمبر ۱۹۹ | عَنْ حَدِّ يَقَّةٍ مِثْلُهُ عِنْدَ الرَّؤْيَانِي (کنز، ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت یاقہؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث روایانی نے نقل کی ہے؟

حدیث نمبر ۲۰۰ | وَعَنْ اَكْبَسٍ مِثْلُهُ (کنز، ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت اکبؓ سے بھی یہی مضمون ابن عدی نے روایت کیا ہے؟

حدیث نمبر ۲۰۱ | عَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ عِنْدَ الطَّبْرَانِي فِي الْاَوْسَطِ (کنز، ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت جابرؓ سے بھی یہی مضمون مرفوعاً مروی ہے (دیکھو معجم اوسط طبرانی)؟

حدیث نمبر ۲۰۲ | عَنْ اَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ (کنز، ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے بھی حدیث مروی ہے؟

حدیث نمبر ۲۰۳ | عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُهُ (کنز، ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت ابودرداءؓ سے بھی یہی مضمون منقول ہے؟

حدیث نمبر ۲۰۴ | عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا

وَحَوَارِيَّ الرَّبِّيُّ . اخبره البخاری ومسلم والترمذی (الرياض المنضمة للطبرانی ص ۱۳۲ ج ۶)

ترجمہ ۱۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لٹیک

مخلص و مددگار ہوتا ہے اور میرے مخلص و مددگار زبیرؓ ہیں (بخاری، مسلم، ترمذی)؟

حدیث نمبر ۲۰۵ | عَنْ اَكْبَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنٌ هَذِهِ الْاُمَّةِ

اَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْخُوَارِزْمِيِّ . رواه البخاری ومسلم (الرياض المنضمة ص ۳۰۸ جلد ۲)

ترجمہ ۱۔ حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ایک امت کا

ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن الخوارزمیؓ ہیں (بخاری، مسلم)؟

حدیث نمبر ۲۰۶ | عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامٌ هَذِهِ الْاُمَّةِ عَنِي

الْعَبَاسُ وَكُلِّ شَيْءٍ سَبَطٌ وَسَبَطُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْزَمْرُ (۶۳، ۱۶۳)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور اس امت کا اعلیٰ حصہ میرے چچا عباس ہیں اور ہر شے کے لئے ایک شجرہ (درخت) ہے کثیر الاغصان (زیادہ پتیوں والا یعنی پھیلا ہوا) اور اس امت کے شجرہ حسن اور حسین ہیں۔

یہ بشارت ہر ان دونوں صاحبزادوں کے کثیر الاولاد ہونے کی قیامت تک، واللہ اعلم، منجید میں ہے السبط ایضا الشجرۃ لها اغصان کثیرۃ واصلها واحد۔ صفحہ ۳۲۶ مطبوعہ بیروت۔

حدیث نمبر ۲۰۷ | عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. (خطابی (کنز) ۱۶۳، ۶۳)

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کے بہترین فرد عبداللہ بن عباسؓ ہیں (کنز، ص ۱۶۳، ۶۳)۔

حدیث نمبر ۲۰۸ | عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا أَعْلَمُهَا (أَيُّ الْأُمَّةِ) بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ

بْنِ جَبَلٍ (کنز، ص ۱۶۳، ۶۳)

ترجمہ: حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جانتے والے معاذ بن جبلؓ ہیں (کنز، ص ۱۶۳، ۶۳)۔

حدیث نمبر ۲۰۹ | عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنِّي نَبِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبْدَالَ

يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمْ أَوْلَعُونَ رَجُلًا كَمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا يُسْتَفِي

بِهِمُ الْغَيْثُ وَيَنْتَقِصُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ. رواه احمد (مشکوٰۃ صفحہ ۵۷۵)

ترجمہ: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابدال ملک شام میں ہوں گے اور وہ چالیس آدمی ہیں جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے، ان کی برکت سے قحط رفع ہوگا، اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی (مسند احمد)۔

حدیث نمبر ۲۱۰ | عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَأْتِيكُمْ

مِنْ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسُ (القولہ) فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَفْعِرْ لَكُمْ. رواه مسلم (مشکوٰۃ ص ۵۷۵)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص تمہارے پاس یمن سے آئیں گے جن کا نام اویس ہوگا، تم میں سے جو شخص ان سے

ملے اپنے لئے استغفار کر لے، (کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہوں گے) روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے (مشکوٰۃ، ص ۵۷۵)۔

## احادیث مذکورۃ الصدق ختم نبوت کا ثبوت

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و شفقت جو امت مرحومہ کے ساتھ ہر وہ محتاج بیان نہیں، اور پھر یہ بھی مسلم ہے کہ زمانہ ماضی و مستقبل کے جتنے علوم و حالات آپ کو عطا کئے گئے ہیں وہ نہ کسی نبی کو حاصل ہیں اور نہ کسی فرشتہ کو۔

ان دونوں باتوں کے سمجھنے کے بعد یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لئے دین کے راستہ کو ایسا ہموار اور صاف بنا کر چھوڑا کہ جس میں دن و رات برابر ہوا اس پر چلنے والے کو ٹھوکر لگنے یا راستہ بھولنے کا اندیشہ نہ ہے اس میں جتنے خطرات ایسے مہالک کے مواقع ہونگے وہ سب آپ نے ان کو بتلادینے ہونگے، نیز اس راستے کے ایسے ایسے نشانات ان کو بتلادینے ہونگے کہ جو تمام راستہ میں ان کی رہبری کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم حدیث نبوی کے دفتر پر نظر ڈالتے ہیں تو ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان امور میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا، آپ کے بعد جتنے آدمی قابل اقتدار رہنمائی پیدا ہونے والے تھے آپ نے اکثر کے نام لے لے کر بتلادیا، اور امت کو ان کی پیروی کی ہدایت فرمائی، جن میں سے ”مثنیٰ نمونہ از خرواے“ چند احادیث اور پر ذکر کی گئی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت اور مریانہ تعلیم اور پھر احادیث مکتوبہ بالا کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان بلکہ ایک منصف مزاج انسان یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی (اگرچہ وہ بقول مرزا ظلی یا بروزی رنگ میں سہی) اس عالم میں پیدا نہیں ہو سکتا، ورنہ لازمی تھا کہ آپ ان سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس نبی کا ذکر فرماتے، کیونکہ ان سب کا اتباع امت کی نجات کا مدار انہیں، اور نبی خواہ کسی قسم کا ہو جب کسی امت میں بھیجا جائے تو اس کی پیروی اس امت کے لئے مدار نجات ہو جاتی ہے، بغیر اس کی پیروی کے ان کے سارے عمل ضبط سمجھے جلتے ہیں۔

مگر عجیب تماشہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خلفائے راشدین کے اقتدار کا حکم فرماتے ہیں، ائمہ دین اور امرار کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ ایک حبشی غلام کی بھی (جب کہ وہ امیر بن جائے) اطاعت امت پر واجب قرار دیتے ہیں، مواقع اشتباہ و اختلاف میں اہل علم و اجتہاد کی تقلید کی تاکید کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی اقتدار کی دعوت دیتے ہیں، حضرت زبیر، ابو عبیدہ بن الجراح،

معاذ بن جبل، عبداللہ بن عباس وغیرہ صحابہ کرام کے نام لے لیکر انہیں واجب التکریم اور قابل اقتدار فرماتے ہیں، اویس ترسی کے آنے کی خبر اور ان سے استغفار کرانے کی تسلیم دیتے ہیں، مجددین امت کا ہر صدی پرانا، ابدال کا ملک شام میں پیدا ہونا، اور ان کا مستجاب الدعوات ہونا وغیرہ وغیرہ مفصل بیان فرماتے ہیں۔

لیکن ایک حدیث میں بھی یہ بیان نہیں فرماتے کہ ہمارے بعد فلاں نبی پیدا ہوگا تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرنا، حالانکہ ایک روایت رحیم بنی کا پہلا فرض یہ تھا کہ وہ آلے نبی کے مفصل حالات اپنی امت کو خوب واقف کراھے، اس کا نام، مقام، پیدائش، تاریخ، حلیہ، والدین کا نام وغیرہ بتلاوے، تاکہ ان کو آنے والے نبی کی پہچان میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔

اگر پہلو میں دل اور دل میں ایمان یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ہے تو تمام احادیث سابقہ کو چھوڑ کر صرف یہی احادیث ایک انسان کو اس پر مجبور کرنے کے لئے کافی ہیں کہ آپ کے بعد تاقیامت کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

یہ دو سو گزس احادیث نبویہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا قطعی اعلان فرمایا کہ ہر قسم کی تاویل اور تخصیص کا

راستہ بند کر دیا ہے!

جس کے آنکھیں ہوں دیکھو اور جس کے کان ہوں سنے۔ ان فی ذلک لعبرة لمن کان  
 له قلب او النبیین والشهداء والصدیقین والصالحین، وما سمع لك من شیء یارب  
 العالمین علی سیدنا محمد بن عبد اللہ سید المرسلین وامام المتقین و  
 خاتم النبیین رسول رب العالمین الشاهد البشیر الداعی الیک باذنک

المنیر وعلیہ السلام

(رواہ عیاض فی الشفاء عن علیؑ)

ختم النبوة — حصہ دوم  
 تمام شد

٩٣٦  
٣  
٥  
ختم النبوة

في الأثر

حصّة سوم

حصہ سوم

## ختم النبوة في الآثار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى — أما بعد :-  
 پہلے دو حصوں میں ایک سو آیات قرآنیہ اور دوسو سے زائد احادیث نبویہ علیٰ صاحبہا  
 الصلوٰۃ والسلام اس دعویٰ کی شہادت میں ناظرین کے سامنے آچکی ہیں کہ ہمارے آقائے نامدار  
 خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں، اور کسی قسم کا نبی تشریحی  
 یا غیر تشریحی طور پر آپ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ہے۔  
 اب اس تیسرے حصہ میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ملت اسلامیہ کے ان ضروریات  
 میں سے ہے کہ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج پونے چودہ سو برس  
 تک تمام امتِ اُمیہ کا قطعی اجماع و اتفاق رہا ہے جس نے کسی مسلمان گھرانے میں پرورش پائی  
 ہو وہ کبھی اس مسئلہ میں شبہ یا تاویل کے درپے نہیں ہو سکتا۔

علمائے ربانیین کے تمام طبقات محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء کی غیر مخصوص  
 تصانیف ہمارے اس دعوے کی ناقابلِ انکار شہادتوں سے لبریز ہیں جن کو اگر ہم باستیعاب  
 نقل کرنے کا ارادہ کریں تو نہ صرف یہ رسالہ ایک عظیم الشان دفتر بن جائے گا، بلکہ یقین ہے  
 کہ ہم لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور ان ائمہ سلف اور علمائے امت کے اقوال و تصریحات  
 ختم نہ ہوں گی۔ اس لئے بالاختصار اقول اجماع امت اور بالخصوص اجماع صحابہ کی نقلیں  
 پیش کر کے اہل اجماع میں سے بعض حضرات کے اقوال بطور نمونہ بدیہ ناظرین کئے جاتے  
 ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔

## ایک ضروری گزارش

مرزا جی اور ان کی امت چونکہ ختم نبوت کے تمام دلائل و براہین کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ ان سے نبوت تشریحی کا اختتام مراد ہے، غیر تشریحی نبوت اس میں داخل نہیں۔ اس لئے ہم نے اس سے پہلے دونوں حصوں میں اکثر آیات و احادیث کے ذیل میں اس پر تنبیہ کی ہے، کہ تشریحی نبوت نے سینکڑوں مواقع میں صراحتاً اور اشارتاً ختم نبوت کو بیان کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی تشریحی و غیر تشریحی کی تقسیم نہیں سنرائی، بلکہ بہت جگہ صراحتاً اس کی نفی کر دی گئی۔ اسی بنا پر ہمیں اس حصہ میں بھی ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر بات اور ہر عنوان میں اس کا لحاظ رکھیں کہ ساری امت اسلامیہ میں سے کسی ایک نے بھی کہیں تفصیل کی ہے کہ ختم نبوت سے مراد صرف تشریحی نبوت کا اختتام ہے، اور جب یہ نہیں تو پھر مرزا اور مرزائیوں سے پوچھیں کہ کیا وہ اپنی اس طبع زاد تحقیق پر کوئی حجت اسلامی دلائل میں سے پیش کر سکتے ہیں؟

## اجماع کی حقیقت اور اس کی عظمت

خدا سے تعالیٰ کی ہزاروں ہزار درود اس ذات مقدس پر جس کے طفیل میں ہم جیسے سراپا گناہ اور سراسر خطا و قصور بھی خیر الامم، امت وسط، امت مرحومہ، شہدائے خلق کے القاب گرامی کے ساتھ پچائے جاتے ہیں

کہ دارِ ذریعہ گردوں میں سامانے کہ من دام

وہ بے شمار خداوندی انعام و اکرام جو ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم پر مبذول ہوئے ہیں، اجماع امت بھی ان میں سے ایک امتیازی فضیلت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس امت کے علمائے مجتہدین اگر کسی مسئلہ میں ایک حکم پر اتفاق کر لیں تو یہ حکم بھی ایسا ہی واجب الاتباع اور واجب التعمیل ہوتا ہے جیسے قرآن و حدیث کے صریح احکام۔ جس کی حقیقت و دوسرے عنوان سے یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم کر دی گئی تو آپ کے بعد کوئی ہستی معصوم باقی نہیں رہتی جس کے

حکم کو غلطی سے پاک اور ٹھیک حکم خداوندی کا ترجمان کہا جاسکے، اس لئے رحمت خداوندی نے امت محمدیہ کے مجموعہ کو ایک نبی معصوم کا درجہ دے دیا، کہ ساری امت جس چیز کے اچھے یا بُرے ہونے پر متفق ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا امت کے مجموعہ نے سمجھا ہے۔

اسی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے۔  
 لَنْ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ ۖ  
 "یعنی میری امت کا مجموعہ کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتا"۔

اسی لئے اصول کی کتابوں میں اس کے حجت ہونے اور اس کے شرائط و لوازم پر مفصل بحث کی جاتی ہے، اور احکام شرعیہ کی جگہوں میں سترآن و حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع کو رکھا جاتا ہے، اور درحقیقت اجماع کا شرعی جگہوں میں داخل ہونا اور اس امت کے لئے معصوم ہونا خود بھی ہمارے زیر بحث مسئلہ ختم نبوت کی روشن دلیل ہے، جیسا کہ صاحب توضیح لکھتے ہیں۔

"اور وہ حکم جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا کسی زمانہ میں اتفاق ہو جائے اس کا واجب تسلیم ہونا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کسی پر وحی نہیں آئے گی، اور اُدھر یہ اشارہ خداوندی ہے کہ ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو احکام صریح وحی سے ثابت ہوئے ہیں وہ بہ نسبت روزمرہ کے پیشینہ والے واقعات کے نہایت قلیل ہیں، پس جب ان واقعات کے احکام وحی صریح سے معلوم نہ ہوئے، اب اگر اجماع و قیاس کو

وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ  
 مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فِي عَضُدٍ عَلَى أَمْرٍ فَهَذَا مِنْ  
 حَوَائِجِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
 فَإِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا رُوحِي بَعْدَهُ  
 وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَيْسَ لَكُمْ  
 أَنْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَا شَكَّ  
 أَنَّ الْأَحْكَامَ الَّتِي تَنْبَغِي بِصِيغَةِ  
 الْوَحْيِ بِالنَّبِيَّةِ إِلَى الْخَوَارِجِ  
 الْوَارِثَةِ قَلِيلَةٌ غَايَةُ الْعِلَّةِ فَلَوْ  
 لَمْ نَعْلَمْ أَحْكَامَ تِلْكَ الْخَوَارِجِ  
 مِنَ الْوَحْيِ الصَّرِيحِ وَبَقِيَّتِ

أَحْكَامُهُمَا مُهْتَلِكَةٌ لَا يَكُونُ الدِّينُ  
كَامِلًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْمُجْتَمَعِ  
وَأَلَا يَتَأْتِيهِمْ أَحْكَامُهَا مِنْ  
الْوَسْطِيِّ (توضیح مصری، ص ۳۹ ج ۱)

حجت نہ بنایا جائے، اور شریعت میں ان  
واقعات کے متعلق احکام نہ ہوں تو دین  
کامل نہیں رہتا اس لئے ضروری ہو کہ امت  
کے مجتہدین کی وہی ان احکام کے استنباط کا حق حاصل ہے۔

الغرض جس طرح قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ ثابت ہوئے ہیں اسی طرح تصریح  
نصوص قرآن و حدیث اور باتفاق علمائے امت اجماع سے قطعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔  
البتہ اس میں چند درجات ہیں، جن میں سب سے مقدم اور سب سے زیادہ قطعی  
اجماع صحابہؓ ہے، جس کے متعلق علمائے اصول کا اتفاق ہے، کہ اگر کسی مسئلہ پر تمام  
صحابہ کی رائیں بالصریح جمع ہو جائیں تو وہ بالکل ایسا ہی قطعی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات۔  
اور اگر یہ صورت ہو کہ بعض نے اپنی رائے بیان فرمائی اور باقی صحابہؓ نے اس کی تردید  
نہ کی بلکہ سکوت اختیار کیا، تو یہ بھی اجماع صحابہ میں داخل ہے، اور اس سے جو حکم ثابت ہو  
وہ بالکل ایسا ہی قطعی ہے جیسے احادیث متواترہ کے احکام قطعی ہوتے ہیں۔

بلکہ اگر غور سے کام لیا جائے تو تمام اذکار شرعیہ میں سب سے زیادہ فیصلہ کن دلیل ہے،  
اور بعض حیثیات سے تمام حجج شرعیہ پر مقدم ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے مفہوم و معنی  
متعین کرنے میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، اجماع میں اس کی بھی گنجائش نہیں۔ چنانچہ  
حافظ حدیث علامہ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں:-

وَاجْتِمَاعُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ  
إِتْبَاعُهَا بَلْ هِيَ أَدْلَى الْحُجَجِ وَ  
هِيَ مَقْدَمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا وَ لَيْسَ هَذَا  
مَوْضِعَ تَمَرُّؤِ ذَلِكِ فَإِنَّ هَذَا  
الْأَصْلَ مُقْتَرَنٌ فِي مَوْضِعِهِ وَ لَيْسَ  
فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَ لَا بَيْنَ سَائِرِ  
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
خِلَافَتِ اللَّهِ .

اور اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے اس کا  
اتباع فرض ہے بلکہ وہ تمام شرعی مجتہدوں سے  
زیادہ مؤکد اور سب سے مقدم ہے، یہ موقع  
اس بحث کے پھیلانے کا نہیں، کیونکہ اپنے  
موقع (یعنی کتب اصول) میں یہ بات  
باتفاق اہل علم ثابت ہو چکی ہے، اور اس  
میں تمام فقہاء اور تمام مسلمانوں میں  
جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا بھی خلاف  
نہیں ہے

اس کے بعد ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہایت قوی اور صحیح روایات سے دکھلاتے ہیں کہ

## صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجتماع مسئلہ ختم نبوت پر اور اس کے منکر کے مرتکبوں کو واجب القتل ہونے پر ہوا ہے

سینہ کذاب کا دعویٰ نبوت | اسلامی تاریخ میں یہ بات درجہ تو اترو کو پہنچ چکی ہے کہ سینہ کذاب اور صحابہ کرام کا اس پر جہاد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعوائے نبوت کیا، اور بڑی جماعت اس کی پیر ہو گئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا ہم جہاد جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں کیا ہے وہ اسی کی جماعت پر تھا، جہور صحابہ مہاجرین و انصاریں اس کو محض دعوائے نبوت کی وجہ سے اور اس کی جماعت کو اس کی تصدیق کی بنا پر کافر سمجھا، اور باجماع صحابہ و تابعین ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وہی اسلام میں سب سے پہلا اجتماع تھا، حالانکہ سینہ کذاب بھی مرزا صاحب کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا منکر نہ تھا بلکہ بعینہ مرزا صاحب کی طرح آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا، یہاں تک کہ اس کی اذان میں برابر اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ پکارا جاتا تھا، اور وہ خود بھی بوقت اذان اس کی شہادت دیتا تھا، تاریخ طبری میں ہے:-

وَكَانَ يُؤَدِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَشْهَدُ فِي الْأَذَانِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَكَانَ الَّذِي يُؤَدِّنُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ التَّوَّاحِةِ وَكَانَ الَّذِي يُقِيمُ لَهُ حَجِيرُ بْنُ عُمَيْرٍ وَيَشْهَدُ لَهُ وَكَانَ مَسِيكَةُ إِذَا دُنِيَ حَجِيرُ مِنَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اذان دیتا تھا اور اذان میں یہ گواہی دیتا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے اور اس کا مؤذن عبد اللہ بن نوح اور اقامت کہنے والا حمیر بن عمیر تھا، اور جب حمیر شہادت پر پہنچتا تھا تو سینہ کذاب باواز بلند کہتا تھا کہ حمیر نے صاف بات کہی، اور صحرا اس کی تصدیق کرتا تھا۔

(تاریخ طبری، صفحہ ۲۴۴ جلد ۳)

الشَّهَادَةَ قَالَ صَرَخَ حُجَيْرٌ فَيَزِيدُ فِي  
صَوْتٍ وَيَبَالِغُ التَّصْدِيقَ نَفْسُهُ اللَّهُ

(تاریخ طبری ص ۲۴۴ ج ۳)

الغرض نبوت و قرآن پر ایمان اور نماز روزہ سب ہی کچھ تھا، مگر ختم نبوت کے بڑے ہی مسئلہ کے انکار اور دعوائے نبوت کی وجہ سے باجماع صحابہ کا فرسبھا گیا اور حضرت صدیقؓ نے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار اور تابعین کا ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولیدؓ کی امانت میں سیلہ کے ساتھ جہاد کے لئے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔

جہاد صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس پر انکار نہ کیا اور کسی نے نہ کہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اُن کو کیسے کافر سمجھ لیا جائے۔ حضرت فاروقؓ رضی اللہ عنہ کا ابتداءِ خلاف کرنا اور بعد تحقیقِ حق کے صدیق اکبرؓ کے ساتھ موافقت کرنا جو روایات میں منقول ہے وہ بھی اس واقعہ میں نہیں تھا، بلکہ مانعینِ زکوٰۃ پر جہاد کرنے کے معاملہ میں تھا۔

بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا، صدیق اکبرؓ نے اُن پر جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت فاروقؓ نے دقت کی نزاکت اور مسلمانوں کی قلت و ضعف کا اندیشہ کر کے ابتداء اُن کی رائے سے خلاف ظاہر فرمایا تھا، لیکن حضرت صدیقؓ کے ساتھ تھوڑے سے مکالمہ کے بعد ان کی رائے بھی موافق ہو گئی۔

الغرض حضرت فاروقؓ کا ابتداءِ خلاف کرنا بھی سیلہ کے واقعہ میں ثابت نہیں جیسا کہ بعض غیر محقق لوگوں نے سمجھا ہے۔

الحاصل بلاخوف و بلا تکریر یہ آسمانِ نبوت کے ستارے اور حزبِ اللہ کا ایک جم غفیر یمامہ کی طرف بڑھا، اس کی پوری تعداد تو اس وقت نظر سے نہیں گذری مگر تاریخ طبری میں حضرت صدیق اکبرؓ کا ایک فرمان خالد بن ولیدؓ

لہ حضرت خالد جب سیلہ کذاب کو قتل کر کے اہل یمامہ پر فتح حاصل کر چکے تو سیلہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص بھامہ نامی کی لڑائی سے شادی کر لی، حضرت صدیق اکبرؓ کو خبر پہنچی تو ایک عتاب نامان کے پاس بیٹھا، جس کے الفاظ یہ تھے: بِرَأْدِكَ فَارِغَ تَشْكِيحُ النِّسَاءِ بِفِنَاءِ بَيْنَتِكَ دُمُ الْاَلْبِ وَ مَبِائِئِي وَ جَلِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُجْعِفْ بَعْدُ (تاریخ طبری، ص ۲۵۴ ج ۳)

کے نام درج ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ و تابعین اس جہاد میں شہید ہوئے ان کی تعداد بارہ سو ہے۔ نیز اسی تاریخ میں ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جو اس وقت مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی تھی اس کی تعداد چالیس ہزار مسلح جوان تھی، جن میں سے اٹھائیس ہزار کے قریب ہلاک ہوئے اور خود مسلمانوں ہی اسی فہرست میں داخل ہوا، باقی ماندہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے، حضرت خالدؓ کو بہت مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے، اور پھر صلح کر لی گئی۔

ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہؓ کی کتنی بڑی جماعت اس میدان میں آئی تھی جنہوں نے ایک مسئلہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے نہ دقت کی نزاکت کا خیال کیا اور نہ مسلمانوں کی بے سرو سامانی کا، اور نہ اس جماعت کے اذان و نماز اور تلاوت و اقرار نبوت اور تمام اسلامی احکام کے ادا کرنے کا، بلکہ اتنی بڑی عظیم الشان جماعت پر جہاد کرنے کے لئے باجماع و اتفاق اٹھ کھڑے ہوئے۔

## نتیجہ

① اس واقعہ میں بغیر اس کے کہ مسلمانوں کے دعویٰ پر دلائل اور معجزات طلب کئے جائیں اور اس کے حالات کا جائزہ لیا جائے، تمام صحابہؓ کے اس کو کذاب سمجھنے اور جہاد کیلئے آمادہ ہو جانے سے صاف معلوم ہوا کہ تمام صحابہؓ کرام کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی شخص کا دعویٰ نبوت کرنا خواہ وہ کسی تاویل اور کسی پیرایہ سے ہو باجماع صحابہ موجب کفر و ارتداد ہے۔

② اس سے یہ بھی بلا تکلف معلوم ہوا کہ مرزا صاحب اور مرزائیوں نے جو اپنے دعویٰ نبوت میں نبوت غیر تشریحی یا غیر مستقل، یا ظلی یا بروزی یا لغوی یا جزوی وغیرہ بے معنی الفاظ کی آڑ لی ہے، اور مسئلہ ختم نبوت کی تحریف کر کے ایک لفظ بے معنی بنا دیا ہے، اور چاہا ہے کہ مسلمانوں کی آنکھوں اور عقولوں پر پردہ ڈال دیں، ان کا یہ کید اور یہ تحریف انہیں کفر سے نہیں بچا سکتی، جیسا کہ باجماع صحابہؓ، مسلمانوں اور اس کی جماعت کی تاویلات اس معاملہ میں نہیں سنی تھیں، بلکہ مطلق دعویٰ نبوت کو کفر سمجھا گیا۔

③ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص تمام اسلامی فرائض و احکام کو بصدق دل تسلیم کرے

اور سب پر بطیب خاطر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے، لیکن احکام شرعیہ میں سے صرف ایک حکم کا (بشرطیکہ اس کا شرعی حکم ہونا قطعی اور یقینی ہو) انکار کر دے تو ایسا ہی کفر و ارتداد ہے جیسے تمام شریعت کا انکار کرنا، جیسا کہ مسیلمہ اور اس کی جماعت کو باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے اور نماز روزہ وغیرہ ادا کرنے کے کافر ہی سمجھا گیا۔

آج مرزائیوں کو اپنی اس کوشش پر ناز ہے جس کا نام انہوں نے تبلیغ اسلام رکھا ہے، لیکن مسیلمہ کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر یہ تبلیغ واقعی اور صحیح اسلام کی تبلیغ بھی تھی تب بھی اُن کے عقائد کفریہ کے ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ میں سوائے خسران کے کچھ نہ تھا۔

③ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کسی شخص کے اتباع اور پیروؤں کی کثرت اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی، ورنہ مسیلمہ کذاب کے متبعین کی کثرت اور شوکت و قوت بدرجہ اولیٰ اس کی حقانیت کی دلیل ہوتی، کیونکہ چالیس ہزار جوانوں کا لشکر جزار اس کا پتہ دیتا ہے کہ اُن کے پیچھے اور کتنے مرد و عورت اور بوڑھے بچے اس کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔

عجب ہے کہ آج مرزا صاحب کو اپنی ایک مٹھی بھر جماعت پر فخر ہی نہیں، بلکہ اس کو اپنی حقانیت کی ایک بڑی دلیل قرار دیتے ہیں، حالانکہ مرزائیوں کی تعداد آج تک بھی مسیلمہ کے متبعین کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی۔

⑤ صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت محمدیہ میں سے جو فرقہ کسی دُمدعی نبوت کی پیروی اختیار کر لے، وہ اسلام اور مسلمانوں سے اتنا بعید ہے کہ اسلام کے صریح مخالفین یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے مقابلہ کے وقت بھی اُن کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملا یا جاسکتا، جب کہ اسلام اپنے ذاتی نصف دبے سر و سامانی کے ساتھ تمام بیرونی و اندرونی دشمنوں کے ترغہ میں ہو۔

کیونکہ جس وقت مسیلمہ پر جہاد کیا جاتا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اسلام سخت بیچارگی و بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ادھر بیرونی دشمن یہود و نصاریٰ اور مشرکین جو ہر وقت موقع کے منتظر رہتے تھے، اس وقت مسلمانوں کو نگل جانے کے خواب دیکھنے لگے۔ ادھر خود مسلمانوں کے بہت سے قبائل اطرافِ مدینہ میں مرتد ہو کر اُن کے ساتھ مل گئے۔ ایک طرف یہاں میں مسیلمہ کے فتنہ نے ایک طوفان کی صورت اختیار کر لی، اور ہر طرف باہمی اختلافات کی بنیاد پڑ گئی۔ اسلام کے ذمہ دار

ارکان سخت تشویش میں ہیں۔ اس وقت اگر نئی روشنی کی لمحہ نہ سیاست سے شور مچایا جاتا تو بلاشبہ اس کو فرض بتلانے کے مسئلہ کذاب اور اس کی جماعت کو جو ایک درجہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے اور اکثر اسلامی احکام و عقائد کو تسلیم کرتی ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کر دوسرے مخالفین کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن وہاں سیاست الہیہ کی حکومت تھی، حضرت صدیق اکبرؓ اور جہور صحابہؓ نے ان میں سے کسی بات کی بھی پروا نہ کی، بلکہ سب پہلا جہاد انہی مرتدین پر کیا گیا، کیونکہ وہ اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی عزت و ذلت اور فتح و شکست ان کی مردم شماری کی کثرت کے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قبضہ میں ہے جس نے بدر میں ایک بے مرد سامان قلیل و ضعیف جماعت کو ہزاروں جوانوں کے باسامان لشکر پر فتح دی، اور وادی حنین میں باوجود کثرت تعداد اور ہر قسم کی قوت و طاقت کے شکست دے دی، وہ جانتے تھے کہ مسلمان اگر مسلمان ہوں تو تھوڑے سے بھی بہت ہیں ورنہ بہت بھی کچھ نہیں۔

الغرض اس واقعے سے ثابت ہوا کہ کسی سیاسی مصلحت کی بنا پر مسلمان کے مفہوم کو اتنا عام کر دینا کہ اس میں بہت سے کافر بھی داخل ہو جائیں اور اس طرح سے بیرونی مخالفین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی کثرت اور اتفاق دکھلانا سنتِ سلفِ سیاستِ شرعیہ کے خلاف بھی ہے، اور بے فائدہ بھی۔

دوسرے مدعیانِ نبوت اور سلف | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے مطابق امت میں صالحین کا ان کے ساتھ بتاؤ | بہت سے کذاب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر صحابہ و تابعین اور ان کے بعد تمام خلفائے اسلام اور پھر عام اہل اسلام نے ہمیشہ ہر قرن اور ہر شہر میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ایک مرتد کے ساتھ ہونا چاہئے۔

چنانچہ جب اسود غسانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے حکم سے صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح زمانہ خلفاء میں بھی جب کسی نے یہ دعویٰ کیا فوراً تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن کے کچھ مختصر واقعات حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں نقل فرمائے ہیں۔ (فتح الباری ص ۴۵۵، ۶۷)

امام بیہقیؒ کتاب المحاسن و المساوی میں نقل فرماتے ہیں کہ طلحہ نامی ایک شخص نے صدیق اکبرؓ کے عہد خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت صدیقؓ نے خالد بن ولید کو اس کے قتل کیلئے

بھیجا، مگر وہ شام کی طرف بھاگ گیا، ہاتھ نہ آسکا، اور صدیق اکبرؓ کی وفات کے بعد پھر خود بخود مسلمان ہو گیا۔ (کتاب المحاسن والمساوی، ص ۱۷۶۴)

خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عہدِ خلافت میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے علماء و قات کے (جو صحابہ و تابعین تھے) متفقہ فتویٰ سے اس کو قتل کیا، اور سولی پر چڑھایا۔ قاضی عیاض شفا میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں:-

وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ  
وَالْمَلُوكِ يَا شَبَاهِيمَ وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ  
وَقَتِيهِمْ عَلَى صَوَابٍ فِعْلِهِمْ وَالْمُخَالِفُ  
فِي ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كَافِرٌ .

”اور بہت سے خلفاء و سلاطین نے ان جیسے مدعیانِ نبوت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اور اس نماند کے علماء نے اُن کے اس فعل کے درخت ہونے پر اجماع کیا ہے اور جو شخص ایسے مدعیانِ نبوت کی تکفیر میں خلاف کرے وہ خود کافر ہے۔“

(شفا، قاضی عیاض)

خلیفہ ہارون الرشید کے عہدِ خلافت میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ میں نوح علیہ السلام ہوں، کیونکہ عمرِ نوح کے ایک ہزار پورے ہونے میں پچاس سال کی کمی باقی رہی تھی جس کے پورا کرنے کے لئے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ قرآن عزیز میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے ”أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا“ یعنی نوح علیہ السلام دنیا میں پچاس کم ایک ہزار سال زندہ رہے۔ ہارون الرشید نے علماء کے فتویٰ سے بحکم ارتداد اس کا گردن مار دیا، اور پھر عبرت کے لئے سولی پر لٹکا دیا۔ (کتاب المحاسن والمساوی للسیہتی، ص ۱۷۶۴)

ہمارے مرزا حجتی کے دعوے تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں، وہ آدم بھی ہیں، اور شیث بھی، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی عیسیٰ بھی ہوئے، داؤد بھی ہوئے، غرض سارے انبیاء کرام ہونے کا دعویٰ کیا (مرزا صاحب حاشیہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۱۷) میں فرماتے ہیں:- میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحق ہوں، میں اسمعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں منظر اتم ہوں، یعنی ظلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں۔

اور اس پر مزید یہ کہ اکثر انبیاء کی توہین بھی کی، مگر ان کی قسمت بابرکت سے مسلمانوں کا احساس یہاں تک باطل ہو گیا کہ ان کی ایک جماعت ان کی کفریات ہی کو اسلام سمجھنے اور کہنے کے لئے تیار ہو گئی، اور بڑی خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ اُن کا وجود باوجود انگریزی

سلطنت کے سایہ میں ظہور پذیر ہوا، اور پھر ان کے قدم کی برکت سے رہی ہی اسلامی سلطنتیں مٹی مٹ گئیں، اور اب میدان صاف ہو گیا، کوئی پوچھے والا نہ رہا۔

الغرض سیلمہ کذاب اور اس کے امثال کے یہ واقعات اور صحابہ کرام کا دعوائے نبوت معلوم کر کے بغیر مطالبہ معجزات کے ان کو کذاب و دجال اور مرتد قرار دینا اور قتل کرنا اور کسی ایک صحابی یا تابعی سے اس کے خلاف آواز بلند نہ ہونا اس بات پر صریح اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا دعویٰ کرے وہ اللہ اس کے تمام متبعین مرتد میں۔ (نعوذ باللہ منہ)

قاضی عیاضؒ اپنی کتاب شفا میں اسی اجماع کی تصریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں:-

”اس لئے کہ آپؐ نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام بالکل اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہے، اور جو اس کا مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے وہی بغیر کسی تاویل یا تفسیر کے مراد ہے، پس اُن لوگوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں جو اس کا انکار کریں اور یہ علی و اہل بائی عقیقہ ہو۔“

لَا نَهْ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ أَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَ اجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُ مَعْمُومَةٌ الْمُرَادُ بِهِ دُونَ تَأْوِيلٍ وَلَا تَحْمِيسٍ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ وَلَا فِي الْعَوَائِفِ كُلِّهَا قَطْعًا اِجْمَاعًا سَمِعْنَا (شفاء قاضی عیاض

ص ۳۶۲، مطبوعہ ہند)

اور علامہ سید محمود آلوسیؒ مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المعانی میں اسی اجماع کو الفاظ

ذیل میں نقل فرماتے ہیں:-

”اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر تمام آسمانی کتابیں ناطق ہیں، اور احادیث نبویہ اس کو بوضاحت بیان کرتی ہیں اور تمام امت اس پر اجماع ہو، پس اس خلاف کا مدعی کافر ہو اگر توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔“

وَكُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ مِمَّا نَلَقْتُمْ بِهِ الْكُتُبُ وَ صَدَعَتْ بِهِ الشَّيْءُ وَ اجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيَكْفُرُ مَنْ عَمِيَ خِلَافَهُ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَ.

(روح المعانی، ص ۶۵، ۶۶)

اور اسی مضمون کو علامہ ابن حجر مکیؒ نے اپنے فتاویٰ میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔  
 وَمِنْ اَعْتَقَدَ وَحَيًّا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرًا بِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . | اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی  
 دینی کا معتقد ہو وہ باجماع مسلمین کافر ہے ؟

اور ملا علی قاریؒ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں۔

وَدَعَا إِلَى التَّبَوُّوتِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرًا بِالْاجْتِمَاعِ (شرح فقہ اکبر ص ۳۲) | اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت  
 کا دعویٰ باجماع کفر ہے ؟

## حضرات صحابہ و تابعین کی شہادتیں ختم نبوت پر

اگرچہ اجماع صحابہ کی مذکورہ بالا نقل کے بعد ضرورت نہیں کہ صحابہ اور ائمہ سلف کے  
 فرادئی فرادئی شخصی اقوال نقل کئے جائیں، لیکن تائید کے طور پر چند آثار صحابہ و تابعین  
 لکھ کر ان حضرات صحابہ کے اسامی گرامی پیش کئے جاتے ہیں، جن سے ختم نبوت کی تصریحات  
 کسی حدیث میں منقول ہیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک طویل کلام کے ذیل میں واقعہ ردت کے وقت

ارشاد فرمایا ہے۔

قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّينُ وَاتَّقِمْ  
 وَانْتَحِ . رواه النسائي بهذا اللفظ معناه  
 فی الصحیحین دار البیاض المنقرعہ ص ۹۸، ۱۰۱  
 " اب دینی منقطع ہو چکی اور دین الہی تمام ہو چکا،  
 کیا میری زندگی ہی میں اس کا نقصان شروع  
 ہو جائے گا ؟ "

وتاریخ الخلفاء للسيوطی، ص ۹۳

نیز حضرت صدیقؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا۔

الْيَوْمَ قَدَّ نَا الْوَحْيُ وَمِنْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ الْكَلَامَ . رواه ابو اسعيل المهدی  
 فی دلائل التوحید (کنز العمال، ص ۳۷۵، ۳۷۶)  
 " آج ہم وحی کو اور خدا کی جانب سے کلام کو  
 گم کر چکے ہیں ؟ "

حضرت فاروق اعظمؓ - صحیح بخاری، ص ۱۷۳۶ میں اسی مضمون کا کلام حضرت

صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ دونوں حضرات سے منقول ہے۔

اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو

ایک روز حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ چلو امّ ایمنؓ کی زیارت کر آئیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ہم تینوں وہاں گئے، امّ ایمنؓ ہمیں دیکھ کر رونے لگیں، ان دونوں حضرات نے فرمایا، دیکھو امّ ایمنؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک آپ کے واسطے مقدر ہے، انہوں نے کہا کہ :-

قَدَّمْتُ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَكْبَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ السَّمَاءِ قَدَىٰ انْقَلَبَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْنَا  
 یہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ آپ کے لئے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے لیکن میں اس پر روتی ہوں کہ آسمانی خبریں ہم سے منقطع ہو گئیں (کنزانی الکفر: ۳۴۴)

دونوں حضرات بھی یسٹکر اُن کے ساتھ رونے لگی۔

اور مواہب لدنیہ میں ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرط غم سے اول تو حضرت عمرؓ آپ کی وفات ہی انکار کرتے رہے، پھر جب حضرت صدیقؓ نے سمجھایا تو قلق واضطراب میں ایک طویل کلام کے ذیل میں فرمایا :-

يَا بِي أَنْتَ وَرَأِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ مِنِّي فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ بَعَثْتَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِي أَوْلِيهِمْ فَقَالَ تَعَالَى إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ( مواہب، ص ۳۹۶ ج ۲ )  
 یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اس درجہ کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کو سب انبیاء کے بعد صحیحاً اور آپ کا ذکر سب سپہ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح (علیہ السلام) سے :-

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں  
 بَيْنَ كَيْفِيَّةِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَهُوَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ (رواه الترمذی فی الشمائل ص ۱۸)  
 آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ہمزوت ہے اور آپ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں :-  
 حضرت علیؓ کے اس کلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہونا یہ آپ کے آخر الانبیاء ہونے کی علامت ہے۔

صاحب مجمع البحار اور شمائل ترمذی کے شارحین ملا علی قاریؒ اور شیخ عبدالرؤف مناویؒ وغیرہ علماء نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شاگرد حضرت سلامہ کندیؓ تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول پر درود کے لئے الفاظ ذیل نہیں سیکھلایا کرتے تھے۔

”اے اللہ زمینوں کے سمجھانے والے اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے اپنی پاک رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں اور جہربانی و شفقت ہمارے آقا محمدؐ پر فرما جو تیرے بندے اور رسول ہیں بندہ شدہ دروازوں کے کھولنے والے اور ہر قسم کی نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے یہ

اللَّهُمَّ دَاخِي الْمُدْحَوَاتِ وَبَارِي الْمَبْتُوكَا  
اجْعَلْ شَرَّائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَآمِي بَرَكَاتِكَ  
وَرِاقَةَ رَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ  
وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ وَالْخَاتِمِ  
لِمَا سَبَقَ ۱۱

(شفار قاضی عیاض)

یہ طویل عبارت درود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عام کتب و ظائف و حزب الاعظم وغیرہ میں بھی منقول ہے۔

نیز قاضی عیاض نے شفار میں حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آیت کریمہ اِنَّ اِلٰهَکُمْ وَاِلٰهَکُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ مَّلَئِکَتُهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی السَّیِّئِ تِلَاوَت فرمائی، اور پھر الفاظ ذیل میں درود پڑھا :-

اللہ تعالیٰ حرمِ قدیم کی رحمتیں اور مقرب فرشتوں کی اور صدیقین و شہداء و صالحین کی جب تک کہ لے لے رب العالمین تیرے لئے کوئی شے تسبیح کرتی رہے حضرت محمد بن عبد اللہ پر نازل ہوں، جو کہ خاتم النبیین ہیں ۱۱

صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلَائِكَةُ  
الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ  
الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ مَا سَبَقَ لَكَ  
مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰی مُحَمَّدٍ  
بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ۱۱

(شرح شفاء، قاضی عیاض، ص ۲۰۳-۲۰۴)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے ابن ماجہ اور بیہقی نے الفاظ ذیل روایت

لہ ابن حبان نے سلامہ کندیؓ کو ثقات تابعین میں شمار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ حضرت علیؓ سے احادیث روایت کرتے ہیں، اور درونشور میں لکھا ہے کہ اس سند سے تو روایت ضعیف ہے، لیکن یہ دوسری کئی سندوں سے مروی ہے جن کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں، مگر وہ مرسل ہیں، (شرح شفاء عیاض الغفاجی، ص ۵۲۲ ج ۱۳)۔

کئے ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ  
عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَدِّ  
خَاتِمِ النَّبِيِّينَ اه (شرح شفاء ۳۷۵۳)

• اے اللہ اپنے درود اور برکتیں اور رحمت رسولوں  
کے سردار اور متقیوں کے امام اور انبیاء کے  
ختم کرنے والے پر نازل فرما :

اور محدث دہلوی نے اس کو مرفوعاً بھی روایت کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں  
کہ صحیح یہی ہے کہ موقوف ہے۔

حضرت ابن ابی اوفیٰؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ  
وسلم کے صاحبزادہ ابراہیمؓ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور پھر فرمایا :-  
لَوْ قَدِرْنَا أَنْ نَكُونَ بَعْدَهُ نَبِيًّا لَعَاشَ  
إِبْرَاهِيمُ (صحیح بخاری)

• اگر یہ مقدر ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کے بعد کوئی نبی ہوگا تو ابراہیمؓ زندہ رہتے :-  
حضرت انسؓ سے سدی نے دریافت کیا کہ حضرت ابراہیمؓ کی عمر بوقت وفات  
کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ :-

مَا سَلَّمَ مَهْدٌ وَلَا وَبِقِيَ كَانَ نَبِيًّا  
كَلِمًا لَمْ يَبْنَ إِلَّا أَنْ نَبِيَّتُمْ أَخْرَأَ الْأَنْبِيَاءُ  
وتلخیص التاریخ الکبیر لابن عساکر ۲۹۴

• وہ تو گوارہ (جھولے) کو بھی پورا نہیں بھر سکے  
یعنی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، اور اگر وہ باقی  
رہتے تو نبی ہوتے لیکن اس لئے باقی نہ رہے کہ ہمد  
نبی آخری نبی ہیں :-

حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اہل جنت  
کے نزدیک عبدالکریم ہے، اور اہل دوزخ کے نزدیک عبدالجبار، اور صحف آسمانی میں  
عاقب اور زبور میں فاروق، کذافی شرح الشائل للمناوی۔

ادرحقہ دوم کی احادیث میں گزر چکا ہے کہ عاقب کے معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہ ہو۔

حضرت وہب بن منبہؓ جو کتب سابقہ کے مشہور عالم ہیں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم  
نے امت محمدیہ علیٰ صاحبہا القلوة والسلام کی نسبت ایک طویل کلام میں ارشاد فرمایا ہے :-

اٰخْتَمُ بِعِمَامِ الْخَيْرِ الَّذِي بَدَأْتُ بِاَدْلِهِ | " میں انہی پر وہ خیر ختم کروں گا جس سے  
(تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۸۶، سوا اتراب، طبع قدیم، بیروت) | میں نے اول شروع کیا ہے ؟

حضرت ابو جعفر محمد بن علیؑ سے سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ، ص ۲ ج ۱  
میں نقل کیا ہے :-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا اَخَذَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ | " اللہ تعالیٰ نے جب (عالم امثال میں) بنی آدم  
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتًا يَتَّبِعُهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ  
عَلَى الْاَنْفُسِ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ كَانِ مُحَمَّدٌ  
مَّسَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ اَوَّلَ مَنْ  
قَالَ بَلٰى وَ لِيَا لِكَ صَارَ يَتَقَدَّمُ  
الْاَنْبِيَاءَ وَ هُوَ اٰخِرُ مَنْ بُوِيَ .  
(خصائص، ص ۲۳ ج ۱)

حضرات صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال کو اگر مع عبارات جمع کیا جائے تو یقیناً  
رسالہ ایک دفتر بن جائے گا، اور پھر بھی استیعاب متعذر ہے، اس لئے بغرض اختصار  
ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی نقل کر دینے پر اکتفاء کیا جاتا ہے جن سے تصریح ختم نبوت کے قطعی ثبوت پر  
تقریریں منقول ہیں، یا انہوں نے ختم نبوت کی احادیث مرفوعہ روایت کی ہیں جو مع حوالہ  
کتب حدیث اور تصریح اسماء صحابہ اسی رسالہ کے حصہ دوم میں گذر چکی ہیں کیونکہ جو صحابی  
کسی مسئلہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے ظاہر یہی  
ہے کہ اس مسئلہ میں اس کا وہی اعتقاد و مذہب ہوگا جو اس حدیث میں مذکور ہے۔

ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی | حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق عظیم، حضرت علی، حضرت  
جو ختم نبوت کے رشتہ ہیں | عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت  
انس، حضرت حسن، حضرت عباس، حضرت زبیر، حضرت سلمان، حضرت مغیرہ،  
حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابوذر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوہریرہ،  
حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن سمرة، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوالدرداء،  
حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن زبیر،  
حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن جندہ، حضرت ہزبن حکیم، حضرت جریر بن مطعم

حضرت بريدہ، حضرت زید بن ابی اوفی، حضرت عوف بن مالک، حضرت نافع، حضرت مالک بن حویرث، حضرت سفینہ مولیٰ حضرت ام سلمہ، حضرت ابوالطفیل، حضرت نعیم ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابوہازم، حضرت ابومالک اشعری، حضرت ام کرز، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن ثابت، حضرت ابوقحافہ، حضرت نعمان بن بشر، حضرت ابن غم، حضرت یونس بن میسرہ، حضرت ابوبکر، حضرت سعید بن جبیر، حضرت سعد، حضرت زید بن ثابت، حضرت عباس ابن ساریہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت مسعود بن مخزوم، حضرت عون بن رویم، حضرت ابوامامہ باہلی، حضرت تمیم داری، حضرت محمد بن حزم، حضرت سہل بن سعد السعدی، حضرت ابوہریرہ، حضرت خالد بن معدان، حضرت عمرو بن شعیب، حضرت مسلم بن نقیل، حضرت قرۃ بن ایاس، حضرت عمران بن حصین، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ثوبان، حضرت ضحاک بن نوفل، حضرت مجاہد، حضرت مالک، حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت حبشہ بن جنادہ، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت عکرمہ بن اکوع، حضرت عمرو بن قیس، حضرت عبدالرحمن بن سمرہ، حضرت عتمة بن مالک، حضرت ابوقبیلہ، حضرت ابولوی اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود۔

یہ اتنی حضرات میرے مقدمہ کے گواہوں کی پہلی قسط ہیں، جو مزاجی کی نبوت کے گواہ کنہیالال وغیرہ نہیں بلکہ آفتاب نبوت کی شعاعیں، ہدایت کے ستارے، علوم نبوت کے وارث، ثقاہت و دیانت کے مجتہد، علم و عمل میں سارے عالم کے مسلم اُستاد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے افراد ہیں۔

أَدْلِيكَ أَبَائِي فَجِئْتَنِي بِبَشَائِرِهِمْ ۖ إِذَا اجْتَمَعْتَنَا يَا غُلَامُ الْمَجَامِعِ

یہ میرے مقتدار ہیں پس (اگر دعویٰ ہے) اے غلام احمد مجلس میں ان کی مثال پیش کر

اس فرشتہ صفت جماعت پر اگر میں فخر کروں تو بجا ہے۔  
 دلے دارم جو اہر خانہ عشق است تحویلش  
 کہ دار وزیر گردوں میسر سامنے کہن دارم

یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ ان کے اقتدار کو ذریعہ نجات اور سرمان نبوی مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کی تعمیل سمجھتے ہیں، اگر یہ حق پر ہیں تو ہم بھی اس

متبع ہیں، اور اگر حق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے اُسوۂ حسنہ کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے تو ہم شرح صدر سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے مرزائی حق کی ضرورت نہیں ہے۔

دَرِّمَشَادِيْ اِنْ يُّكُنْ فِيْ سَلْوَتِيْ ذَدَّ عُوْنِيْ لَسْتُ اَذْفِيْ بِالرَّشَادِ  
 اور اگر میری ہدایت اسی میں منحصر سمجھی جائے کہ میں آپ کی محبت سے علیحدہ ہو جاؤں  
 تو مجھے اپنے حال پر چھوڑ دوں ایسی ہدایت نہیں چاہتا؛

اس کے بعد ہم اپنے دعوے کی شہادت میں اساطین امت، ائمہ اسلام اور علماء سلف کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دریا ہے ناپیدا کنا رہے کہ اُن کی شہادتیں مٹانے اور مٹنے کے لئے عمرِ نوح (علیہ السلام) چاہئے، اس لئے نہایت اختصار کے ساتھ نیزہ کی تحقیق و تفتیش اور آقرار اور نتیجہ کے جن اکابر علماء کے اقوال اس باب میں سامنے آگئے ہیں، ان کو ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اس قدر وسیع ہے کہ پھر بھی تطویل کا اندیشہ ہے، اس لئے بغرض اختصار چند حضرات علماء اور ان کی تعانیف کی عبارتیں نقل کر نیسے بجائے صرف اُن کے اسماء گرامی کی تصریح اور حوالہ کتاب پر اکتفا کیا جاتا ہے، البتہ کہیں کہیں کوئی خاص عبارت بھی لکھ دی گئی ہے، اور اس بیان کو بغرض سہولت طبقاتِ اہل علم پر تقسیم کیا جاتا ہے، مثلاً طبقات المحدثین، طبقات المفسرین، طبقات الفقہاء وغیرہ۔

**ضروری اطلاع** طبقات علماء کے تحریر کرنے میں یہ مشکل پیش نظر ہے کہ بعض بلکہ اکثر علماء سلف جس پایہ کے محدث ہیں اسی رتبہ کے مفسر اور فقیہ بھی ہیں اب اُن کے اسماء گرامی کو کس طبقہ میں لیا جائے، نیزہ کہ تقدیم و تاخیر میں اُن کے مراتب و درجات کا لحاظ بھی دشوار ہے۔ لیکن چونکہ اصل مقصد سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں، اس لئے اس بات میں ہم نے تحقیق و تمیق کو چھوڑ کر زیادہ توسیع سے کام لیا ہے، اور سرسری طور پر اپنے نزدیک جس طبقہ میں جس عالم کی شہرت معلوم ہوئی اسی طبقہ میں اُن کا نام درج کر دیا، اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

## طبقات المحدثین

اس باب میں ہم سب سے پہلے ان حضرات محدثین کے اسماء گرامی پیش کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں اور اختلاف رائے یا تاویل و تخصیص کو اس میں ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ اس کو بعینہ اپنی ظاہری مراد میں تسلیم کیا ہے۔ اور چونکہ وہ تمام احادیث مع حوالہ صفحات کتاب اور تصریح اسمائے محدثین اسی رسالہ کے حصہ دوم میں گزر چکے ہیں، اس لئے اب مکرر حوالہ صفحات یا نقل عبارات بالکل زائد سمجھ کر صرف ان حضرات محدثین کے اسماء گرامی شمار کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے جن سے ہم نے روایات حدیث لی ہیں:-

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری، امام المحدثین امام مسلم، نسائی، ابوداؤد سجستانی، ترمذی، ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، طحاوی، ابن ابی شیبہ، ابوداؤد طبرانی، ابن کثیر، ابوالنعیم، ابن حبیب، ابن عساکر، حکیم ترمذی، حاکم، ابن سعد، ابن عساکر، ابن حزم، ابن کثیر، ابویعلیٰ، حمی السہ بنوی، دارمی، خطیب، سفید بن منصور، ابن عساکر، ابن ابی الدنیا، ویلی، ابن ابی حاتم، ابن الجار، برز، ابوسعید باوردی، ابن عدی، رافعی، ابن عساکر، ابن راہویہ، ابن جوزی، قاضی عیاض، عبد بن حمید، ابونعیر، ابن کثیر، ابن منذر، دارقطنی، ابن ابی عمیر، تلمیذ نسائی، روایان، طبری فی الریاض النضر، خطاب بن عیاض، حافظ ابن حجر، شرح بخاری، علامہ عینی، شرح بخاری، قسطلانی، شرح بخاری، نووی، شرح مسلم، صاحب سراج الالاج، شرح مسلم، سندھی، درحاشیہ نسائی، شرح ترمذی، شعبی۔

یہ ان محدثین کے اسماء گرامی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی احادیث مرفوعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائیں، اور بغیر کسی تاویل و تخصیص کے قبول کی ہیں، اس کے بعد اس مقدس جماعت کے چند خصوصی کلمات بھی بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں جن میں ان حضرات نے مسئلہ ختم نبوت پر روشنی ڈالی ہے۔

امام الحدیث قاضی عیاض کی مفصل عبارت صحیحاً آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے جس

میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت کا اختتام قرآن و حدیث کتابت کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ یہ آیات و احادیث بالکل اپنے حقیقی اور ظاہری معنی پر محمول ہیں، ان میں کسی قسم کی تاویل و تخصیص نہیں چل سکتی۔

شیخ الاسلام ابو زرعمہ عراقیؒ خاتم نبوت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

وَالْإِشَارَةُ بِهِ إِلَى أَنَّهُ خَاتِمُ  
الْأَنْبِيَاءِ (کذا فی شرح الشائل)

”مہر نبوت سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ  
انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں :-“

اسی طرح محدث عبد الرؤف منادیؒ اپنی شرح شمائل میں فرماتے ہیں:-

وَأَمَّا فَتَنَةُ إِلَى النَّبِيِّ لِأَنَّ آيَةَ  
تَمَامِهَا إِذَا الشَّيْءُ يَخْتَمُّ بَعْدَ

”مہر نبوت کی اضافت نبوت کی طرف اس لئے  
ہے کہ وہ اختتام نبوت کی علامت ہے کیونکہ مہر

کسی شے پر جب ہی ہوتی ہے جب وہ ختم ہو چکے :-“

اور حافظ حدیث علامہ ابن کثیرؒ کی طویل اور مفصل عبارت آیت خاتم النبیین کی

شرح کرتے ہوئے اسی رسالہ کے پہلے حصہ میں لکھی جا چکی ہے، جس میں آپ نے نہ فقط مسئلہ زیر بحث پر ایک فیصلہ کن تقریر فرمائی ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتلایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ہے، خواہ کتنے ہی خرقی عادت اور کرامات و عجائبات دکھلائے (تفسیر ابن کثیر، ص ۸۹ ج ۱، طبع قدیم رح بغوی)

علامہ زرقانیؒ کی عبارت بھی پہلے حصہ میں اسی جگہ گزر چکی ہے، جس میں فرمایا ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔

علامہ سبکیؒ نے فرمایا ہے:-

لَإِنَّ نَبِيَّكَ يَتَوَاتَرُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْعَلَمُ الْوَحْيُ (روابغ النبوة) ۱۸۹

”اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات  
کے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے :-“

اور تیسری صدی کے مجدد امام طحاویؒ نے اپنے رسالہ ”عقیدہ طحاویہ“ میں

تفسیر فرمایا ہے:-

وَكُلُّ دَعْوَى بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَغْيٌ  
وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ  
كَأَنَّهُ الْوَرَى (عقیدہ، ص ۱۲)

”اور ہر دعویٰ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے  
بعد بغاوت اور گمراہی ہے، اور آپ ہی تمام  
مخلوق جن و انس کے لئے رسول ہیں :-“

حافظ ابن قیمؒ نے اپنے رسالہ ”الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان“ میں کئی جگہ (ص ۶ و ۱۲۳ و ۵۶ وغیرہ میں) اسی مضمون کی تصریح فرمائی ہے جن میں سے ایک عبارت یہ ہے۔

”سب انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی نبوت میں کسی اور کے محتاج نہیں ہیں اور اسی لئے آپ کی شریعت نہ کسی نبی سابق کی محتاج اور نہ آئندہ آنے والے کی، بخلاف آپ کے علاوہ دوسرے انبیاء کے، اس لئے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی شریعت کے اکثر حصے میں تورات کا حوالہ دیا، اور شریعت تورات کی تکمیل کرنے کے لئے خود حضرت مسیح تشریف لائے اور اسی لئے نصاریٰ اس شریعت کے محتاج تھے، جو حضرت مسیح سے پہلے ظہور میں آچکی تھیں، مثل تورات و زبور اور پورے چوبیس نبوتوں کے۔ اور ہم سے پہلی امتیں محدثوں کی بھی محتاج تھیں بخلاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام کے کہ نہ وہ کسی نبی کی محتاج ہے اور نہ کسی محدث کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے فضائل اور علوم اور اعمال و اخلاق اس قدر جمع کر دیئے ہیں جو تمام انبیاء سابقین میں متفرق طور پر موجود تھے۔“

(الفرقان، ص ۵۶)

یزعلاہرموصوف نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بھی اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ اور محدث قسطلانی شارح بخاری نے اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں مسئلہ ختم نبوت کو متعدد مقامات میں تفصیلاً و اجمالاً ذکر فرمایا ہے، جس کی بعض عبارات اس رسالہ کے حصہ اول میں آیت خاتم النبیین کے ماتحت گذر چکی ہیں، اسی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرے تو یہ دعا پڑھنا چاہئے :-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ | ”اے رسولوں کے سردار اور انبیاء

وَحَاثِمِ النَّبِيِّينَ (رواہب، ص ۱۷۵، ۹) | ختم کرنے والے آپ پر سلام :  
 نیز امام الحدیث ابو نعیم نے اپنی مسند صفحہ ۳ میں اور حافظ حدیث علامہ ابن تیمیہ  
 نے "جواب صحیح لمن بدل دین المسیح" میں اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اعتقاد الصحیح وغیر میں  
 اس مضمون کی تصریح فرمائی ہے۔

علامہ خفاجی شفاء قاضی عیاض کی شرح میں فرماتے ہیں :-

فَاِنَّهٗ لَا نَبِيَّ وَّلَا رَسُوْلٌ يُّرْسَلُ بَعْدَهٗ | اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد  
 وَّلَا فِيْ عَهْدِهٖ . | نہ کوئی نبی نہ رسول اور نہ آپ کے عہد مبارک میں :-

نیز علامہ موصوف شرح شفاء میں تحریر فرماتے ہیں :-

"اور ایسے ہی ابن القاسم نے اس شخص کے متعلق کہا کہ  
 جو دعویٰ نبوت کرے اور کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور یہ  
 سخون کا بیان ہے۔ اور ابن قاسم مدعی نبوت کے  
 بائے میں فرماتے ہیں کہ وہ مثل مرتد کے ہے، برابر ہے کہ  
 وہ لوگوں کو اپنی نبوت کے اتباع کی دعوت دے اور بڑے  
 پھر یہ دعویٰ خفیہ ہو یا علانیہ، جیسے مسیلہ کذاب لعنہ  
 تعالیٰ۔ اور اصبح بن الفرخ فرماتے ہیں کہ جو شخص  
 یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی آئی ہے وہ احکام  
 میں مثل مرتد کے ہے، اس لئے کہ وہ قرآن کا منکر ہو گیا  
 اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قول میں جھٹلایا  
 کہ آپ خاتم النبیین میں اور آپ کے بعد کوئی نبی

وَكذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي مَنْ تَنَبَّأَ  
 وَزَعَمَ اَنَّهُ يُوحَىٰ اِلَيْهِ وَقَالَ سَخُوْنٌ  
 وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَمِنْ تَنَبَّأَ اَنَّهُ  
 كَالْمُرْتَدِّ سَوَاءٌ كَانَ دَعَا ذٰلِكَ اِلَى الْمَتَابِعَةِ  
 نُبُوْتِهٖ سِرًّا كَانَ اَوْ جَهْلًا كَسَيْلِمَةَ  
 لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ اَصْبَحُ بِنُ الْفَرَجِ  
 مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ نَبِيٌّ يُوحَىٰ اِلَيْهِ كَالْمُرْتَدِّ  
 فِيْ اَحْكَامِهٖ لِاَنَّهُ قَدْ كَفَرَ بِكِتَابِ اللّٰهِ  
 لِاَنَّهُ كَذَّبَ بِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
 قَوْلِهٖ اَنَّهُ حَاثِمِ النَّبِيِّينَ وَّلَا نَبِيَّ  
 بَعْدَهٗ مَعَ النَّبِيِّۦ عَلٰى اللّٰهِ .

نہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر افتراء بھی باندھا کہ اس نے مجھے نبی بنا یا ہے :-

اس کے بعد اس کے کفر و ارتداد کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"اس لئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب  
 کرنے والا ہے اس قول میں، جس کو نقات نے  
 نقل فرمایا ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا  
 یعنی کسی کو میرے بعد جدید نبوت نہ دی جائے گی :-

لِاَنَّهُ مُكذِّبٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فِي قَوْلِهٖ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْهُ النَّقَاتُ لَا نَبِيَّ  
 بَعْدِي اَمْى لَا يَنْبَأُ اَحَدٌ بَعْدُ نُبُوْتِي .

(خفاجی شرح شفاء، ص ۲۳۰، ۲۳۱)

اور ابن جبانؓ فرماتے ہیں :-

مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنْ الشُّبُوهَ مُكْتَسَبَةٌ  
لَا تَنْقُطُ أَوْ إِلَى أَنْ الْوَلِيَّ الْفَضْلَ مِنْ لَيْسِي  
فَعُوْزِي نَدِيْقِي يَجِبُ تَسْلُهُ .

نہر تانی، ص ۱۸۸ (۶۳)

اور شفاء قاضی عیاضؒ میں ہے :-

وَقَدْ قَتَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ  
الْحَارِثَ الْمُتَنَبِّيَّ وَصَلَبَهُ وَقَعَلَ ذَلِكَ  
غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ وَالْمُلُوكِ بِأَشْبَاهِهِمْ  
وَأَحَبَّمْ عَلَمَاءُ وَتَعِيْمٌ عَلَى صَوَابٍ فَعَلِمُوا  
وَالْمُخَالَفِ فِي ذَلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كَافِرًا .

راز الکفار ص ۴۳

اور شرح شفاء میں ہے :-

وَكَذَلِكَ كُفْرٌ مِنْ ادَّعَى نُبُوَّةَ أَحَدٍ مَعَ  
نَسَبَاتٍ مَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ فِي ذَنْبِهِ  
كَمَسِيَلَمَةَ الْكُذَّابِ وَالْأَسْوَدِ الْعَسْبِيِّ أَوْ  
ادَّعَى نُبُوَّةَ أَحَدٍ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ  
يَنْفَعُ الْعَرُابِ وَالْحَدِيثُ قَدْ أَتَى الْكُذِّبُ  
اللَّهُ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَالْعَيْسَوِيَّةِ . (شرح شفاء)

اور ص ۳۰۵ ج ۱۳ میں ہے :-

وَهَاتَانِ الْمَسْئَلَتَانِ مِنْ جُمْلَةِ مَا كُفِّرُوا  
بِهِ بِتَجْوِيزِ الشُّبُوهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ  
خَاتِمُ النَّبِيِّينَ .

۳ اور جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبوت کسب کر کے  
حاصل کی جاسکتی ہے اور وہ منقطع نہیں ہوئی، یا یہ  
عقیدہ رکھے کہ دلی نبی سے افضل ہے تو یہ شخص  
زندیق ہے اس کا قتل کرنا واجب ہے ؟

۴ اور غلیفہ عبد الملک بن مروانؓ نے حارث مدنیؒ  
نبوت کو قتل کیا اور رسول پر چڑھایا، اور ایسا ہی عالم  
بہت سے خلفاء اور بادشاہوں نے اہل جیسے عیاشان نبوت  
کے ساتھ کیا ہے اور اس زمانہ کے علماء نے اس پر  
اتفاق کیا ہے کہ ان کا یہ فعل صحیح و درست تھا اور جو  
ان کے کافر کہنے کا مخالف ہے وہ خود کافر ہے ؟

۵ اور ایسے ہی ہم اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو ہمارے  
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ  
کرے یعنی آپ کے زائے مبارک میں دعویٰ کرے  
جیسے مسیلہ اور اسود عسی نے کیا، یا آپ کے بوجہ  
اس لئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تبصریح قرآن و  
حدیث، پس دعویٰ نبوت اللہ اور اس کے رسول  
کی تکذیب ہے مثل عیسائیوں کے ؟

۶ اور یہ دونوں مسئلے بھی منجملہ ان کے ہیں جن کی وجہ سے  
ان کو کافر کہا گیا ہے بوجہ جائزہ رکھنے نبوت کے بعد  
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے متعلق حق  
تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخری پیغمبر ہیں ؟

محدثین کی اس عظیم الشان جماعت کے اقوال و تصریحات آپ نے ملاحظہ فرمائیں کیا کسی ایک نے بھی ختم نبوت میں یہ شاخ نکالی ہے کہ صرف تشریحی نبوت کا اختتام ہوا ہے، غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی قیامت تک جاری رہے گی؟

اچھا اگر محدثین سے بھی یہ فروگزاشت ہو گئی تو آگے آئیے، ہم ارباب تفسیر سے اس عقوذا کا حل طلب کریں جن کی تمام تر مساعی کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی مراد کو سہل اور صاف طریق سے امت کے سامنے پیش کر دیں۔

## طبقاتُ المفسرین

حضرات مفسرین کے اقوال مسئلہ زیر بحث کے متعلق بیشتر اسی رسالہ کے پہلے حصہ میں آیا ختم نبوت کے ماتحت گذر چکے ہیں، لہذا اب ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ان حضرات کے اسماء گرامی شمار کر دینا کافی معلوم ہوتا ہے۔

امام التفسیر والحدیث حافظ ابو جعفر طبریؒ، امام راغب اصفہانیؒ، حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ، علامہ مخضرمیؒ صاحب کلمات، شید محمود اوسیؒ مفتی بغداد صاحب روح المعانی، علامہ نسفیؒ صاحب مدارک، علامہ بغویؒ صاحب معالم التنزیل، خازن، امام رازیؒ صاحب تفسیر کبیر، قاضی بیضاویؒ، علامہ جلال الدین سیوطیؒ صاحب جلالین و درمنثور، ابو حنیفہؒ صاحب بزم محیط، علامہ شرنبلہؒ صاحب مراجع المنیر، صاحب عمل حاشیہ جلالین، شیخ محمد بن عبدالعزیزؒ، علامہ شیخ محمد نوویؒ صاحب مراجع لبید، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ صاحب تفسیر منظرہ، علامہ شیخ اسماعیل حقیؒ صاحب روح السببان، شیخ معین الدین صاحب جامع السببان، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن، ابو محمد روز بہان شیرازیؒ صاحب عرائس البیان، علامہ ثعالبیؒ صاحب جواهر حسان، شیخ کمال الدین حسین ہرویؒ، قواعد الہیہ، علامہ ابوسعودؒ، علامہ احمد جعوف بلاء حیون صاحب تفسیر احمدی، تفسیر توابہ لدنیہ۔

ان حضرات کے اقوال اور تصریحات عموماً آیت خاتم النبیین کے تحت مذکور ہیں جن میں بعض کے اقوال اس رسالہ میں درج کئے گئے ہیں اور بعض جدید ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی کہیں یہ نہ لکھا کہ ختم نبوت سے فقط تشریحی نبوت کا اختتام مراد ہے، کوئی ظلی یا بروزی نبوت کی قسم اب بھی باقی ہے۔ اس لئے ہم اور آگے بڑھ کر فقہاء امت سے اس کا

استفسار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جماعت بال کی کھال نکالنے اور مسئلہ کے ہر پہلو اور ہر قید و شرط کو بوضاحت بیان کرنے میں مشہور ہے۔

## حضرات فقہاء

صاحب الاشبہاء والنظائر کتاب السیر والردۃ میں لکھتے ہیں:-

اِذْ لَمْ يَعْرِفْ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ لِاِنَّهُ مِنْ الصُّمُورِ وَرِيَاثِ - (اشبہاء، ص ۳۹۶)

اور جب کوئی شخص یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں اس لئے کہ آپ کا آخری نبی ہونا ضروری ہے اور یہ ہے۔

اور علامہ ابن نجیم بحر الرائق شرح کتر الدقائق میں تحریر فرماتے ہیں:-

وَيَكْفُرُ بِقَوْلِهِ اِنْ كَانَ مَا قَالَ الْاَنْبِيَاءَ حَقًّا اَوْ مِدْقًا وَيَقُولُ: اَنَا رَسُولُ اللهِ

اگر کوئی کلمہ شک کے ساتھ یہ کہے کہ اگر انبیاء کا فرمان صحیح اور سچ ہو تو کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

بحر، ص ۱۳۰ ج ۱ (۵۷)

اور فتاویٰ عالمگیری ص ۲۶۳ ج ۳ میں ہے:-

اِذْ لَمْ يَعْرِفِ الرَّجُلُ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَكَوَقَالَ اَنَا رَسُولُ اللهِ اَوْ قَالَ بِالْفَارِسِ مَنْ يَغْتَمِرُ يَبِيْدُ بِهِ مَنْ يَغْتَمِرُ بِرَمٍ يَكْفُرُ .

جب کوئی آدمی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں اور اگر کہے کہ میں رسول اللہ ہوں یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔

علامہ ابن حجر مکی شافعی اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:-

مَنْ اَعْتَمَدَ وَحْيًا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ بِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ .

جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا اعتقاد رکھے باجماع مسلمان کافر ہو گیا۔

اور مکمل اعلیٰ قاری شرح شامل میں مہر نبوت کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:-

لے ضروریات دین و احکام میں من کا وجود مذہب اسلام میں درجہ تواتر کو پہنچ چکا ہو، خواہ حکم فرض ہو

وَإِضَافَتُهُ إِلَى السُّبُوتِ لِأَنَّهُ خَبَّرَ بِهِ  
بَيِّنَاتِ السُّبُوتِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ بَعْدَهُ  
أَحَدٌ -

”مہربنوت کی نسبت نبوت کی طرف اس لئے ہے کہ  
اس کے ذریعہ سے عمل نبوت پر مہر لگ چکی ہو یہاں تک  
کہ اس کے بعد کوئی اس میں داخل نہ ہوگا“

نیز علامہ موصوف شرح فقہ اکبر، ص ۲۰۲ میں فرماتے ہیں :-

وَدَعَا إِلَى السُّبُوتِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرًا بِالْإِجْمَاعِ -

”اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے  
بعد باجماع کفر ہے“

عجب ہے کہ مرزائی امت ملاحی قاری پر یہ تہمت باندھتی ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل  
نہیں، بلکہ غیر تشریحی نبوت کے بعد میں جاری رہنے کو جائز سمجھتے ہیں حالانکہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ  
کس صفائی کے ساتھ اس جگہ مطلقاً دعویٰ نبوت کو کفر فرمایا ہے تشریحی ہو یا غیر تشریحی۔  
اور علامہ سید محمود مفتی بغداد کی مفصل عبارت پہلے گزر چکی ہے جس کے چند

جملے یہ ہیں :-

وَكُونُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمَ  
النَّبِيِّينَ مِمَّا نَطَقَتْ بِهِ الْكُتُبُ وَصَدَّقَتْ  
بِهِ السُّنَّةُ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ يُكْفَرُ  
بِدَعْوَى خِلَافِهِ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَ -

”اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا  
ان مسائل میں سے ہے جن پر تمام آسمانی کتابیں  
ناطق ہیں اور جن کو احادیث نبویہ نے نہایت صحت  
سے بیان کر دیا ہے اور جن پر امت نے اجماع کیا ہو  
اس لئے اس کے خلاف کا کفر سمجھا جائے گا  
اور اگر امر از کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا“

(رد المحتار، ص ۶۵ ج ۱)

اور شیخ سلیمان سجری شرح منہاج میں ایک نظم میں تحریر فرماتے ہیں :-

حَمْدٌ عَلَى كُلِّ ذِي التَّكْلِيفِ مَعْرِفَةٌ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى التَّفْصِيلِ قَدْ عَلِمُوا  
”ہر کلف مسلمان پر واجب ہے کہ ان انبیاء کرام کو پہچانے جن کے اسمائے گرامی قرآن میں تفصیل مذکور ہیں“  
فِي تِلْكَ حُجَّتِنَا مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ ۖ مِنْ بَعْدِ عَشْرِ وَبَقِيَ سَبْعَةٌ وَهُمْ  
”انہیں ہماری حجت بھلیں انبیاء علیہم السلام ہیں جن میں سے سات کے اسمائے گرامی ہیں“  
إِدْرِيْسُ وَهُودٌ وَشُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا ۖ ذُو الْكِفْلِ أَدَمُ بِالْحُخَّارِ قَدْ حُمُوا  
”حضرت ادریس، ہود، اور شعیب اور صالح اور ذوالکفل، آدم جو محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم  
پر حتم کر دیئے گئے ہیں“

اور فصول عمادی میں کلمات کفر شمار کرتے ہوئے لکھا ہے :-

وَكذَّالْتِ الْوَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَدَقَالَ  
بِالْفَارِسِيَّةِ مَنْ سِيغَا مِرْم بَرِيدٍ بِهٖ بِيغَامِ  
مِي بَرْمِ يَكْفُرُ وَلَوْ أَنَّهُ جِئْتَن قَالِ هَذِهِ  
الْمُقَالَةَ طَلَبَ عَيْرُهُ مِنْهُ الْمُعْجَزَةَ  
قِيْلَ يَكْفُرُ الطَّالِبُ وَالْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ  
الْمُتَأَخِّرِينَ قَالُوا إِنْ كَانَ عَرَضُ الطَّالِبِ  
تَعْجِزَةً وَانْتِصَاحَةً لَا يَكْفُرُ .

(فصول، ۱۳۰)

۱۰ اور ایسے ہی اگر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نفا کی زبان میں کہے من پیغامبرم اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو کافر ہو جائے گا، اور جب اس نے یہ بات کہی اور کسی شخص نے اس سے معجزہ طلب کیا تو بعض کے نزدیک یہ طالب معجزہ بھی کافر ہو جائے گا، لیکن متاخرین نے فرمایا ہے کہ اگر طالب معجزہ کی نیت طلب معجزہ سے محض اس کی رسوائی اور اظہار عجز ہو تو کافر نہ ہوگا :-

اور خلاصۃ الفتاویٰ میں امام عبدالرشید بخاری فرماتے ہیں :-

وَلَوْ أَدَّ عَى رَجُلٌ الشُّبُوهَ وَطَلَبَ رَجُلٌ  
الْمُعْجَزَةَ قَالِ بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  
إِنْ كَانَ عَرَضُهُ إِظْهَارَ عِجْزِهِ وَانْتِصَاحَةً  
لَا يَكْفُرُ .

۱۱ اور اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے معجزہ طلب کیا تو بعض فقہاء کے نزدیک یہ طالب معجزہ بھی مطلقاً کافر ہو جائے گا اور بعض نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ اگر اس نے اظہار عجز و رسوائی کے لئے معجزہ طلب کیا تھا تو یہ کافر نہ ہوگا :-

اور تحفہ شرح منہاج میں کلمات کفر شمار کرتے ہوئے لکھا ہے :-

أَذْكَبَ رَسُولًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ نَقَصَهُ بِأَيِّ  
مَنْقِصٍ كَانَ صَغَرًا بِأَسْبِهِ مُرِيدًا تَعْجِزَةً  
أَوْ جَوْرًا نُبُوَّةَ أَحَدٍ بَعْدَ رُجُودِ نَبِيِّنَا  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  
عَيْسَى قَبْلَ فَلَا يَكْفُرُ .

(ازد آلفار، ص ۴۲)

۱۲ یا کسی رسول یا نبی کی تکذیب کرے یا کسی قوم کی تقصیر کرے جیسے اس کے نام کو تصغیر کے ساتھ بنیت تحقیر ذکر کرے یا کسی کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جائز رکھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی ہو چکے ہیں اس لئے ان کے نزول سے اعتراف نہیں ہو سکتا :-

گذشتہ عبارات فصول عمادی اور خلاصۃ الفتاویٰ جو فقہ کی متفق علیہ اور مستند کتابیں ہیں

ان میں جس طرح یہ بتلایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ نبی نبوت کا فرو مرتداد اور واجب القتل ہے، اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کے دعویٰ کو محتمل الصدق سمجھ کر

اس سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا احتمال باقی نہیں، بلکہ جس وقت دعوائے نبوت کا لفظ کسی کی زبان پر آئے تو فوراً بغیر امتحان مدعی اور طلب دلیل وغیرہ کے یقین کرنا چاہئے کہ وہ کذاب ہو، اس کے دعوے میں صدق کا احتمال نکالنا درحقیقت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں کذب کا احتمال پیدا کرنا اور سینکڑوں احادیث نبویہ کو جھٹلانا ہے، والعیاذ باللہ۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ارباب فتویٰ نے بھی مطلقاً نبوت کے اختتام کا اعلان فرمایا جس میں تشریحی وغیر تشریحی سب داخل ہیں، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر مدعی نبوت اور ہر مدعی وحی کو کافر، کاذب، و جہال قرار دیا، خواہ تشریحی نبوت کا مدعی ہو یا غیر تشریحی کا، اس لئے اب ہم اس مسئلہ کو حضرات متکلمین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن کے یہاں لفظ لفظ پر بحث و تحقیق کے بازار گرم ہوتے ہیں، کہ شاید وہ ہیں پتہ دیں کہ غیر تشریحی نبوت کا اختتام نہیں ہوا ہے۔

## حضرات متکلمین

امام الحدیث والصلام حافظ ابن حزم اندلسی نے ملل و نخل میں اس مسئلہ کو متعدد مواقع میں روشن فرمایا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں :-

”پہلے تمام امور کا اقرار واجب ہے اور یہ بات صحیح طور پر ثابت ہوگئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا وجود باطل ہے اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔“

فَوَجِبَ الْأَقْبَابُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَصَحَّ  
أَنَّ وُجُودَ الشُّبُهَةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
بَاطِلٌ لَا يَكُونُ الْبَسْتَةُ (ملل، ص ۷۷، ج ۱۱)

اور ملل صفحہ ۲۴۹ جلد ۲ میں فرماتے ہیں :-

”اور ایسے ہی جو شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی ہے تو کوئی شخص اس کے کافر ہونے میں اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سب امور پر صحیح اور قطعی حجت قائم ہو چکی ہے“

وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ رَأَى قَوْلَهُ، أَوْ أَنَّ بَعْدَهُ  
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا غَيْرَهُ  
عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ  
لَا يَخْلِفُ اثْنَانِ فِي تَكْفِيرِهِ لِصِحَّةِ  
بَيِّنَاتِ الْحُجَّةِ بِكُلِّ هَذَا.

اور یہی مضمون ملل صفحہ ۱۹۸ جلد ۲، اور صفحہ ۱۱۳ جلد ۱، و صفحہ ۱۸۰ جلد ۲ وغیرہ میں تحریر فرمایا ہے۔

نیز اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

كَلِمَاتٌ يَسْتَجِيزُ مُسْلِمًا أَنْ يَتَّبِعَ بَعْدَهَا  
عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيًّا فِي الْأَرْضِ .  
رمحل و نحل،

”ہیں کوئی مسلمان اس کو کیسے جائز سمجھ سکتا ہے کہ  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین میں اور کوئی نبی  
ثابت کرے؟“

اور ملاحظہ فرمائی کی عبارت شرح فقہ اکبر ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی جس میں مطلقاً  
دعوائے نبوت کو کفر قرار دیا ہے۔

اور امام نجم الدین عمر نسفیؒ اپنے عقائد میں تحریر فرماتے ہیں :-

وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

”یعنی انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں اور  
سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟“

اور علامہ تقی زانیؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں :-

وَدَدَّ دَلَّ كَلَامَهُ وَكَلَامُ اللَّهِ الْمَنْزُورُ عَلَيْهِ  
أَنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ إِلَى  
كَاثَرَةِ النَّاسِ بَلْ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  
ثَبَّتَ أَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ .

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام  
جو آپ پر نازل ہوا، اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ  
انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور یہ کہ آپ تمام  
انسانوں بلکہ تمام جن و انس کی طرف مبعوث  
ہوئے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ آخری رسول ہیں؟“

(شرح عقائد نسفی)

اور یہی مضمون علم عقائد و کلام وغیرہ کی کتب مندرجہ ذیل میں بھی مجمل و مفصل موجود ہے،  
جن کے فقط نام شمار کئے جاتے ہیں :-

المعتقد المتقدم، ص ۲۰۹ - الاتقان للسيوطي، ص ۱۲۸ ج ۲ - مسائل ابان ہمام، ص ۲۲  
مجموعۃ العقائد للیافی، ص ۱۵ - عقیدۃ العوام للشیخ احمد المرزوقی، ص ۱۲ - شرح عقیدۃ العوام  
از علامہ نووی، مسائل ابواللیث - قطر الغیت للنووی، ص ۱۵۰ -

حضرت شاہ عبد العزیزؒ میزان العقائد میں تحریر فرماتے ہیں :-

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولٌ  
وَخَاتِمُهُمْ .

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور انبیا  
کے ختم کرنے والے ہیں؟“

اور علم عقائد کی معروف و معتمد کتاب جو ہرۃ التوحید میں ہے :-

رَخَّصَ خَيْرَ الْخَلْقِ أَنْ قَدْ تَمَّتْ بِهِ الْجَمِيْعَةُ رَبَّنَا دَعَمْنَا

ہمارے پروردگار نے خیر الخلاق یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی کہ انبیاء کو آپ پر ختم کر دیا، اور آپ کی بعثت تمام جن دانس کے لئے عام کر دی ہے۔  
اور شیخ امام عبدالسلام بن ابراہیم مالکی المذہب اس کتاب کی شرح "اتحاف المرید" میں تحریر فرماتے ہیں:-

أَيُّ خْتَمٍ رَبَّنَا يَسْبُؤُ بِهِ جَبِيحَةُ الْأَنْبِيَاءِ  
قَالَ تَعَالَى وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَتِلْكَ مِنْهُ  
خْتَمُ الْمُرْسَلِينَ أَيْضًا لِأَنَّ خْتَمَ الْأَعْتَمِ  
خْتَمٌ لِلْأَخْفِصِ مِنْ غَيْرِ عُلْسٍ فَلَا تَسْبُدُ أُنْبُؤُهُ  
وَلَا شَرِيْعُهُ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ (اتحاف المرید، ص ۱۲۶)

یعنی ہمارے پروردگار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء کو ختم فرمادیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور ختم نبوت کے ختم رسالت بھی لازماً ہوتا ہے کیونکہ نبوت عام ہے، اور عام کا ختم خاص کا اختتام بھی ہے مگر اس کا عکس نہیں ہوتا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت شروع ہوگی اور نہ شریعت ہے۔

اس میں لا تبتدأ نبوة کے لفظ سے اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا کہ آخر زمانہ میں علیؑ کا نزول ختم نبوت کے منافی سمجھا جاسکتا تھا، اس لئے بتلا دیا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نبوت آپ کے بعد شروع نہ ہوگی، اور علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے شروع ہو چکی ہے۔  
اور شیخ عبدالغنی نابلسی شرح کفاية العوام صفحہ ۱۸ میں لکھتے ہیں:-

أَوَّلَهُمْ أَدَمُ ثُمَّ الْأَخِيرُ مِنْهُمْ يَحْيَىٰ  
لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ أَصْلًا مُحَمَّدٌ  
بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ النَّبِيُّ الْبَاقِي  
عَلَى رِسَالَتِهِ وَإِنْ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِلَىٰ آخِرِ الزَّمَانِ وَالْقَطَاعِ الدُّنْيَا.

”سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام، پھر ان میں سے آخری نبی اس طرح کہ ان کے بعد مطلقاً کوئی نبی ہے نہ رسول، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ ہی ایسے نبی ہیں کہ آپ کی نبوت رسالت دنیا میں آپ کی وفات کے بعد بھی آخر زمانہ اور قیامت دنیا تک باقی ہے۔“

وہ لوگ جو تشریحی اور غیر تشریحی کی شاخیں نکال کر ہر عبارت کی تخریص کیا کرتے ہیں انہیں کھول کر ان عبارتوں کو پڑھیں کہ کس طرح ان حضرات نے ان کے کرد تخریص کا راستہ بند کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں عبارتوں میں نہایت وضاحت کے ساتھ تشریحی اور غیر تشریحی ہر قسم کی نبوت کے اختتام کی تصریح کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ

آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت نہ دیا جائے گا، کسی قدیم نبی کا اپنی نبوت پر رہنا یا پھر دنیا میں آنا ختم نبوت کے کسی طرح معارض نہیں، اس لئے مسئلہ نزول مسیح کو ختم نبوت کا معارض سمجھنا غلط مرزائی فہم و فراست کا اعجاز ہے۔

اور شیخ ابوشکور سالی تمہید میں تحریر فرماتے ہیں :-

” روافض کہتے ہیں کہ عالم نبی سے کبھی خالی نہیں ہے گا، اور ان کا یہ خیال کفر ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”و خاتم النبیین“ اور جو شخص ہمارے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو شخص اس سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی نص قطعی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی کو شرکت حاصل نہیں، بخلاف عقیدہ روافض کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت تھے، اور ان کا یہ عقیدہ کفر ہے۔“

وَقَالَتِ الْرَوَافِضُ أَنَّ الْعَالَمَ لَا يَكُونُ خَالِيًا مِنَ النَّبِيِّ قَطُّ وَهَذَا الْكُفْرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ”وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ وَ مَنْ ادَّعَى النَّبُوَّةَ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ لَيَصِيرُ كَافِرًا وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُعْجَزَاتِ فَإِنَّهُ لَيَصِيرُ كَافِرًا لِأَنَّهُ لَا شَرَكَ فِي النَّبِيِّ فَيَجِبُ الْإِعْتِقَادُ بِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ كَلَهُ لِأَنَّ فِي النَّبُوَّةِ لِحَمْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَلَالِ مَا قَالَتِ الْرَوَافِضُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ شَرِيكًا لِحَمْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّبُوَّةِ وَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ

اور شرح عقیدہ سفارینی میں ہے :-

” اور جو شخص یہ سمجھے کہ نبوت کو شیش اور سی سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ زندقہ ہے، اس کا قتل کرنا واجب ہے، اس لئے کہ اس کا یہ عقیدہ تو اس کو متفق ہے کہ سلسلہ نبوت کبھی ختم نہ ہو، اور یہ نص قرآنی و احادیث متواترہ کے خلاف ہے، جن میں کلمے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا گیا ہے (اس کے بعد فرماتے ہیں) اور یہ سلسلہ اسی طرح ممتد ہوتا ہوا چلا آیا، یہاں تک کہ نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔“

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا مَكْتَسِبَةٌ فَمَوْزُونٌ يَجِبُ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي كَلَامَهُ وَاعْتِقَادَهُ أَنْ لَا تَقْطَعُ وَهُوَ مُخَالَفٌ لِلنَّصِ الْقُرْآنِيِّ وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِأَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (القولہ) وَكَانَ ذَلِكَ مُمْتَدًّا مِنْ عَهْدِ الْأَبِ الْأَوَّلِ الصَّقِيِّ أَدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى أَنْ بُعِثَ الْخَاتَمُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شرح عقائد سفارینی ص ۲۵۷)

اور حجۃ الاسلام امام غزالیؒ اپنی کتاب اقتصاد میں مسئلہ زیر بحث کو اس طرح صاف بیان فرماتے ہیں کہ کسی مخالف کو لب کھولنے کی گنجائش نہیں رہتی۔

”یشک امت نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لائے بعدی سے اور قرآن احوال سے باجماع یہی سمجھا ہے کہ آپ کے بعد اب تک نہ کوئی نبی ہوگا“ اور نہ کوئی رسول، اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تاویل چل سکتی ہے نہ تخصیص؟

إِنَّ الْأُمَّةَ قَعِمَتْ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ هَذَا  
الَلْفِظِ وَمِنْ قَرَأَتِ أَحْوَالِهِ آتَهُ فُهَيْمٌ  
عَدَمٌ نَبِيٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا وَعَدَمٌ رَسُولٍ لِلَّهِ  
أَبَدًا وَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِصٌ  
(الاقصاد، طبع مصر ص ۱۳۸)

”اقتصاد“ کے اس صغوم میں اس عبارت سے پہلے امام غزالیؒ نے ان تمام تاویلات کو اقسام ہدیان میں شمار فرمایا ہے جو محمدین نے لفظ ”خاتم النبیین“ یا ”لائے بعدی“ کے متعلق لکھی ہیں۔

ارباب عقائد و کلام کے یہ تمام اقوال و تصریحات ہمارے سامنے ہیں، اور ہماری نظر میں ان میں بھی اسی مقصد کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کیا اس کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے کہ اسلامی نصوص میں ختم نبوت سے فقط تشریحی نبوت کا احتتام مراد ہے، غیر تشریحی ہمیشہ کے لئے باقی ہے۔

لیکن اہل کلام کے کلام میں بھی ہیں اس تفصیل و تقسیم کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا جو قادیانی مرزا صاحب نے ایجاد کی ہے۔ اس کے بعد ہم بحثہ شناس صوفیاء کے کلام کے اقوال ہدیہ ناظرین کر کے یہی سوال پیش کرتے ہیں کہ کیا ختم نبوت میں کوئی تشریحی یا غیر تشریحی کی تفصیل ہے یا مطلقاً ہر قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔

لہ ختم نبوت کے سابقہ ایڈیشن میں اقتصاد کے حوالہ سے جو عبارت لکھی گئی تھی وہ درحقیقت اقتصاد کے مضمون کا خلاصہ تھا، جو حجۃ الاسلام حضرت سیدی مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اگلا اللہ میں بزبان عربی نقل فرمایا ہے۔ اُس وقت احقر کے سامنے اصل کتاب اقتصاد نہیں تھی، اگلا اللہ میں درج شدہ خلاصہ عبارت کو اصل عبارت سمجھ کر وہی خلاصہ عبارت ختم نبوت میں نقل کر دیا گیا، بعد میں جب اصل کتاب اقتصاد سامنے آئی تو اب اس کتاب کی اصل عبارت لکھدی گئی ہے، مگر کوئی اہل علم اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ پہلے جو خلاصہ مفہوم اگلا اللہ میں سے نقل کیا گیا تھا وہ بالکل اصل کتاب کی عبارت کے مطابق ہے ۱۲ محمد شفیع

## صوفیائے کرامؒ

عارف باللہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقائد نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-  
 خاتم الانبیاء والرسول است ؛ دیگران بھی جو جنر واد چوکھل است  
 دزپئے اور سولِ دیگر نیست ؛ بعد ازاں ہیچ کس ہمیں بر نیست  
 چون در آخسر زماں بقولِ رسول ؛ کند از آسمان مسیح نزول  
 پیرو دین و شرع او باشد ؛ تابع اصل و شرع او باشد  
 دین ہمہ شرع و دین او داند ؛ ہمہ کس را بدین او خواند  
 شرح تعرف جس کے متعلق صاحب کشف الظنون لولا التعرف لما  
 عرف التصوف فرماتے ہیں (یعنی اگر کتاب تعرف نہ ہوتی تو لوگ تصوف کو نہ سمجھتے )  
 اس میں مسئلہ زیر بحث کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :-

” اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر  
 ختم فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے: **وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ  
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ**، جب خاتم کو بفتح تاء پڑھو تو  
 معنی پیغمبروں کی خیر ادرائے کے ختم کرنے والے اور اگر  
 بالکسر پڑھو تو معنی مہر کرنے والے اور آخر کر نیوالے  
 ہوں گے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت  
 علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے وہ نسبت  
 رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر ہارون  
 نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا  
 اس لئے تم نبی نہیں، نیز فرمایا کہ میں عاقب  
 ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

اللہ تعالیٰ ختم کر دے پیغمبروں کو  
 بحمد علیہ السلام چنانکہ خدائے گفت  
**وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ**  
 چون خاتم منصب خوانی مہر پیغمبروں باشد و  
 آخر پیغمبروں و چون خاتم بکسر خوانی مہر کنندہ  
 باشد و آخر کنندہ و نیز پیغمبر سلام اللہ علیہ علی  
 را کرم اللہ وجہہ گفت **أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ  
 هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ  
 بَعْدِي نِزَافَتٍ وَأَنَا الْعَاقِبُ لِأَنِّي  
 بَعْدِي نِزَافَتٍ**

(شرح تعرف، ص ۱۱۴)

اور مولانا نظامیؒ گنجوی مخزن الاسرار میں تحریر فرماتے ہیں :-

کنت نبیاً کہ علم پیش بُرد  
 ختم نبوت بحمد سپرد

اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں:-

”روافض نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علیؑ نبی ہیں، لعنت کہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام مخلوق ان پر قیامت تک اور برباد کرے ان کی کھیتوں کو، اور نہ چھوڑے ان میں سے کوئی گھر بسنے والا، اس لئے کہ انہوں نے اپنے غلوں میں بالآخر سے کام لیا، اور کفر میں جم گئے، اور اسلام و ایمان کو چھڑایا، اور اللہ تعالیٰ اور انبیاء اور قرآن کا انکار کیا پس ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس شخص سے جس نے یہ قول اختیار کیا؟“

اور علامہ عارف باللہ شیخ عبدالغنی نابلسی شرح فرمائیں غالباً روافض کی تکفیر

”ان کے مذہب کا فساد محتاج بیان نہیں، بلکہ مشاہد ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد میں کوئی نبی پیدا ہو، اور اس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے، اس لئے کہ اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہیں، اور حدیث میں ہے کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر بغیر کسی تاویل و تخصیص کے رکھا جائے، اور یہ بھی انہی مسائل میں سے ہے جن کی وجہ سے ہم نے فلاسفہ طاعنہ کی تکفیر کی ہے“

إِدْعَتْ أَيْضًا أَنْ عَلَيًّا نَبِيٌّ (الی قولہ)  
لَعْنَتُهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَمَا بَرَّخَلْقِهِ  
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَلَمَ وَأَبَادَ خَضْرَاءِ نَبِيَّهُمْ  
وَلَا يَجْعَلُ مِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ ذِيَارًا فَإِنَّهُمْ  
بِالْعَوَا فِي غُلُوِّهِمْ وَمَرَدُّ ذَا عَلَى الْكُفْرِ  
وَتَرَكُوا الْإِسْلَامَ وَفَارَقُوا الْإِيمَانَ  
وَجَحَدُوا الْإِلَهَ وَالرُّسُلَ وَالتَّنَزِيلَ  
فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذِهِ  
الْمَقَالَةِ (غنیہ، منقول از اذکار المؤمنین ص ۱۷۷)

اور علامہ عارف باللہ شیخ عبدالغنی نابلسی شرح فرمائیں غالباً روافض کی تکفیر

کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-  
فَسَادَ مَذْهَبُهُمْ غَنِيٌّ عَنِ الْبَيَانِ تَسَاهَاةَ  
الْعَيَانِ كَيْفَ وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى تَجْوِيزِ  
نَبِيِّ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَبَعْدَهُ وَذَلِكَ يُسْتَلْزَمُ تَكْذِيبَ  
الْقُرْآنِ إِذْ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ خَاتِمُ  
النَّبِيِّينَ وَآخِرُ الْمُرْسَلِينَ وَفِي الشُّكَّةِ  
أَنَا الْعَاقِبُ لِأَنِّي بَعْدِي وَاجْمَعَتِ  
الْأُمَّةُ عَلَى إِبْقَاءِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى  
ظَاهِرِهِ وَهَذَا إِحْدَى الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ  
الَّتِي نَسَبْنَا بِهَا الْفَلَاسِفَةَ لَعْنَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى  
(از اذکار، ص ۴۲)

یہ سلوک و تصوف کے جلیل القدر ائمہ ان روافض کو کافر قرار دیتے ہیں جو حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ خود روافض بھی ان کے لئے مستقل اور تشریحی نبوت

ثابت نہیں کرتے، معلوم ہوا کہ مطلقاً کسی قسم کی نبوت کسی شخص کے لئے تسلیم کرنا قرآن و حدیث کو جھٹلانا اور کفر صریح ہے۔

اور عارف باللہ شیخ عماد الدین اموی قدس سرہ جو اکابر اولیاء میں سے ہیں، اپنی کتاب "حیات القلوب فی کیفیت الاموال الی المحبوب" میں مستقل طور پر طائفہ صوفیہ کے عقائد کو جمع فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"چوتھی فصل عقائد صوفیاء کے بیان میں ہے جن پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، اور ان مذاہب کے بیان میں جو انہوں نے فری احکام میں اختیار کئے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو امام اہل سنت شیخ ابوالحسن اشعری اور ان کے اصحاب کا ہے، من ادله الی آخرہ۔"

أَفْضَلُ الرَّايِمِ فِي شَرَحِ عَقِيدَتِهِمْ  
الَّتِي أَجْمَعُوا عَلَيْهَا وَمَا أَحَدٌ ذَلِيهٍ مِنْ  
الْمَذَاهِبِ فِي فُرُوعِ الْأَحْكَامِ أَمَّا  
عَقِيدَتُهُمْ فَعَقِيدَةُ شَيْخِ السُّنَّةِ  
أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَأَصْحَابِهِ مِنْ  
فَاتَمَّتْهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا (حیات القلوب  
بمراحشیة قوت القلوب، ص ۲۳۲)

اس اجمالی بیان کے بعد پھر ان کے عقائد کو مفصلاً نقل فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-  
"اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔"

وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ  
اللَّهَ تَعَالَى خَتَمَ بِهِ السُّبُوءَةَ.

(حیات القلوب مذکورہ ص ۱۲۴)

اور شیخ عارف باللہ تقی الدین عبد الملک اپنی کتاب "نزہۃ الناظرین" میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص شمار کرتے ہوئے مستقل طور پر ختم نبوت کو افضل ترین خصائص میں شمار کرتے ہیں، اور احادیث ختم نبوت کا ایک کافی حصہ نقل فرماتے ہیں، جو اس رسالہ کے دو سکر حصہ میں درج ہو چکی ہیں (نزہۃ الناظرین، ص ۱۵۱ ج ۱)

اور عارف باللہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی "فتوحات" میں تحریر فرماتے ہیں:-  
"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتلایا ہے کہ (سچا) خواب اجزاء نبوت میں سے ایک جزو ہے، تو لوگوں کے واسطے نبوت میں سے یہ جزو رویار وغیرہ کا باقی رہ گیا ہے، لیکن اس کا باوجود

فَاخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ السُّبُوءَةِ  
فَقَدْ بَقِيَ لِلنَّاسِ فِي السُّبُوءَةِ هَذَا لَا  
غَيْرَهُ وَمَعَ هَذَا لَا يُطْلَقُ اسْمُ السُّبُوءَةِ

وَلَا الشَّيْءَ إِلَّا عَلَى الْمَشْرِعِ خَاصَّةً  
فَنَحَرَ هَذَا الْأِسْمَ لِخُصُوصٍ وَصَفٍ  
مُعَيَّنٍ فِي السُّبُوتِ .

(فتوحات، ص ۲۷۳۹۵)

اور اسی کتاب میں دوسری جگہ ارشاد ہے :-

كَمَنْ يُوسَعِي إِلَيْهِ فِي الْمُبَشِّرَاتِ دَهِي  
جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ السُّبُوتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  
صَاحِبَ الْمُبَشِّرَةِ نَسِيًّا تَنْفَعُنَ لِعُمُومِ  
رَحْمَةِ اللَّهِ فَمَا أَطْلَقَ السُّبُوتُ إِلَّا لِمَنْ  
أَنْصَفَ بِالْمَجْمُوعِ فَذَلِكَ الشَّيْءُ ذِ  
يَلِكُ السُّبُوتُ الَّتِي حُجِرَتْ عَلَيْنَا وَ  
أَقْطَعَتْ فَيَلَنْ مِنْ جَمَلَتِهَا التَّشْرِيعُ  
بِالدُّعَى الْمَلَكِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ وَذَلِكَ لَا  
يَكُونُ إِلَّا لِشَيْءٍ خَاصَّةً .

(فتوحات، ص ۲۷۵۶۸)

شیخ نے ان دونوں عبارتوں میں ٹھیک اسی عقیدہ کا اظہار فرمایا ہے، جو چہود امت  
اور تمام طائفہ صوفیہ کے کرام کی زبانی آپ من چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے  
بعد نبوت کا عہدہ جلیلہ کسی کو عطا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس چیز کا نام عرفِ شرع میں نبوت  
ہے وہ بالکلیہ منقطع ہو چکی ہے، البتہ کمالاتِ نبوت آپ کی امت کے افراد میں نسبت  
ائم سابقہ کے بھی زیادہ موجود ہیں، اس کا انکار نہ علماءِ ظاہر کرتے ہیں، نہ صوفیائے کرام  
چنانچہ ہم حصہ اول میں اس کی تصریح بعض آثار و احادیث سے بھی نقل کر آئے ہیں۔

نیز ان عبارتوں سے شیخ کے اس کلام کی مراد بھی حل ہو گئی، جو فتوحات کے بعض دیگر  
مقامات میں درج ہے کہ "نبوت بغیر تشریح کے باقی ہے" کیونکہ اس کلام کو ان عبارتوں  
کے ساتھ جوڑ دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے کمالاتِ نبوت اور مبشرات اور  
ولایت کو نبوتِ غیر تشریحی فرمایا ہے، جو ان کی اپنی خاص اصطلاح ہے۔

بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا نام بجز صاحبِ شریعت  
کے اور کسی پر بولا نہیں جا سکتا تو نبوت میں ایک  
خاص وصف معین ہونے کی وجہ سے اس نام  
(نبی) کی بندش کر دی گئی ؟

• جیسے کسی کی طرف مبشرات کی وحی آئی اور وہ  
مبشرات اجزائے نبوت میں سے ہیں، اگرچہ  
صاحبِ مبشرہ نبی نہیں ہو جاتا، پس رحمتِ الہیہ  
کے عموم کو سمجھو تو نبوت کا اطلاق اسی پر ہو سکتا  
ہے جو تمام اجزاء نبوت سے متصف ہو وہ نبی ہی  
اور وہی نبوت ہے، جو ہم سے روک دی گئی اور  
منقطع ہو چکی، کیونکہ نبوت کے اجزاء میں سے  
تشریح بھی ہے جو وحیِ ملکی سے ہوتی ہے، اور  
یہ بات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے ؟

ادراں عبارتوں میں یہ صاف اعلان کر دیا کہ جو نبوت بغیر تشریح ہو وہ نبوت نہیں کہلاتی ، بلکہ نبوت کا اطلاق اسی وقت درست ہوتا ہے کہ جب تمام اجزاء نبوت جن میں تشریح بھی داخل ہے ، مکمل موجود ہوں ، اس لئے اس عبارت کا حاصل تقریباً وہی ہوا جو ایک حدیث کا مضمون ہے ، جس میں ارشاد ہے کہ ” سچا خواب اجزاء نبوت میں سے ہے “ مگر کسی کے نزدیک اس کو نبوت نہیں کہتے ۔

اسی طرح شیخ کے کلام میں جب ایک طرف یہ تصریح موجود ہے کہ تشریح اجزاء نبوت میں سے ہے اور دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ نبوت بغیر تشریح باقی ہے ، تو اس کا حاصل سوا اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ نبوت باقی نہیں ، بلکہ بعض اجزاء نبوت باقی ہیں ، جن کو نہ شرعاً نبوت کہا جاسکتا ہے نہ عرفاً ، اور نہ خود شیخ اکبر کی اصطلاح میں ، کیونکہ وہ خود فرما چکے ہیں کہ جب تک حشر تشریحی ساتھ نہ ہو اس وقت تک نبوت کا اطلاق جائز نہیں ۔

یہاں سے مراد نبوتوں کے اُس فریب کی بھی قلمی کھل گئی جو انہوں نے شیخ اکبر کے کلام کی آڑ لے کر مسلمانوں میں پھیلا یا ہے کہ شیخ اکبر غیر تشریحی نبوت کی بقا کے قائل ہیں ، کیونکہ آپ ابھی خود شیخ کی زبانی معلوم کر چکے ہیں کہ غیر تشریحی نبوت ، نبوت نہیں بلکہ بعض اجزاء نبوت ہیں ۔

الغرض جس کی بقا کے وہ قائل ہیں وہ نبوت نہیں ، اور جو نبوت ہے اس کی بقا کے قائل نہیں ، اور یہی تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے ، اور اسی پر ایمان واجب ہے ۔ اور اگر بالفرض شیخ کی مراد ہماری سمجھ میں نہ آتی تب بھی نصوص قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اور جمہور امت کے متفقہ عقیدہ کو شیخ اکبر کی کسی موہم عبارت پر شیخ کی جلالتِ قلبہ مسلم ہونے کے باوجود نشانہ نہیں کیا جاسکتا ۔

اور شیخ عبد الغنی نابلسی شرح فصوص الحکم میں شیخ اکبر کی ایک عبارت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

” اور تحقیق نبوت در رسالت ہمارے رسول ﷺ  
 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حتم ہو چکی  
 اس طرح پر کہ کوئی ایسا شخص نہیں باقی رہا جو  
 وَقَدْ انْقَطَعَتِ النَّبُوءَةُ وَالرِّسَالَةُ  
 بِنَبُوءَةِ نَبِيِّنَا وَرَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ

يُصِفُ بِذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

(شرح مفصّل، ص ۸۱)

قیامت تک اس وصفِ نبوت کے ساتھ  
مصنف ہو سکے؟

اور امام العارفین حضرت شیخ مجدد الف ثانیؒ مکتوبات میں فرماتے ہیں،  
”چونکہ یہ فرقہ مبتدعہ (روافض) اہل قبلہ  
ہے اس لئے ان کی تکفیر اس وقت پرہیز  
کیا جانا چاہئے جب تک کہ ضروریات دنیویہ اور  
متواتر احکام شرعیہ کا انکار و رد ثابت نہ ہو جائے

چوں ایں فرقہ مبتدعہ اہل قبلہ اندر  
تکفیر انہا جرات نہاید نمود تا زمانیکہ  
انکار ضروریات دینیہ نہ نمایند و رد متواتر  
احکام شرعیہ نکنند، و قبول ما علم مجیسہ  
من الدین بالضرورة نکنند -

(مکتوبات امام بابائی ص ۳۳ و ص ۹۱)

جس میں تصریح ہے کہ جو مسئلہ اسلام میں متواتر اور ضروری الثبوت ہو اس کا انکار  
کفر ہے، اور یہ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مسئلہ زریحوت (ختم نبوت) اعلیٰ درجہ کا تو اتر لئے  
ہوئے ہے، اس لئے اس کا انکار حضرت مجددؒ کے نزدیک بھی کفر ہو گا۔  
اور اس مضمون کو شیخ اکبرؒ نے فتوحات صفحہ ۲۵۷ جلد ۲ میں بیان کر کے اتنا  
اور اضافہ کیا ہے، -

”التَّائِيلُ الْفَاسِدُ كَالْكَفْرِ“ (کہ ضروریات میں تاویل فاسد کرنا بھی مثل کفر کے ہے)  
یہ عارفین صوفیاء کے مقالات ہیں، جن میں سے چند بطور نمونہ ہدیہ ناظرین ہوئے،  
ان میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جمہور امت کی طرح یہ بلند پرواز جماعت بھی ہر قسم کی نبوت  
کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم سمجھتی ہے اور اسی عقیدہ کو حسرت و ایمان بتاتی ہے۔  
علماء امت کے ہر طبقہ اور ہر جماعت میں سے چند انکان و عمائد کی شہادتیں آپ کے  
سامنے آچکی ہیں، جن میں بغیر کسی تاویل و تخصیص اور بلا تقسیم و تفصیل کے جس چیز کا نام  
عرفِ شریعت میں نبوت ہے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مانا گیا ہے۔

اس کے بعد ہم انبیاء سابقین اور امم ماضیہ سے اسی دعوے کی شہادتیں پیش کرتے ہیں  
جس کے آنکھ ہو دیکھے اور جس کے کان ہو سنے، وَ مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

# کتابِ قدیمہ تورات و انجیل

میں

## خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر

### مسئلہ ختم نبوت پر انبیاء سابقین اور انکی امتوں کی شہادتیں

آخر میں ہم ناظرین کے سامنے کتابِ قدیمہ کے چند اوراق کھولتے ہیں جن میں مسئلہ زیر بحث پر کافی روشنی ڈال کر یہ جتلا دیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت کا اختتام آپ کی ایک ایسی خصوصی فضیلت ہے کہ جماعتِ انبیاء میں سے آپ کے لئے طغری امتیاز ہے، اور امتیاز بھی وہ کہ آپ کی تشریف آوری سے بہت پہلے دنیا میں اس کا اعلان کر دیا گیا تھا۔

لیکن موجودہ تورات و انجیل چونکہ اپنے پرستاروں کے دستِ ظلم سے مسخ و فسخ اور حذف و ازدیاد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ان کے بدلنے کے لئے کمیشن بیٹھتے ہیں، اس لئے ہم نے اس باب میں بھی اپنے علماء و سلف اور صحابہ و تابعین کی نقلوں پر اعتماد کیا ہے جو مستند کتبِ حدیث سے اخذ کی گئی ہیں، جس کو ہم اگر اقوالِ محدثین میں داخل کرنا چاہیں تو بلا تکلف کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس میدان میں قدم رکھا تو ابوابِ سابقہ کی طرح یہ بھی ایک ناپید آکنار دریا نکلا، جس کے چند موٹی ہدیئے ناظرین کے جاتے ہیں، اور باقی کو نجوفِ تطویلِ حذف کیا جاتا ہے، وہی ہذا :-

## حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم

امام التفسیر ابن حشر ریطبریؒ آیه کریمہ وَ أَخَذْنَا آلُكُوفَةَ كِتَابٍ تَحْمِلُ تَوْرَاتِ

کا ذکر کرتے ہوئے ایک طویل حدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں :-

قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ إِنِّي آجِدُ فِي  
الْأَلْوَارِحِ أُمَّةً هُمْ الْأَخِيرُونَ فِي الْخَلْقِ  
السَّابِقُونَ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ رَبِّ  
اجْعَلْهُمْ أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةٌ  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

” حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے  
میرے رب! میں الوارح قوتات میں ایک ایسی اُمت  
دیکھتا ہوں جو پیدائش میں سب آخری ہے اور دخولِ  
جنت میں سب مقدم، اے میرے رب! ان کو میری  
امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو محمد  
صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے۔“

محدث ابو نعیم نے بھی دلائل النبوة صفحہ ۱۳ میں یہ روایت مفصل نقل کی ہے، نیز  
ابو نعیم نے حضرت حسان سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں :-

” میں آخر شب میں ایک ٹیلہ پر تھا کہ بچا ایک ایک بلند آواز سنی، جس سے زیادہ بلند  
اور رسا آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی، دیکھا گیا تو وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ طیبہ کے  
ایک ٹیلہ پر ایک مشعل لئے ہوئے ہے، اس کو دیکھ کر لوگ جح ہو گئے، اور کہا گیا ہوا کہیوں  
چلاتے ہو؟ حضرت حسان کا بیان ہے کہ میں نے اس کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا :-

” یہ ستارہ احمد طلوع ہو چکا، یہ ستارہ ہیشہ نبوت  
کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے احمد  
(صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا کوئی باقی نہیں رہا  
جو مبعوث نہ ہوا ہو۔“

هَذَا الْوَكْبُ أَحْمَدٌ قَدْ طَلَعَ هَذَا  
كَوَكْبٌ لَا يَطْلُعُ إِلَّا بِالنَّبُوَّةِ وَالْفَيْقُ  
مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَحْمَدُ.  
(دلائل النبوة، ص ۱۷)

اور حضرت خولیسہ بن مسعود فرماتے ہیں :-

” یہود ہمارے ساتھ بیٹے تھے، اور وہ (آنحضرت صلی اللہ وسلم کی بعثت سے پہلے)  
ایک ایسے نبی کے پیدا ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے جو مکہ میں مبعوث ہوں گے، اور ان کا نام  
احمد ہوگا، اور انبیاء میں سے ان کے سوا کسی کی بعثت باقی نہیں رہی، اور یہ سب

ہماری کتابوں میں موجود ہے۔“ (رواہ ابو نعیم فی الدلائل، ص ۱۷)

اور حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میں نے ابو مالک ابن سنان کو یہ کہتے  
ہوئے سنا ہے کہ میں ایک روز قبیلہ بنی عبدالاشہل میں گیا تھا، وہاں یوشع یہودی  
سے سنا کہ وہ کہتا تھا :-

’ ایک نبی کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آگیا ہے، جن کو احمد کہا جاتا ہے، جو حرم میں پیدا ہوں گے، اور پھر کہا کہ یہ بات تنہا یوشح نہیں کہتا بلکہ شرب (مدینہ) کے تمام یہودی بھی کہہ رہے ہیں ؟

ابو مالک بن سنان کہتے ہیں کہ میں یہاں سے فارغ ہو کر بنی قریظہ میں پہنچا، تو ایک جماعت دیکھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی تھی، زہیر ابن باطانہ کہا کہ یہ ۔ کوکب احمد طلوع ہو چکا ہے، اور یہ ستارہ جب ہی طلوع ہوتا ہے جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا کسی کی پیدائش باقی نہیں رہی، اور یہ (مدینہ) ان کی ہجرت گاہ ہے ؟ (رواہ ابو نعیم فی الدلائل، ص ۱۸)

اور حضرت کعب بن جہل فرماتے ہیں کہ میرے والد تورات اور اس کلام پاک کے سب سے زیادہ عالم تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور وہ جو کچھ جانتے تھے مجھ سے کچھ نہ چھپاتے تھے، جب ان کی وفات قریب آئی تو مجھے بلایا اور کہا :-

” بیٹا! تم جانتے ہو کہ جو کچھ علم مجھے حاصل تھا میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، مگر دو درق ابھی تک میں نے تم پر ظاہر نہیں کئے تھے، جن میں ایک نبی کا ذکر ہے، جن کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا ہے، میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ تمہیں پہلے سے اس پر مطلع کر دوں، کیونکہ خطرہ تھا کہ کوئی کذاب اٹھے اور تم اسی کو نبی موعود سمجھ کر اطاعت شروع کر دو، ان دونوں درقوں کو میں نے اس طاق میں جس کو تم دیکھ رہے ہو گا اسے سے بند کر دیا۔ کعب ابن جہل نے (اس کا طویل دلچسپ قصہ لکھنے کے بعد) فرمایا کہ پھر میں نے یہ دو درق اس طاق سے نکالے تو ان میں یہ کلمات بھی لکھے تھے :-

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (رواہ ابو نعیم، ازہر، ص ۱۲۶)

” محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور سب انبیاء کے ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ؟

## حضرت شعیب علیہ السلام

اور حضرت وہب بن منبہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جس میں طویل کلام کے ضمن میں یہ کلمات

بھی مذکور ہیں۔

” میں ایک نبی اُمتی بھیجے والا ہوں جس کے ذریعہ سے میں بے کانوں اور بند دلوں اور ننگی آنکھوں کو کھول دوں گا، ان کی جگے پیدائش مگر اور ہجرت گامتہ اور اقتدار شام میں ہوگا، اس کے بعد فرمایا، اور ان کی اُمت کو بہترین اُمت بناؤں گا، ان کی کتاب پر آسانی کتاب میں اور ان کی شریعت پر تمام شریعتیں اور ان کے دین پر تمام ادیان ختم کر دوں گا“

إِنِّي بَاعِثٌ نَبِيًّا أُمَّتِيَا أَفْتَحُ بِهِ إِذَا شَاءَ صُتًا وَكَلُوبًا غُلْفًا وَأَعْيُنًا عُمِيًّا مَوْلِدًا بِسَكَّةٍ وَمُهَاجِرَةً بِطَيْبَةِ وَ مِلْكُهُ بِالشَّامِ (الِی قَوْلِهِ) وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ (الِی قَوْلِهِ) أَحْسَنُ يَكْتُبُ لَهُمُ الْكُتُبَ وَيُبَشِّرُهُمُ الشَّرَائِعَ وَبِدِينِهِمُ الْأَدْيَانَ، الْحَدِيثُ (رِوَاهُ ابْنُ بِنْتِمْ فِي الدَّلَائِلِ مِلًّا وَالسُّيُوطِيُّ فِي الدَّرَرِ الْمُنْتَوَسِ، ص ۱۱۴ ج ۳)

## حضرت دانیال علیہ السلام

اور حضرت کعب احبار نقل فرماتے ہیں کہ ارض بابل سے بنی اسرائیل کی خلائی کا سبب نجت نصر کا ایک طویل خواب ہوا ہے، جس میں اس نے ایک عظیم الشان بُت دیکھا تھا، جس کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین میں ہیں، اس کے اوپر کا حصہ سونے کا اور درمیانی چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور دونوں پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں مٹی کے ہیں، اچانک آسمان سے ایک تھمرا آیا جو اس کے سر کی چوٹی پر پڑا جس سے اس کا ریزہ ریزہ ہو کر چاندی سونا، لوہا تانبہ سب ایک ہو گیا، پھر دیکھا کہ یہ آسمانی تھمرا ٹھہرا ہے، یہاں تک کہ تھمرا ٹھہرتے اس نے تمام زمین کو گھیر لیا، اور سوائے آسمان اور اس تھمرا کے کچھ نظر نہیں آتا، جس کی تعبیر اس زمانہ کے ہی حضرت دانیال علیہ السلام نے مفصل بیان فرمائی، جس کے چند کلمات یہ ہیں:

” وہ تھمرا جو بُت کے سر پر پھینکا گیا وہ اللہ کا دین ہے، جو اس اُمت کے سر پر آخرا زماں میں آلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک نبی اُمتی عرب سے بھیجے گا، جس کے ذریعے تمام اہم ادیان کو زیر و زبر کر دیا جائے گا، جس طرح اس تھمرا نے بُت کو زیر و زبر کر دیا ہے (اور دلائل ابونعیم، صفحہ ۱۴) اور یہی روایت سیوطی نے خصائص صفحہ ۲۴ جلد ۱ میں بھی مفصل نقل فرمائی ہے۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی شہادت

اور اُس کا قابل دید واقعہ؛

حضرت مغیرو بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ابن مالکؓ بادشاہ روم مقوقس کے یہاں پہنچے۔ مقوقس نے ہم سے پوچھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ مصلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اصحاب تو درمیان میں تھے، انہوں نے تمہیں روکا نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم دریا کے کنارے کنارے چلے آئے، ہمیں بھی یہی خوف دامن لگتا تھا۔

پھر اس نے پوچھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمہیں جس دین کی دعوت دی تم نے اس کے متعلق کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے جہان کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس نے پوچھا کہوں؟ ہم نے کہا وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، جس پر ہمارے باپ دادا عامل نہیں، اور نہ بادشاہ (یعنی آپ) اور ہم اسی طریقہ پر ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد گذر گئے ہیں۔

پھر مقوقس نے کہا کہ اچھا ان کی قوم (قریش) نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا کہ تو عمر لوگ ان کے متبع ہو گئے، اور جو لوگ مخالفت تھے انہوں نے مختلف مواقع میں کئی مرتبہ مقابلہ کیا کبھی میدان ان کے ہاتھ رہا اور کبھی اس نے فتح پائی۔

پھر مقوقس نے کہا کہ کیا تم مجھے سچ بتا سکتے ہو کہ وہ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ان کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اور نماز و زکوٰۃ کی تعلیم کرتے ہیں۔

مقوقس نے پوچھا، نماز اور زکوٰۃ کیا چیز ہیں؟ کیا ان کے لئے کوئی وقت اور کوئی عدد مقرر ہے؟ ہم نے کہا ہاں، وہ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے لئے خاص خاص نام بھی ہیں، اور وہ بیٹیں مشقال سونے میں سے چالیسواں حصہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے مفصل زکوٰۃ کے احکام سنائے۔

اس نے پوچھا کہ پھر وہ یہ مال زکوٰۃ لے کر کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ فقرا میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ صلہ رحمی اور ایثار و عہد کا حکم کرتے ہیں۔ اور یہ کہ سود لینا،

زنا کرنا، شراب پینا حرام ہے۔ اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے اس میں سے نہیں کھاتے۔

مقوقس نے کہا بیشک وہ نبی ہیں، جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں، اور اگر وہ قبط اور روم کے پاس تشریف لاتے تو وہ آپ کا اتباع کرتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس کا امر فرمایا ہے۔ اور تم نے جو کچھ حالات اوصاف اُن کے بیان کئے ہیں یہ سب وہی اوصاف ہیں جن پر انبیاء سابقین مبعوث ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ انجام اُن کے ہاتھ ہوگا، یہاں تک کہ ایک متنفس اُن سے جھگڑنے والا نہ رہے گا۔ اور ان کا دین ہر اس حد تک غالب آجائے گا جہاں تک لٹاؤ اور گھوڑے جاسکتے ہیں، اور جہاں تک انسانوں کی آبادی ہے، اور قریب ہے کہ ان کی قوم اُن سے نیزوں کے ساتھ مدافعت کرے گی۔

ہم نے کہا کہ اگر تمام انسان بھی اُن کے دین میں داخل ہو جائیں تب بھی ہم داخل نہ ہوں گے۔ یہ سنکر مقوقس نے (نفرت سے) سر پٹایا، اور کہا کہ تم لہو و لعاب میں ہو۔ پھر مقوقس نے پوچھا کہ اُن کا نسب کیسا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ نسب میں اشرف ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء، اسی طرح اپنی قوم میں تشریف نسب سے سمیٹے جاتے ہیں۔

پھر پوچھا کہ اُن کے سچ بولنے کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ اپنی سچائی کی وجہ سے تمام عرب میں امین کے نام سے مشہور ہیں۔

یہ سنکر کہنے لگا کہ تم اپنے معاملہ میں پھر سے غور کرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تم سے سچ بولے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔

پھر کہا کہ کن لوگوں نے آپ کا اتباع کیا؟ ہم نے کہا، نو عمر لوگوں نے۔ مقوقس نے کہا کہ وہ اور حضرت مسیح علیہ السلام تمام انبیاء سابقین کی طرح ہیں۔

پھر پوچھا کہ یشرب کے یہود نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس لئے کہ وہ اہل نبوت ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ انہوں نے مخالفت کی، تو اس نے اُن کا مقابلہ کیا، بعض کو قتل کیا، اور بعض کو قید، اور وہ سب منتشر ہو گئے۔

یہ سنکر کہنے لگا کہ وہ حاسد ہیں، حسد کی وجہ سے مخالفت کی، ورنہ وہ بھی اُن کے

حال کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔

حضرت مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم اُن کے پاس سے اُٹھے، اور ایک ایسی بات سُن کر اُٹھے جس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منقاد و مطیع بنا دیا تھا، اور ہم نے آپس میں کہا کہ عجمی بادشاہ باوجود بُعد تعلقات کے اُن کی تصدیق کرتے ہیں اور اُن سے ڈرتے ہیں، اور ہم اُن کے رشتہ دار اور پڑوسی ہونے کے باوجود اُن کے دین میں داخل نہیں ہوتے، حالانکہ وہ ہمیں دعوت لینے کے لئے ہمارے گھروں میں تشریف لائے۔

حضرت مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسکندریہ میں مقیم رہا، اور کوئی کنیسہ (گر جا) نہیں چھوڑا جس میں جاگرا انھوں نے وہاں کے قبعلی اور رومی پادریوں سے دریافت نہ کیا ہو کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کیا کیا صفات اپنی کتابوں میں پاتے ہو۔

کنیسہ الی عجمی میں ایک بڑا مشہور پادری تھا جس کو متبرک سمجھ کر لوگ اپنے مریضوں کو دعار پڑھوانے کے لئے اس کے پاس لاتے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ پانچ نمازیں نہایت خشوع و خضوع سے پڑھتا تھا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ:-

”مجھے بتلاؤ کہ کیا انبیاء میں سے کوئی نبی باقی میں اس نے کہا ہاں، اور وہی آخر الانبیاء میں، اُن کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، وہ نبی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہیں اُن کے اتباع کا حکم فرمایا ہے، وہ نبی اُمّی عربی ہیں، ان کا نام احمد ہے، نہ دراز قد میں نہ پست قد بلکہ درمیانہ، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے (اس کے بعد اور بہت کچھ بیان کئے)؟“

أَخْبَرَنِي هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ  
قَالَ نَعَمْ وَهُوَ أَخِيرُ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ  
بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ أَحَدٌ  
وَهُوَ نَبِيٌّ قَدْ أَمَرْنَا عَيْسَى بِاتِّبَاعِهِ  
وَهُوَ الشَّيْءُ الْأُمِّيُّ الْعَرَبِيُّ اسْمُهُ  
أَحْمَدٌ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ  
فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ الْحَدِيثُ رَوَاهُ  
الْبُؤَيْعِيُّ فِي الدَّلَائِلِ (ص ۲۰، ۲۱)

حضرت مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کلام کو خصوصاً اور دوسرے پادریوں کے کلمات عموماً یاد رکھے، اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ سنایا اور شرف باسلام ہو گیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔  
ہیں اس جگہ اس تمام واقعہ سے صرف وہ سطر میں مقصود تھیں جو عربی عبارت

میں نقل کی گئی ہیں، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا کلی اختتام بتلایا گیا ہے، لیکن ناظرین کی دلچسپی کے لئے پورا واقعہ نقل کر دیا، جو فائدہ سے خالی نہیں۔

اور بلال بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تجارت کے لئے ملک شام میں طرف چلا، جب میں شام کے گرد و نواح میں پہنچا تو اہل کتاب میں سے ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ تم ان کی صورت پہچانتے ہو؟ میں نے اقرار کیا۔ یہ سنکر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اس کے گھر پہنچا، تو اندر داخل ہوتے ہی ٹھیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر پڑی، ایک آدمی آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہے، میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ شخص جو آپ کی پشت کی جانب کھڑا ہے کون ہے؟ اس نے جواب دیا:-

”بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں  
ہوا جس کے بعد کوئی اور نبی ہو سوائے اس کے  
کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ شخص جو پیچھے  
کھڑے ہیں ان کے خلیفہ ہیں۔“

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلَّا كَانَتْ بَعْدَهُ نَبِيٌّ  
إِلَّا هَذَا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَ هَذَا  
الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ . (رواه الطبرانی  
كذا في الكتبخ، ص ۲۸۱ ج ۱۶)

بلال بن حارثؓ کہتے ہیں کہ اب جو میں نے غور کیا تو پیچھے والی تصویر ٹھیک ابو بکر صدیقؓ ہیں۔

## حضرت ابراہیم علیہ السلام

امام شعبیؒ فرماتے ہیں کہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں لکھا ہوا ہے:-

”آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل ہوتے رہیں گے  
یہاں تک کہ نبی اُمتی آجائیں، جو خاتم الانبیاء  
ہوں گے۔“

إِنَّهُ كَثِيرٌ مِنْ دَوْلَاتِ شُعُوبٍ وَ شُعُوبٍ  
حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَكُونُ  
خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ (خصائص بزرگ سیوطی ص ۱۱۷)

اور ابن جریرؒ اپنی تفسیر میں ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم

علیہ السلام نے یہ دعا کی:-

”یعنی اے ہمارے رب! ان میں ایک رسول  
بھیج، الخ تو بندہ رعبہ دمی ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اے

رَبِّا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ الْاَلِيهِ قَدْ  
اسْتَجِيبَ لَكَ وَهُوَ كَأَمِّنٌ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

دعا قبول گئی اور وہ رسول آخری زمانہ میں ہونے والے ہیں۔“

اور امام بیہقیؒ بروایت عمرو بن محمد نقل فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد سے ایک ورق محفوظ چلا آتا تھا، جو جاہلیت میں نسلاً بعد نسل درانت میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ دین اسلام ظاہر ہوا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو لوگ یہ ورق آپ کی خدمت میں لائے، پڑھوایا گیا تو اس میں یہ عبارت لکھی تھی:-

بِسْمِ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ هَذَا الَّذِي كَسُرَ لِأُمَّةٍ تَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ  
يَسْبَلُونَ أَطْرَافَهُمْ وَيَأْتِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَيَخُوضُونَ الْبَحَارَ  
إِلَى أَعْنَاقِهِمْ فِيهِمْ صَلَوةٌ لَوْ كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ مَا أَهْلَكُوا بِالطُّوفَانِ  
ذِي عَادٍ مَا أَهْلَكُوا بِالرِّيْحِ وَفِي ثَمُودَ مَا أَهْلَكُوا بِالصَّيْحَةِ .

(خصائص کبریٰ، ص ۱۶ ج ۱)

ترجمہ: اللہ کے نام پر شروع ہے، اور اسی کا قول حق ہے۔ یہ ذکر ہے اس امت کا جو آخر زمانہ میں آئے گی، جن کے لباس کے اطراف چھوٹے ہوئے ہوں گے اور اپنی کمریوں پر تہیند باندھیں گے اور دشمنوں کے مقابلہ کے لئے دریاؤں میں گھس پڑیں گے۔ ان میں ایسی نماز ہوگی کہ اگر قوم نوح میں یہ نماز ہوتی تو وہ طوفان میں ہلاک نہ ہوتے، اور اگر قوم عاد میں ہوتی تو وہ ہوا کے طوفان سے ہلاک نہ ہوتے، اور اگر قوم ثمود میں ہوتی تو وہ ہولناک آواز سے ہلاک نہ کئے جاتے؛

جب یہ ورق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا گیا تو اس کے مضمون کو شکر آت خوش ہوئے۔

اور زید ابن عمرو بن نفیلؒ جو علماء اہل کتاب میں سے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وفات پا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات بیان کیا کرتے تھے، ایک دفعہ فرمایا:-

إِنِّي بَلَغْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا أَطْلُبُ دِينَ إِبْرَاهِيمَ دَكُلِ أَسْأَلُ مِنَ  
الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ يَقُولُ هَذَا الَّذِينَ وَرَأَعَكَ وَيُعْتَوُونَ  
مِثْلَ مَا نَعَتَهُ لَكَ وَكُفْرِي نَبِيٍّ غَيْرِي (خصائص کبریٰ، ص ۲۵ ج ۱)

” میں دین ابراہیم کی طلب میں تمام شہروں میں پہنچا، اور یہود و نصاریٰ اور مجوس میں جس کسی سے پوچھتا تھا یہی جواب دیتا تھا کہ یہ دین تم سے آگے آنے والا ہے اور

وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اوصاف بیان کرتے تھے جو میں نے تم سے بیان کئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا۔  
 اور محدث ابو نعیم حضرت سعد بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی قرظیہ  
 و بنی نضیر کے پادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کیا کرتے تھے، جب کوکب  
 احمد طلوع ہوا تو سب نے متفقہ طور پر کہا:-

إِنَّهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِسْمُهُ أَحْمَدُ (خصائص، ص ۲۷۷ ج ۱)  
 "محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کا نام احمد ہے؟  
 نیز ابو نعیم زیاد بن لبید سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مدینہ کے ایک ٹیلہ پر تھے اچانک  
 یہ آواز سنی:-

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ قَدْ ذَهَبَتْ وَاللَّهِ نُبُوَّةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَذَا نَجْمٌ  
 قَدْ طَلَعَ بِمَوْلَى أَحْمَدَ وَهُوَ نَبِيٌّ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مُهَاجِرٌ إِلَى  
 يَثْرِبَ (خصائص، ص ۲۷۷ ج ۱)

اے اہل یثرب! خدا کی قسم بنی اسرائیل کی نبوت جاتی رہی، یہ ستارہ احمد  
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت کے ساتھ طلوع ہوا ہے، اور وہ آخر الانبیاء میں،  
 اور ان کی ہجرت کی جگہ یثرب ہے؟

امام بیہقی او طبرانی اور ابو نعیم اور خضر الخطیبی خلیفہ بن عبدہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میں  
 نے ایک دن محمد بن عدی بن ربیعہ سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں تمہارے باپ نے تمہارا نام  
 محمد کیسے رکھ دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو بات تم نے مجھ سے دریافت کی ہے میں نے  
 خود اپنے والد سے دریافت کی تھی، انہوں نے اس کا یہ واقعہ سنایا کہ:-

"قبیلہ بنی تمیم کے ہم چار آدمی شام کے سفر کے لئے نکلے، جن میں ایک میں تھا،  
 اور دوسرے سفیان بن مجاشع بن آدم، اور تیسرے یزید بن عمر بن ربیعہ، اور چوتھے  
 اسامہ بن مالک بن خندف۔ جب ہم ملک شام پہنچے تو ایک تالاب پر آئے،  
 جس کے کنارہ پر درخت کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ایک پادری ہمارے پاس آیا اور  
 پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ قبیلہ مضر کی ایک جماعت ہے، اس  
 نے کہا:-

إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ مُبْعَثٌ مِنْكُمْ بِرِسَالَةٍ فَاسْتَجِبُوا لِي وَخُذُوا بِحُظَيْكُم مِّنْهُ تَرْشُدُوا فَإِنَّهُ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ .

” تمہارے قبیلہ میں سے عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں تم ان کی طرف جلد پہنچو، اور اپنا حصہ دین ان سے لے لو تم ہدایت پاؤ گے، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں؟“

ہم نے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے؟ انہوں نے محمد بتلایا۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو اتفاقاً ہم چاروں کے چار لڑکے پیدا ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے لڑکے کا نام اس طبع پر محمد رکھ دیا کہ شاید یہ وہ ہی نبی ہو جائیں۔“  
(خصائص کبریٰ، ص ۲۳ ج ۱)

## حضرت یعقوب علیہ السلام

ابن سعدؒ محمد بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

یعقوبؑ پر یہ وحی نازل فرمائی :-

” میں آپ کی ذریت میں بادشاہ اور انبیاء پیدا کروں گا یہاں تک کہ حرمِ حلالے نبی مبعوث ہوگا، جن کی امت ہیکل بیت المقدس کو بنائے گی اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے اور ان کا نام ”احمد“ ہوگا۔“

إِنِّي أَبْعَثُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مُلُوكًا وَأَنْبِيَاءَ  
عَنِّي أَبْعَثَ النَّبِيَّ الْخَرَمِيُّ الَّذِي تَبْنِي  
أُمَّتُهُ هَيْكَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَهُوَ خَاتِمُ  
الْأَنْبِيَاءِ وَأَسْمُهُ أَحْمَدُ (خصائص، ج ۱)

مسئلہ زیر بحث پر تمام شرعی جہتیں اور ان کے متعلقات کا فی طور پر پیش کرنے کے بعد ان آزاد خیال لوگوں کی ضیانتِ طبع کے لئے کچھ سامانِ عقلی حکمتوں کا بھی پیش کر کے حجت تمام کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جن کے یہاں آزادی کے معنی ہی دین و مذہب سے بیزاری ہے جنہیں قرآن و حدیث سے شفاء نہیں ہوتی، اگرچہ ایسے حضرات سے کیا توقع ہے کہ وہ ہماری عرضداشت پر بھی کان لگائیں لیکن

حجت تمام کرتے ہیں آج آسمان سے ہم

# آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تمام نبوت کی عقلی دلیلیں

مسئلہ ختم نبوت کے متعلق قرآن حکیم کا ناطق فیصلہ، احادیث نبویہ کی تصریحات، اجماع صحابہ اور پھر سینکڑوں علماء و سلف کے اقوال ناظرین کے سامنے آچکے ہیں۔ اور یہی تین اصول ہیں جن سے عقیدہ کے مسائل ثابت ہو سکتے ہیں۔ چوتھے درجہ میں قیاس بھی شرعی حجت ہے۔ لیکن اول تو باب عقائد میں قیاس محض حجت نہیں سمجھا جاتا، دوسرے قیاس فقہی معتبر ہونے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جس حکم کو قیاس سے ثابت کیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث میں مذکور نہ ہو، اور نہ صحابہ کا اجماع اس پر ہو، بلکہ یہ تینوں حجتیں جس حکم سے خاموش ہوں، صرف وہی قیاس سے ثابت کیا جاتا ہے، اس لئے قیاس فقہی اس مسئلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ منصوصات اور منقولات کی عقلی حکمتیں ہر وقت بیان کی جاسکتی ہیں۔

اگرچہ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و سلف کے اتنے بڑے ذخیرے کے سامنے آجانے کے بعد ایک سلیم الطبع سچا مسلمان تو یہی کہے گا کہ

شدا از حقائق عرفاں دلم حسنہ نیراز ؛ گرات فلسفیاں کے نیم فلس خرم  
پراست گوش من از لہجہ ملک چو سیح ؛ کجا مشوش خاطر شود نہیتی خرم  
اور حقیقت یہی ہے کہ کسی مسئلہ کی حقیقت اگر منکشف ہو سکتی ہے اور کسی تحقیق میں  
اگر شفاء صدر ہو سکتی ہے تو اس کا راستہ نور نبوت اور وحی الہی کے سوا نہیں، پائے  
استدلال نے کبھی اس میدان کو طے نہیں کیا، جن لوگوں نے محض اپنی عقل کو کافی سمجھ کر  
تحقیق کے میدان میں قدم رکھا ہے، عمر بھر ناکامی اور نامرادی کے ساتھ حیران پریشان  
پہرنے کے بعد انہیں بھی وہی کہنا پڑا ہے جو دانائے روم نے فرمایا تھا ہے  
آرمودم عقل دور اندیش را  
بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

الغرض سترآن و حدیث، اجماع اور آثار صحابہ پیش کرنے کے بعد کسی مسلمان کے لئے حاجت نہیں کہ عقلی حکمتیں پیش کرنے کا انتظار کرے، بلکہ اس کے نزدیک ساری عقلی حکمتیں اور عقلیں اس ایک حکمت پر قربان ہیں کہ جب ایک ذات مقدس کو آفتاب سے زیادہ روشن علامات کے ذریعہ خدا کا رسول تسلیم کر لیا، تو پھر جزئی حکم میں اس سے حکمت یا علت پوچھنا عقل اور حکمت کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ ایسی کامل اور مکمل عقل کا متبع ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی عقلیں ہیچ ہیں، جس کے نشاط میں وہ کہہ اٹھتا ہے

افلاطون کا شکے می دید یونانی نے کہ من دارم

اس کا سینہ ایک ایسی حکمت سے معمور ہے جس کے سامنے ساری حکمتیں گرد ہیں۔

دے دارم جو ہر خانہ عشق است تجویش

کہ دار دزیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

الحاصل ضرورت نہ تھی کہ شرعی حجتوں کو پیش کرنے کے بعد ہم اس میدان میں قدم رکھتے، لیکن دود جبر سے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اول تو یہ کہ نقل کو جب عقل کے ساتھ مطابق کر کے دکھلایا جاتا ہے تو یہ حکم دل میں اُتر جاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہر دلتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مرزائیوں کی ابلہ فریب تحریفات نے جیسا کہ سترآن و حدیث پر اپنا جال پھیلانا چاہا ہے، ایسے ہی یہ بھی ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ عقل کے خلاف ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کو گھٹانے والا ہے۔

چشم بداندریش کہ برکتہ باد

عیب نماید ہنرش در نظر

اس لئے ضرورت ہوئی کہ ان کا یہ طلسم توڑ کر عقلی طور سے یہ دکھلایا جائے کہ ختم نبوت عین مقضائے عقل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتیازی فضیلت ہے جو آپ کی شان کو تمام انبیاء و رسل سے بڑھا دیتی ہے۔

مرزائیوں نے اس باب میں بزورِ خطابت جو کچھ مسلمانوں کے قلوب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اُس کا خلاصہ دو یا تین باتیں ہیں۔  
اول یہ کہ نبوت ایک رحمت ہے، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبوت قرار

دیا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ رحمۃ للعالمین کے آتے ہی دنیا سے رحمت منقطع ہوگئی، یہ اچھی برکت ہوئی کہ رحمت کا خاتمہ ہو گیا، اور قیامت تک اس کا دروازہ بند ہو گیا، اور یہ صریح توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

دوم یہ کہ قدیم سے عادتہ اللہ اس پر جاری ہے کہ جب دنیا میں گمراہی غالب آئی لوگ صراط مستقیم سے ہٹنے لگے تو اپنی رحمت کاملہ سے کوئی نبی مبعوث فرما دیا۔

آج بھی جب کہ دنیا پر ظلم و جور کی حکومت ہے، کفر و ضلالت کی گھٹائیں عالم چھا گئی ہیں نبوت کی ضرورت پیدا ہوگئی، اور خداوند عالم کی رحمت میں کمی نہیں، اس لئے عادتہ اللہ کے مطابق ضرور کوئی نبی مبعوث ہونا چاہئے۔

سوم انبیاء سابقین میں سے جو اول العزم انبیاء گذرے ہیں، ان کے ماتحت بہت سے انبیاء انہی کی شریعت کی نشر و اشاعت کے لئے مبعوث ہوتے رہے ہیں جس ان کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کے ماتحت جس قدر خود مختار سلطنتیں اور ریاستیں، رجاٹے ہوتے ہیں اسی قدر اس بادشاہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور شاہ کے بجائے اس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے، اس فطری قاعدہ کا مقتضایہ بھی یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بجائے انقطاع نبوت کے انبیاء سے ماتحت کی اس قدر کثرت ہو جو انبیاء سابقین سے بھی بڑھ جائے۔

یہ چند کلمات ہیں جن کو دلفریب صورت سے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور فیصلت مطلقہ کے حامی ہیں، اور ختم نبوت کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔

ان سب باتوں کا اجمالی اور مختصر جواب تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ (جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں) ہم نے خود تصنیف نہیں کیا، بلکہ اس عظیم الشان رسول کے بھیجے والے نے اور خود رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو کچھ ہمیں بتلایا ہے ہم نے تسلیم و انقیاد کو اپنا فرض سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔

بارگفتہ ام دبا دگر مستگویم ، کہ من گم شدہ این رہ نہ بخودی بوم  
در پس آئینہ طوطی مستقیم داشتہ اند ، آنچه استاد ازل گفت ہماری گویم  
تو اگر بالعرض عقیدہ ختم نبوت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بڑی عظمت

ظاہر نہیں ہوتی، تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر زبردستی کر کے اس عظمت سے زائد کوئی عظمت آپ کے لئے ثابت کرے جو خداوند عالم نے آپ کو عنایت سرمائی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو خدائے قدوس نے عقل و فہم کا کوئی حصہ عنایت فرمایا ہے وہ بلا تامل سمجھ سکتا ہے کہ ختم نبوت ایک ایسی فضیلت اور انتہائی عظمت ہے کہ ایک نبی کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہو سکتی، جس کی تفصیل مرزائیوں کے بیانات مذکورہ کی ترتیب پر ذیل میں عرض کی جاتی ہے :

ار اقل کے متعلق گزارش ہے کہ نبوت کا رحمت ہونا تو مسلم ہے اور یہ بھی تسلیم کہ آپ اس رحمت کے خاتم ہیں۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ دنیا اب رحمت سے خالی رہ جائے گی، اور رحمتہ للعالمین کا وجود دنیا کے لئے (معاذ اللہ) زحمت بن جائے گا، صرف مرزائی فہم اور مرزائیت کی برکات میں سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر رحمت کے مختلف چھوٹے چھوٹے دروازے بند کر کے ایک اتنا بڑا پھاٹک کھول دیا جائے جس سے سارے عالم کی تربیت اور پرورش ہو سکے تو کیا اس کو زحمت کہا جائے گا؟ یا انتہائی درجہ کی عظیم الشان رحمت، اور کیا یہ دنیا سے رحمت کا انقطاع سمجھا جائے گا یا ساری دنیا کا رحمت سے لبریز ہو جانا؟

اگر چھوٹی چھوٹی گولوں اور نالیوں کو بند کر کے ایک عظیم الشان نہر، یا معمولی وقتی اور مقامی نالیوں کو بند کر کے ایک عالمگیر جھڑی لگا دی جائے تو اس کو دنیا کے لئے خشک سالی کہا جائے گا یا حیاتِ دائم کا پیغام؟

ٹہٹہتے ہوئے بے شمار چراغوں کو اٹھا کر اگر اتنا بڑا برقی گیس قائم کر دیا جائے، جس کی روشنی تمام چراغوں کے مجموعہ سے کہیں زائد ہو تو ان چراغوں کا ختم ہونا اندھیرا کا باعث ہوگا یا پہلے سے زیادہ روشنی کا، یا ان گنت ستارے غائب ہو کر آفتاب عالم تاب سامنے آجائے تو یہ ظلمت کا سبب ہوگا یا پہلے سے کہیں زائد نور کا، فَتَا يَغْوِيْنَ اِلٰى الْقَوْمِ لَا يَكْفُرُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَقَّ نِبْيَا۔

ابتداء عالم سے رحمت نبوت جزوی صورت سے محدود زمانہ اور محدود مکان کے لئے دنیا میں آئی رہی، ایک خطہ میں موسیٰ خدا کی رحمت بن کر خلقِ اللہ کی تربیت کرتے ہیں، تو دوسرے

میں شعیب علیہ السلام اسی خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ ایک ملک میں اگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں رحمتِ خداوندی جلوہ گر ہوتی ہے تو دوسرے میں لوط اسی رحمت کا پیکر بن کر آتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ کے اعتبار سے ایک زمانہ میں آدمؑ ہیں تو دوسرے میں نوحؑ۔ ایک قرن میں ابراہیمؑ احکامِ الہی کی تبلیغ کرتے ہیں تو دوسرے میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خدمت سپرد ہوتی ہے۔

آخر میں یہ عنایاتِ الہیہ اور رحمتِ حق کا اقتضار ہوتا ہے کہ اب وہ عالمگیر رحمت دنیا میں بھیج دی جائے جو تمام رحمتوں کا سرچشمہ اور تمام انوار و برکات کا حزانہ ہے۔

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَسْكِرٍ أَنْ يَخْتِمَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ  
یہ عالمگیر رحمت نبی الانبیاء سید الاولیاء والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں ظاہر ہوئی، جو تمام انبیاء و رسل کے کمالات کی جامع اور اس کی مصداق ہے۔

حُسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یربیضاداری

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہاداری

انبیاء سابقین اپنی اپنی حد میں سب شمعِ ہدایت تھے، لیکن جب یہ ماہتاب روشن ہو گیا تو سب کی روشنی اس کی روشنی میں مغلوب ہو گئی، اور اب سارے عالم کی تنویر کے لئے تنہا یہی کافی ہو گیا ہے

گوشعِ بیخچے ینیش کز رخت امشب

کاشانہ مارا ہمہ بہتاب گرفت ست

یا یوں کہئے کہ انبیاء سابقین نجومِ ہدایت تھے جو اپنی اپنی حد اور اپنے اپنے درجہ کے مطابق عالم سے قلمتِ کفر مٹانے میں مصروف تھے، ایک وہ وقت آیا کہ ان اوصافِ خاتم الانبیاء کی صبحِ صادق نمودار ہوئی، اور پھر آفتابِ نبوت جلوہ آرا ہو گیا، تو وہ ستارے سب اپنی اپنی جگہ پر اسی آبِ دتاب کے ساتھ ہونے کے باوجود آفتاب کی روشنی میں ظاہر

لے نبی کی عظمتِ شان اور سچائی ثابت کرنے کے لئے جو واقعات بطور خرقِ عادت رونما ہوئے ان میں جو عطائے نبوت سے پہلے ظاہریوں ان کو تار لاس کہتے ہیں، اور جو بعد عطائے نبوت کے صادر ہوں ان کا نام معجزہ ہے۔

نہیں ہو سکتے ، اور اب سارے عالم کی نظریں صرف اسی کرۂ نور کو دیکھتی ہیں اور اسی کی ضیاء گسٹری پر عالم کے ظلمت و نور کا مدار ٹھہر گیا ہے

رات محفل میں ہر ایک مہ پارہ گرم لاف تھا

صبر دم خورشید جب نکلا تو مطلع صاف تھا

اب کوئی مرزائی ہی ہوگا تو ان شمعوں یا ستاروں کے غائب ہونے پر ماتم کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ ہائے اب دنیا نور سے خالی رہ جائے گی۔ ایک بصیر انسان تو اس عالمگیر روشنی اپنا فخر سمجھ کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا۔

## مرزائیوں سے میرا سوال

اس کے بعد میں خود مرزائیوں سے دریافت کرتا ہوں جس طرح آپ کی مزعومہ نبوت غیر تشریحی ایک رحمت ہے ، اسی طرح تشریحی نبوت اور شریعت مستقلہ اور کتب سماوی کا نزول وحی ملکی وغیرہ کو غالباً آپ بھی زحمت نہ کہہ سکیں گے ، بلکہ چار دنا چار رحمت ہی کہنا پڑے گا ، اور ساتھ ہی آپ کو اقرار ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تشریحی نبوت اور شریعت جدیدہ کتب سماویہ کے نزول کا انقطاع بالکلیہ ہو چکا ہے ، تو کیا جو الزام آپ ہم پر لگاتے تھے وہی آپ پر نہیں لوٹ آیا کہ حضرت رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لئے (معاذ اللہ) انقطاع رحمت کا سبب ہو گئے۔ اگر رحمت شریعت کے انقطاع سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور رحمتہ للعالمین ہونے میں فرق نہیں آتا تو غیر تشریحی نبوت کے انقطاع سے بھی نہیں آسکتا۔ ان فرض نبوت تشریحی کی رحمت و برکت کا انقطاع جو آپ کو بھی مسلم ہے جو آپ اس کا جواب دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے اپنی مزعومہ غیر تشریحی نبوت کے لئے بھی خیال فرمائیں اور بس۔

امردوم کے متعلق مختصراً یہ گزارش ہے کہ بیشک ابتداء عالم سے سنت اللہ یوں ہی جاری رہی ہے کہ کفر و ضلالت عالم کا احاطہ کرے ، اور حق و باطل کا امتیاز نہ ہے تو خداوند عالم اپنی رحمتِ کاملہ سے کوئی نبی مبعوث فرمادیتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانہ میں اس میں دو وجہ سے کلام ہے۔ اول تو یہ تسلیم نہیں کہ عالم کو

کفر و ضلالت نے اس طرح گھیر لیا ہو کہ کفر و اسلام میں امتیاز نہ رہے، طالب ہدایت کو ہدایت کرنے والے موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ بات جس طرح واقعات و مشاہدات کے خلاف ہے، اسی طرح حضرت خاتمیت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے بھی خلاف ہے جس میں ارشاد ہے :-

لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَادَاهُمْ  
حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرًا لِّلَّهِ تَعَالَىٰ وَيُزِيلَ عِيْسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ (مسئلہ نمبر ۳۲۹) درجہ اولیٰ  
" میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جو اپنے مقابل پر غالب رہے گی  
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آجائے اور وہی علیہ السلام نازل ہوں ؛

ادھر واقعات و مشاہدات بتلاتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت باوجود بُعد زمان و مکان کے آج بھی اپنی امت مرحومہ کی تربیت میں اسی طرح مصروف ہے۔ زمانہ پر شرک و بدعات کی گھٹائیں چھا جانے کے باوجود آفتاب نبوت کی ضیاء گستری نے دن کو رات نہیں ہونے دیا، اس قدر روشنی باقی ہے کہ بصیر آنکھیں اچھے بُرے اور کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکیں۔

انبیاء سابقین اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ستاروں اور آفتاب کی سی ہے، آفتاب پر کتنا ہی ابر محیط ہو جائے، مگر اس کی فلکت شکاف شعاعیں تمام مواد غلیظ کو پھاڑتی ہوئی عالم میں نور افشانی سے باز نہیں رہتیں، اور ستاروں پر جب گھٹا چھا جائے تو عالم ان کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے بعد جب کفر و ضلالت کا ابر غلیظ عالم پر محیط ہوتا تو کفر و اسلام کا امتیاز مٹ جاتا تھا، اور اسی لئے بعثت نبوت کی احتیاج ہوتی تھی، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہی ضلالت کی گھٹائیں اٹھیں اور آفاق عالم پر چھا گئیں تو بیشک مذہبی مطلع غبار آلود ہو گیا، لیکن بہر حال دن ہی رہا اندھیری رات نہیں ہو سکتی۔

الغرض آفتاب نبوت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء گستری عالم میں آج بھی اسی طرح وقف عام ہے۔ اس آفتاب کی شعاعیں اگر ایک زمانہ تک شدید و فادق اور ذی النورین و مرتضیٰ کی صورت میں جلوہ اندروز ہیں تو آج بھی علماء و صلحاء امت کی صورت میں اسی خدمت کو انجام دیتی ہیں جس کے لئے عہد قدیم میں انبیاء شریف لاتے تھے،

یہ صرف خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فقہیت ہے کہ آپ کی امت کے افراد وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء سابقین کیا کرتے تھے، سعید اور خوش نصیب لوگ اس سے آج بھی اسی طرح بہرہ اندوز ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے۔

ہست مجلس براں سترار کہ بود

ہست مطرب براں ترانہ ہنوز

اس لئے اس آفتاب کے ہوتے ہوئے نہ کوئی مشعل روشن ہو سکتی ہے اور نہ اس کی ضرورت اور دوسرے اگر ضرورت بھی تسلیم کر لی جائے اور موجودہ زمانہ کو عہد قدیم کے زمانہ قریش سے کوئی امتیاز نہ رکھا جائے تو اول تو یہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت مطلقہ اور نبوت شاملہ و عامہ کے منافی ہے۔ اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو یہ کیا ضروری ہے کہ جب کبھی دنیا میں کفر و ضلالت کی ظلمت عام ہو جائے تو ضروری مبعوث ہو، کیونکہ یہ سنت اللہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کو اس عالم کا قیام منظور ہے، اور جب اس عالم کی اجل مقدر پوری ہو جائے اور خلاق عالم کو یہی منظور ہو کہ اب اس قوم کا قبضہ طے کیا جائے، اور قیامت قائم ہو، تو پھر لامحالہ بعثت انبیاء کا سلسلہ قطع کرنا ضروری ہوگا، ورنہ قیامت کے آنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ ادھر تو احادیث میں یہ تصریح ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا، اور ادھر آپ کے خیال کے مطابق یہ ضروری ہے کہ جب لوگ خدا کے تعالیٰ سے غافل ہونے لگیں، تو کوئی نبی مبعوث ہو کر خدا کی یاد دوبارہ تازہ کرے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ ابدالاً بادتک عالم پر کوئی وقت ایسا نہ آئے جس میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے، اور جب ایسا کوئی وقت نہ آئے گا تو حسب تصریح احادیث قیامت بھی نہ آئے گی۔

خلاصہ یہ کہ غلبہ کفر و شرک اور فسق و فجور کے وقت انبیاء کے مبعوث فرمانے پر سنت اللہ جاری ہونا مسلم ہے، لیکن یہ اسی وقت تک ہے جب تک بقا عالم مقصود ہو اور جب کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے اور مبعوث ہونے سے اس عالم کی

پیدائش کا مقصد پورا ہو چکا تو اب قانونِ فطرت کے مطابق یہ دربار ختم ہو جانا چاہئے اور اس کی یہی صورت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہو۔

امرِ سوم کے متعلق یہ عرض ہے کہ کسی نبی کے ماتحت یا اُن کے ساتھ دوسرے انبیاء کا مبعوث ہونا یہ اُن کی عظمتِ شان کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ وسلم سے نہیں بڑھاتا۔ کیونکہ تصریحاتِ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام پہلے نبی کے کام کی تکمیل اور ان کی امداد کے لئے مبعوث ہوتے تھے، جس سے حضرت خاتمیت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کمال کی بدولت مستغنی ہیں۔

حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کی بعثت کا جو سبب قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے وہ خود اسی مضمون کا شاہد ہے، فرماتے ہیں:-

سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ | ہم تمہارے بازو تمہارے بھائی کے ذریعہ  
مضبوط کر دیں گے؛

اور خود حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی نبوت کے لئے جو دعاء فرمائی ہے اس میں بھی اپنی بعض کرداریوں کا اعتراف پیش کر کے بطور امداد اُن کو مبعوث کرنے کی درخواست کی ہے:-

وَلَعَمْرُغَىٰ ذَنْبٌ فَأَخَاتُ أَنْ يُقَسِّمُونَ فَإرْسِلْ مَعِيَ هَاهُنَا  
أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَذْرُعِي .

”اور قوم سرعون کا میں نے جرم کیا ہے، اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کریں اس لئے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی مبعوث فرما دیجئے تاکہ اُن کے ذریعہ میں اپنی قوت کو مستحکم کر سکوں“

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، ہمت اور کمالات نبوت کا انتہائی درجہ چونکہ کسی اور نبی کی اعانت کا محتاج نہ تھا، اس لئے ضرورت نہ ہوئی کہ آپ کے ساتھ یا بعد میں کوئی نبی مبعوث کیا جائے۔

رہا یہ خیال کہ ایک بادشاہ کے ماتحت بہت سی خود مختار سلطنتیں اور ریاستیں ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اول تو نبوت کو ظاہری سلطنت پر قیاس کرنا محض بے معنی ہے اور یہی اجتہاد ہے تو عجب نہیں کہ یہ لوگ خداوند عالم کی عظمت اور قدرت کو بھی

اس وقت تک کامل نہ مانیں جب تک کہ اس کے ماتحت اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خزانہ ہوں، (والعیاذ باللہ العلیٰ العظیم)

اور اگر ملک الملوک کی شہنشاہی کے لئے ماتحت معبودوں کا ہونا ضروری نہیں تو اسی سلطنت الہیہ کے خلیفہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور نبی الانبیاء ہونے کے لئے بھی آپ کے ساتھ یا بعد میں اور انبیاء کا ہونا ضروری نہیں۔

اس کے علاوہ اگر ذرا عقل سے کام لیا جائے تو ان خود مختار سلطنتوں کا وجود بادشاہ کے لئے باعثِ عظمت اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان کے تمام اختیارات اس بادشاہ دیئے ہوئے اور اسی کے اختیارات میں مدغم ہوں، اور جو ایسا نہیں تو وہ بادشاہ در اقلیمہ گنجد، ایسی ہی صورتوں کے لئے مشہور ہے، اس بادشاہ میں اگر ہمت طاقت ہے تو ایسے خود مختار کا وجود کبھی پسند نہیں کر سکتا، جس کے اختیارات خود اس کی غنایات پر موقوف نہ ہوں۔

ادھر نبوت ایسی چیز نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو عطا کر دے، یا ایک نبی (خواہ وہ نبوت میں کتنا ہی بلند مرتبہ رکھتے ہوں) دوسرے کو نبی بنا دیں، بلکہ یہ وہ منصب ہے جو بلا واسطہ خداوند قدوس کی جانب سے فائز ہوتا ہے۔

ایسی حالت میں کسی دوسرے نبی کا ساتھ مبعوث ہونا یا بعد میں ان کے ماتحت مبعوث ہونا پہلے نبی کی زیادہ عظمت کو ثابت نہیں کرتا۔

اور اگر اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو یہ بھی غلط ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت دوسرے انبیاء نہیں ہیں، کیونکہ تصریحات قرآن و حدیث تمام انبیاء و مرسلین آپ کے ماتحت اور آپ کے ہی جھنڈے کے نیچے ہیں، اور اسی بنا پر آپ کو نبی الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ مزید فضیلت ہے کہ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یا بعد میں بطور اولاد انبیاء مبعوث ہوتے تھے، اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت مطلقہ اور کمال مستثنیٰ عن الامداد کو واضح کرنے کے آپ کے کل ماتحت انبیاء پہلے مبعوث ہو چکے، اور آپ سب کے بعد میں تشریف لائے، فصلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ الہم و اصحابہ الف الف صلوات۔

## قادیانیوں سے ایک سوال

اس کے بعد ہم مرزا صاحب اور مرزائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر واقعی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اسی پر موقوف تھی کہ آپ کے ماتحت غیر تشریحی طور پر انبیاء مبعوث ہوں تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ جس قدر انبیاء حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے ماتحت مبعوث ہوئے ہیں آپ کے ماتحت ان سب سے زیادہ مبعوث ہوتے، حالانکہ مرزا صاحب اپنی تصانیف میں صاف لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میرے سوا کوئی نبی نہیں ہوا، تو یہ اچھی عظمت ہوئی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ موسیٰ کے ماتحت تو ہارونؑ جیسے جلیل الشان پیغمبر اور ان کے بعد ان کے بہت سے امثال مبعوث ہوں اور حضرت خاتمیت کے ماتحت ساڑھے تیرہ سو برس میں صرف ایک نبی پیدا ہوا اور وہ بھی اس شان کے کہ ان کی علمی، عملی، اخلاقی زندگی انھیں ایک ادنیٰ مسلمان بلکہ ایک باوقار انسان بھی ثابت نہیں کر سکتی، معاذ اللہ یہ صریح توہین ہے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لَعَنَ اللَّهُ مَن اَدْعَاہَا۔

## قانونِ فطرت بھی ختمِ نبوت کا مقتضی ہے

کائناتِ عالم پر سرسری نظر ڈالنے والا دنیا میں دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک وحدت دوسری کثرت۔ لیکن جب ذراتِ تامل کیا جائے اور نظر کو عمیق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بھی وحدت ہی اصل الاصول ہے، جتنی کثرتیں سطحی نظر میں سامنے آتی ہیں وہ بھی کسی وحدت کے سلسلہ میں بندھ کر قائم ہیں۔ اور جو کثرت کسی وحدت پر مشتبہ اور وحدت میں منسلک نہیں اس کا شیرازہ وجود منتشر ہو کر قریب ہے کہ عدم میں مشاغل ہو جائے، اس لئے ایسی کثرت کو موجود کہنا بھی فضول ہوگا۔

مثال کے لئے دیکھئے کہ جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اس کے محیر العقول طول و عرض میں بے شمار کثرتیں کھپی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب ان کثرتوں کے سلسلہ میں نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کثرتیں ایک ہی مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ایک ہی محور پر حرکت کر رہی ہیں، اور اگر ان کا سلسلہ اس وحدت پر

منہی نہ ہوتا تو یہ نظام سادی کسی طرح باقی نہ رہ سکتا تھا۔

آسمان سے نیچے اتر کر موالید ثلاثہ میں بھی یہی فطری قانون نافذ ہے۔ جمادات کے ذرہ ذرہ پر نظر ڈالو تو کس قدر بے شمار کثرتیں سامنے آتی ہیں، لیکن وہ سب بھی اسی طرح ایک وحدت میں منسلک ہیں، اور جب رشتہ السلاک ٹوٹتا ہے تو اس کے لئے موت کا پیام ہوتا ہے۔

نباتات میں بے شمار شاخیں، پتے اور پھل پھول نئے نئے رنگ اور نئی نئی وضع میں کثرت کی شان لئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی انتہا ایک جڑ کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو فرمائیے کہ اس باغ و بہار کی عمر کتنی رہ سکتی ہے۔

حیوانات میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک اور تین سو ساٹھ جوڑوں کی کثرت موجود ہے لیکن اگر یہ سب ایک رشتہ وحدت میں منسلک نہ ہو تو یہی اس کی موت ہے۔

اس کے بعد دنیا میں تمام مشینوں، انجنوں، گاڑیوں، برقی تاروں، اور واٹر ورکس کے نلوں، وغیرہ وغیرہ پر نظر ڈالنے تو سب کو اسی قانون فطرت کی جگر بند سے آباد پائیں گے، اور جب کسی انجن کے کل پُرزے اُس کے رُوح (اسٹیم) سے علیحدہ ہوں، یا گاڑیوں کا باہمی ربط ٹوٹے یا برقی تاروں کا اتصال بجلی کے خزانہ کے ساتھ نہ رہے، یا پانی کے نل واٹر ورکس سے منقطع ہو جائیں تو ان کا وجود بھی بے کار ہے۔

کائناتِ عالم کی ان مثالوں پر نظر کر کے جو قانون قدرت ذہن نشین ہوتا ہے، نبوت اور رسالت بھی اس سے علیحدہ نہ ہونی چاہئے، بلکہ عالم کی تمام بقوتوں کا سلسلہ بھی کسی ایسی نبوت پر ختم ہونا چاہئے جو سب سے زیادہ اقویٰ و اکمل ہو اور جس کے ذریعہ سے بقوتوں کی کثرت ایک وحدت پر منتهی ہو کر اپنے وجود کو قائم اور مفید بنا سکے، اور مسلم پر کہ اس سیادت و فضیلت کے حقدار صرف حضرت خاتم الانبیاء ہی ہو سکتے ہیں، جن کی سیادت پر انبیاء سابقین اور ان کی کتب سماوی اور پھر ان کی امتیں خود گواہ ہیں، جن کی تصریحات ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

اور یہی رمز ہے اس میثاق میں جو تمام انبیاء و رسل سے لیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کا زمانہ پائیں تو آپ پر ایمان لائیں، اور آپ کی مدد کریں، ارشاد ہے:-  
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ

” ضرور آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں؛

اور اس میثاق کی تصدیق اور سیادت کو ثابت کرنے کے لئے خداوند عالم نے دو مرتبہ دنیوی حیات میں آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جمع فرمایا، اور یہ سیادت اس طرح ظاہر فرمائی کہ آپ تمام انبیاء علیہم السلام کے امام ہوئے، جس کا مفصل واقعہ اسرار و معراج کے تحت میں تمام کتب حدیث میں صحیح و معتبر روایات سے منقول ہے، پھر آخر زمانہ میں انبیاء سابقین میں سے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ کو آپ کی شریعت کا صریح طور پر متبع بنا کر بھیج دیا، تاکہ اس میثاق پر صاف طور سے عمل ہو جائے۔

اور پھر قیامت میں شفاعت کبریٰ کے ذریعہ تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ کی سیادت واضح فرمائی جائے گی۔ الغرض عقل و حکمت اور قانونِ فطرت کا اقتضاء ہے کہ تمام نبوتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ختم ہو جائیں۔

## قانونِ فطرت کی دوسری تطبیق

دنیا کی اکثر چیزوں پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مقصد کے پورا کرنے کے لئے سینکڑوں اسباب و آلات کام میں آتے ہیں، اور ایک زمانہ دراز ابتداءی مقدمات طے کرنے میں صرف ہوتا ہے، سب سے آخر میں اصل مقصد کی صورت نظر آتی ہے۔ مثال کے لئے درختوں کو دیکھئے اور بیج بونے کے وقت تک تمام درمیانی مراحل پر تفصیل نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ ان تمام کا دشوں کا اصلی مقصد یہ تھا جو آج سامنے آیا ہے۔ اسی طرح تمام کائنات کی پیدائش کا اصلی مقصد اور تمام نبوتوں کا خلاصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قانونِ فطرت کے موافق آخر میں تشریف لائے ہیں۔

اسی مضمون کو سندی شیخی دا ستاذی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب صدر المدین دارالعلوم دیوبند نے اس بلیغ شعر میں ادا فرمایا ہے

اے ختمِ رسل امتِ تو خیر الامم بود ؛ چوں شمرہ کہ آید ہمہ در فصلِ نصیری

## تیسری تطبیق

اسی طرح شاہی درباروں پر نظر ڈالو کہ ایک مدت پہلے سے اس کا انتظام کرنے کے لئے سینکڑوں بڑے چھوٹے حکام برسرِ کار آتے ہیں، لیکن ان سب کا اصلی مقصد

سلطانی دربار کے لئے راستہ سہوار کرنا ہوتا ہے، اور اسی لئے جب دربار کا وقت آتا ہے اور بادشاہ تختِ سلطنت پر جلوہ افروز ہو کر مقاصدِ دربار کی تکمیل کرتا ہے تو اس کے بعد اور کسی کا انتظار باقی نہیں رہتا، اور اسی پر دربار ختم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ زیر بحث میں بھی اسی طرح سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا ختم ہو جانا بالکل قانونِ فطرت اور مقتضائے عقل کے موافق ہے۔ اسی قسم کی سنیکڑوں نظیریں ذرا تا مل سے ہر شخص بحال سکتا ہے۔

قرآن و حدیث اور اجماعِ امت اور اقوالِ سلف اور پھر عقلی وجوہ کا جس قدر ذخیرہ اب تک اس رسالہ میں جمع ہو چکا ہے ایک بصیرت والی آنکھ اور سماعت والے کان کے لئے کفایت سے بہت زائد ہے، اور ازلی بدبخت کا کوئی علاج نہیں۔

ارجوان یبغضی والمسلمین بہ د

هُودِی التوفیق وخیر الرفیق فی

کُل مضیق ۛ

# مسئلہ زیر بحث

یعنی ختم نبوت پر میرے گواہ

أُولَئِكَ أَشْهَادِي فَحِثِّي بِمِثْلِهِمْ  
إِذَا جَمَعْتَنَا يَا غَلَامُ الْمُجَابِمِ

آخر میں ہم اپنے اُن گواہوں کی فہرست پیش کرتے ہیں جن کی شہادتیں اس رسالہ میں موقوع بوقوع قلمبند ہو چکی ہیں، تاکہ ناظرین خود مدت دمہ کا فیصلہ کر سکیں، اور ہر شخص اپنی عاقبت کو پیش نظر رکھ کر کسی ایک جانب کو اختیار کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ میں کس گروہ میں داخل ہوتا ہوں، اور کس کو چھوڑتا ہوں۔

خداوند عالم جل ذکرہ و مجبہ | سب سے پہلے خدا کے جل و علا کا کلام پاک ہمارا گواہ ہے (ذکر کنی یا اللہ شہیداً ۱) جس نے نہ صرف وہ چار آیتوں میں بلکہ پوری سزا آیات میں صراحتہ و اشارہ اس مسئلہ کو بیان فرما کر بتا دیں کہ جو کس کا راستہ بند کر دیا ہے، اور جن میں کسی ایک جگہ اشارہ بلکہ شبہ اور دوہم بھی اس معنی کا نہیں ہوتا جو مرزا صاحب اور اُن کے متبعین نے ایجاد کئے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام | یہ برگزیدہ جماعت جس کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کم نہیں۔ جب اُن میں سے کوئی رسول دنیا میں آیا اس نے اپنے فرائض منصبی میں اس کو بھی اہم ترین فرض سمجھا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر ہر قسم کی نبوت کے اختتام کا اعلان کر دے، جیسا کہ بحوالہ روح المعانی اخذ میثاق کی تفسیر میں گذر چکا ہے، کہ ازل میں انبیاء علیہم السلام سے جو میثاق لیا گیا تھا، اس میں یہ بھی داخل تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا دنیا میں اعلان فرمادیں۔

اس لئے ہر نبی اور رسول کا فرض تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے اعلان کے ساتھ اس کو بھی بیان کر دیں، کہ آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد

اور کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔

چنانچہ اس مقدس جماعت نے اس کی تکمیل کی، جن میں سے حضرات ذیل کی تصریحات اُن کی آسمانی کتب و صحائف سے اسہی نقل کی جا چکی ہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔

اس جماعت نے بھی مطلقاً انقطاع رسالت و نبوت کی خبر دی، کوئی اشارہ بھی اس طرف نہ کیا کہ کوئی قسم غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی پھر بھی باقی ہے گی۔ اُن کے بعد خود

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم | تشریف لائے تو آپ نے دو سو دس احادیث میں اس مسئلہ کو مختلف

عبارات اور مختلف عنوانات سے مختلف مجالس میں اس طرح بیان فرمایا کہ مسئلہ کا کوئی پہلو یا اس کی کوئی قید و شرط مخفی نہ رہی۔

لیکن ان تمام احادیث کے طویل دفر میں بھی کہیں نہ بیان کیا گیا کہ اختتام نبوت سے ہماری مراد صرف شریعت جدیدہ کا اختتام ہے، غیر تشریحی یا ظلی بروزی طور پر کوئی

قسم نبوت کی ہمارے بعد بھی باقی ہے گی۔ اور پھر یہ ہوا نہیں بلکہ بہت سی احادیث میں صراحتاً ہر قسم کی نبوت کا انقطاع صاف طور پر بیان کر کے تمام اُن تحریفیات کی جڑ

کاٹ دی جو مرزا صاحب اور اُن کی امت نے ایجاد کی ہیں۔

میرے گواہوں کی چوتھی قسط صحابہ و تابعین کی وہ مقدس صحابہ و تابعین جماعت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام مخلوقات

اولین و آخرین سے افضل ہیں جن میں سے ترانوے حضرات کی شہادتیں اس رسالہ میں مستلزمند ہو چکی ہیں۔ لیکن ہمیں ان کے بیانات میں بھی کوئی لفظ

ایسا نظر نہیں پڑتا جس میں تشریحی غیر تشریحی، یا ظلی بروزی، یا لغوی مجازی نبوت کی تفصیل کر کے کسی قسم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باقی بتلایا گیا ہو بلکہ نہایت وضاحتاً

کے ساتھ جمیع اقسام نبوت کے اختتام کا اعلان کر کے مدعی نبوت کے کفر و ارتداد کے حکم پر اجماع کیا گیا ہے۔

حضرات محدثین | ہمارے گواہوں کی پانچویں قسط وہ حضرات محدثین ہیں جنہوں نے احادیث نبویہ کے ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک ذریرہ

کی تحقیق کے لئے سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر قطع کئے ، اور اپنی عمر کے لیل و نہار ان کے الفاظ کی تحقیق اور معانی کی تشریح میں صرف کر کے ایسا نسخ اور صاف کر دیا کہ کسی شبہ کی گنجائش نہ رہے ، اس جماعت سے اڑسٹھ حضرات کی شہادتیں اس مقدمہ میں پیش کی جا چکی ہیں ، لیکن ان میں بھی کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ اختتام نبوت سے صرف شریعتِ جدیدہ کا اختتام مراد ہے ، غیر تشریحی یا ظلی بروزی طور پر نبوت باقی ہے ، بلکہ انہوں نے پہلے حضرات سے زیادہ وضاحت سے ہر قسم کی نبوتِ وحی کا انقطاع اور ہر مدعی نبوت کے کفر و ارتداد کا حکم دیا ۔

**حضرات مفسرین** میرے شہداء کی چھٹی قسط حضرات مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف بلکہ زبرد زبرد اور حرکت و وقف کی تشریح و تفسیر کے لئے اپنی عمروں کو وقف کر کے آیاتِ فرقانیہ کو اس طرح واضح فرمایا کہ کسی شبہ کا راستہ باقی نہ رہے ، جن میں سے بچیں حضرات کی شہادتیں اسی رسالہ میں گذر چکی ہیں ۔ اس مقدس جماعت نے بھی اس معممہ کو حل نہ کیا جو مرزاجی اور ان کی امت کا مدعی ہے ، بلکہ (معاذ اللہ) امت کو اس گمراہی اور غلطی میں رہنے دیا جس میں اب تک تمام حضرات سابقین نے چھوڑا تھا ، یعنی کسی نے نہ فرمایا کہ ختم نبوت سے فقط شریعتِ جدیدہ کا اختتام مقصود ہے بعض اقسامِ نبوت اور بھی باقی رہیں گی ۔

**حضرات فقہاء مذاہب اربعہ** مسئلہ زیر بحث اگرچہ اصولی مسئلہ ہونے کے وجہ سے فقہاء کے فرائض سے علاحدہ ہے ، لیکن کہیں کہیں ضمنی طور پر کلماتِ کفر اور موجباتِ ارتداد

کو بیان کرتے ہوئے ان حضرات نے بھی اس سے تعرض کیا ہے ، جن میں سے مذاہب اربعہ حنفیہ ، شافعیہ ، مالکیہ ، حنابلہ کے دس حضرات کی عبارتیں نقل کی جا چکی ہیں ، جن میں ہر مدعی نبوت اور اس کی تصدیق کرنے والوں کو ہی کا فرو مرتد نہیں بتلایا گیا ، بلکہ اس شخص کو بھی باتفاق کافر کہا گیا جو مدعی نبوت کے دعوے میں سچائی کا احتمال بھی پیدا کرے یہ حضرات اگرچہ بال کی کھال نکلنے والے ہیں ، مگر انہوں نے بھی کوئی تفصیل نہ سرکاری ، کہ یہ سنگین مجرم (کفر) صرف اس شخص پر عائد ہے جو نبوتِ مستقلہ اور شریعتِ جدیدہ کا مدعی ہو ، یا اس کی تصدیق کرنے والا ہو ، غیر تشریحی یا ظلی بروزی یا لغوی یا مجازی

طور پر اگر کوئی دعویٰ کرے یا اس کی تصدیق کرے تو وہ اس میں داخل نہیں۔

گواہانِ ختم نبوت کی ساتویں قسط حضراتِ مشکلمین ہیں، جن میں سے

**حضراتِ مشکلمین**

سولہ حضرات کے بیانات قلب بند کئے گئے ہیں، ان حضرات کے یہاں اگرچہ بات بات پر اور حرف حرف پر بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہے، ایک عبارت میں جتنے احتمالات عقلی طور پر ہو سکتے ہیں ان کے یہاں تقریباً تار تار دیکھا تمام زنجیر آجاتے ہیں، لیکن ان میں بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ ختم نبوت سے صرف شریعتِ جدیدہ و مستقلہ کا اختتام مقصود ہے، غیر تشریحی طور پر نبوت بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔

**صوفیائے کرام**

آخر میں ہم وہ گواہ پیش کرتے ہیں جن کے مقالات و حالات مقامِ نبوت کے اظلال ہیں، جن کے علوم و معارف کا میدان صرف ادراقی کتب نہیں، بلکہ الہامِ روحانی اور کاشفات بھی ان کے مشعلیٰ راہ ہیں جن میں سے دس حضرات کی شہادتیں ابھی درج کی گئی ہیں۔

اس نکتہ رس اور دقیقہ سنج جماعت نے بھی اُمت کو یہ اطلاع نہ دی کہ اصطلاحِ شریعت اور تشریح و حدیث میں جس کو نبوت کہا جا سکتا ہے اس کی کوئی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باقی رہے گی، بلکہ علماءِ ظاہر اہل سنت والجماعت کے عقائد اور یہاں آتا کے مطابق انہوں نے بھی مطلقاً ہر قسم کی نبوت کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم سمجھا اور سمجھایا۔

الغرض ابتداء آفرینش سے آج تک انبیاءِ علیہم السلام اور صحابہ کرام اور علماء و صلحاء کی بے شمار جماعتیں جس چیز کی گواہی دیتی چلی آئیں اور کسی نے اس میں تاویل و تخصیص کی شاخ نہ نکالی بلکہ اپنے اطلاق پر تسلیم کیا، اور کرایا۔ آج اگر کوئی شخص ان سب کے خلاف اس میں تحریف کرنے لگے تو اس کے سوا کیا کہا جائے

مرحمتِ خدا کے عارف و زاہد کے نہ گفت

در حیرت کہ بادہ فروش از کجا شنید

اور میں تو پھر وہی عرض کروں گا جو پہلے کر چکا ہوں، کہ اگر حق و ہدایت ان حضرات انبیاء و صحابہ وغیرہم کے راستہ کے سوا کہیں اور ہے تو مجھے ایسے حق کی ضرورت نہیں میں ایسی ہدایت سے معافی چاہتا ہوں

وَرَشَادِي إِنْ تَكُنْ فِي سَلْوَتِي ۚ فَدَعُوْنِي لَسْتُ أَرْضَى بِالرَّشَادِ

”اور میری ہدایت اگر اسی میں مضر ہے کہ میں ان حضرات سے علیحدہ ہو جاؤں تو تم

مجھے مجبور دو، میں ایسی ہدایت کا خواہاں نہیں :-

اور نہایت شرح صدر کے ساتھ کہوں گا کہ اگر ان حضرات کا اتباع گمراہی ہے

تو وہ گمراہی ہی میرا مذہب ہے، مجھے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں،

وَلَنِعْمَ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ۝

إِنْ كَانَ رِفْعًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ ۚ فَلَيْسَ مِنَ الشَّقَلَانِ إِلَى رَافِعٍ

”اگر آل محمد علیہ وسلم کی محبت کا نام رافعت ہے تو جن و انس گواہ ہیں کہ میں ہی ایسا رافعی ہوں :-

اگر کسی مجنوں کے نزدیک یہ سارے افضل المخلوق خلاصہ کائنات (معاذ اللہ)

گمراہ ہیں تو میں تنہا ہدایت پا کر کیا کروں گا :-

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنَ غَزِيَّةٍ إِنْ غَوَيْتُ ۚ غَوَيْتُ وَإِنْ تَوَشَّدُ غَزِيَّةً أَرْضِدُ

میں قبیلہ غزیہ کا ایک سرد ہوں، اگر غزیہ سب گمراہ ہوئے تو میں بھی گمراہ ہوں اور

اگر وہ ہدایت پر ہیں تو میں بھی ہدایت پر ہوں :-



## قادیا نیول کی خدمت میں ایک درد مندانه و مخلصانہ گزارش

سب سے پہلے تو یہ حلفیہ گزارش ہے کہ واللہ باللہ ثم باللہ کہ مجھے مرزا صاحب اور ان کے متبعین سے کوئی بغض یا عناد نہیں، اور جو اوراق اس بحث میں سیاہ کئے ہیں ان کی غرض نہ اپنی حرفت والی کا اظہار ہے، اور نہ ان مغالطات گالیوں کا بدلہ لینا جو مرزا صاحب اور ان کے متبعین نے ہمارے بزرگوں کو اپنی تصانیف میں دی ہیں، کیونکہ ان سب کا جواب تو ہمارے نزدیک یہ ہے:-

وَقُلْ لِعِٰلَامِ اِنْ شِئْتُمْ سُرَاتِنَا فَلَسْنَا بِشَيْءٍ اٰمِنِيْنَ لِمُتَشَكِّمِ

”اور مرزا غلام سے کہہ دو کہ اگر تم نے ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں تو دو، ہم تو گالیاں

دینے والے کو گالیاں دینے والے نہیں:-

بلکہ اخلاص کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے دین انبیاء اور تشریح و حدیث اور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور علمائے سلف و خلف کے عقائد، مسئلہ تم نبوت کے متعلق پیش کرنا تھا، جس میں ایک حد تک رب القوی والقدیر نے ان ضعیف ہاتھوں اور ناکارہ دل و دماغ کو کامیاب فرمایا، والحمد للہ علیٰ ذلک۔

خدا کے لئے سمجھو کہ اگر تم سب کے سب مرزا صاحب نہیں ان سے بھی کسی لوثی آدمی کو نبی بلکہ خدا تسلیم کر لو، اور تمام نصوص تشریح و حدیث اور آثار صحابہ و سلف کو ٹھکرا دو تو ہمارا کیا بگڑتا ہے اور کروڑوں کافر دنیا میں اس سے زیادہ شریعت اسلام کی توہین کرنے والے موجود ہیں، ان میں چند ہزار کا اور اضافہ بھی، ہر شخص کو اپنی قبر میں سونا اور اپنے کئے کو بھگتنا ہے، لَهُمْ مَا كَسَبُوا وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا يُعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ

ہاں دل میں درد ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اپنے دست و بازو کٹ بیسے ہیں، لوگ غیروں کو اپنا بنانے میں مشغول ہیں، اور مسلمان اپنے بھی غیر ہوتے جاتے ہیں۔  
خدا کے لئے اپنی جانوں اور ایمانوں پر رحم کرو، اور ان اوراق کو تعصب و خود غرضی

سے علموہ ہو کر دیکھو، اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا ان بیانات و نصوص اور براہین واضحہ کے بعد بھی کسی غیر شرعی یا ظلی یا بروزی یا لغوی یا مجازی یا حبزوی یا غیر مستقل نبوت کا وجود اسلامی روایات سے نکلتا ہے، یا ہر اس چیز کا جس کو شریعت و ملت اسلام میں نبوت کہا جاتا ہے، کئی انقطاع آفتاب کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری گزارش ہے ماننا نہ ماننا آپ کے قبضہ میں ہے۔

وما التوفیق الا من الله وما الهداية الا منه والخر وعوانا ان  
 الحمد لله رب العالمين، اللهم اننا نعوذ بك من مضلات الفتن  
 ما ظهر منها وما بطن، اللهم اربنا  
 الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل  
 باطلا، وارزقنا اجتنابه وقد تم بعون الله تعالى بسم عشرة  
 من شوال المكرم ۱۳۲۵ھ ضحوة يوم الاربعاء  
 ستبقى خطوطي في الدفاتر برهة  
 وانملت تحت التراب ربيم

العبد الضعيف  
 محمد شفيع الديوبندي  
 ۷ شوال ۱۳۲۵ھ

ضمیمہ

۱ مسیح موعود کی پہچان ————— ۳۶۹

۲ دعاوی مرزا ————— ۳۹۸

# مسیح موعود کی پہچان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِكْرًا ۚ فَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ ۝  
 اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے آخری دور میں بہ تقاضائے حکمتِ الہیہ  
 دجالِ اکبر کا خروج مقدر و مقرر تھا جس کے مشرے سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی  
 امتوں کو ڈراتے آئے تھے۔ اور حسب تصریحات احادیث متواترہ اس کا قنہ تمام  
 اگلے پچھلے فتنوں سے اشد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساحرانہ قوتیں اور خوارقِ عادات  
 بے شمار ہوں گے۔

اسی کے ساتھ زمرۂ انبیاء میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان اور  
 خاتم الام کے ساتھ خاص عنایاتِ حق کے اظہار کے لئے باقتضائے حکمتِ الہیہ  
 یہ بھی مقدر و مقرر تھا کہ فتنہ دجال سے امت کو بچانے اور دجال کو شکست دینے  
 کے لئے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمائیں گے  
 جو اپنی مخصوص شانِ مسیحی سے مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے۔

خروجِ دجال اور نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اُمتِ مرحومہ کے آگے  
 آلے والے تمام فتن اور واقعات میں سب سے اہم تھے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر  
 اپنی اُمت پر سب سے زیادہ رحیم و شفیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کی  
 تبیین و تعیین میں اور مسیح دجال اور مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی علامات و نشانات  
 بتلانے میں انتہائی تفصیل و توضیح سے کام لیا ہے، ستوں سے زیادہ احادیث ہیں جو  
 مختلف اوقات میں صحابہ کے مختلف مجامع میں مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کی گئی  
 ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات و علامات اور بوقتِ نزول اُن کی

مکمل کیفیات کا اظہار فرمایا۔

یہ احادیث درجہ تو اترا کر پونچھی ہوئی ہیں۔ اکابر محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے اور خبر متواتر سے جو چیز ثابت ہو اس کا قطعی اور یقینی ہونا تمام اہل عقل اور اہل دین کے نزدیک با اتفاق مسلم ہے۔

ان تمام احادیث معتبرہ کو احقر نے اپنے عربی رسالہ "التصیح بما تواتر فی نزول المسیم" میں جمع کر دیا ہے اور اس میں ہر حدیث پر نمبر ڈال دیئے ہیں اس رسالہ میں صرف حدیث کا نمبر اور کتاب کا حوالہ دینے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اور انشاء اللہ کسی وقت ان احادیث کو مع ترجمہ و تشریح طبعی شائع کر دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں خود قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی علامات اور نشانیاں بتلائی ہیں کسی رسول اور نبی کے متعلق نہیں بتلائیں۔ یہاں تک کہ خود سرور کائنات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے ان کی بھی مادی اور جسمانی علامات و نشانات قرآن نے اس تفصیل سے نہیں بتلائے۔ تمام انبیاء علیہم کے درمیان صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا یہ معاملہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس پر مزید و مزید اضافہ بلاشبہ اس لئے تھا کہ آخر زمانہ میں ان کا اس امت میں تشریف لانا مقدر و مقرر تھا۔ اس لئے ضروری سمجھا گیا کہ ان کی علامات و نشانات امت کو ایسی وضاحت سے بتلا دیئے جائیں کہ پھر کسی کو کسی اشتباہ و التباس کی ادنیٰ گنجائش نہ رہے۔ اس رسالہ میں جمع کی ہوئی تمام علامات و نشانات کو دیکھنے کے بعد ہر شخص یہ کہہ اٹھے گا کہ کسی انسان کی تعیین کے لئے اس سے زیادہ نشانات و علامات نہیں بتلائے جاسکتے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام میں سے اس کام کیلئے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتخاب میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ ان کی پیدائش اور خلقت و تربیت تمام بنی نوع انسان سے جدا ایک خاص محبوبانہ طریق پر ہوئی ہے۔ ان کے حالات کسی دوسرے انسان کے ساتھ ملتیں اور مشتبہ ہو ہی نہیں سکتے۔

۱۔ اب یہ ترجمہ و تشریح کا کام بخود ادریس زبولی محمد رفیع عثمانی سلمہ مدرس دارالعلوم کراچی نے کر دیا ہے جو "علامات قیامت اور نزول مسیح" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ محمد شفیع ۳۰ صفر ۱۳۱۱ھ

الغرض قرآن و حدیث نے آخر زمانہ میں آنے والے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعیین و اعلان میں پیدا ہونے والے ہر التباس و اشتباہ کو رفع کرنے کے لئے اس قدر اہتمام فرمایا کہ اُس سے زیادہ اہتمام عادتاً ناممکن ہے تاکہ کوئی جھوٹا مدعی اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ کر امت کو گمراہ نہ کر سکے۔

لیکن شاباش ہے قادیانی مرزا غلام احمد کو کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے اس تمام اہتمام کے مقابلہ میں اکھاڑا جھاد یا اور ان میں بیان کی ہوئی تمام چیزوں پر پانی پھیر کر خود مسیح موعود بن بیٹھے۔ اور اس سے زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قرآن و حدیث اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے دعویدار ہوتے ہوئے ان کو مسیح موعود مان لیا۔ لیکن اس امت میں سے کسی شخص کا مسیح موعود بننا بغیر اس کے ممکن نہیں تھا کہ قرآن و حدیث کی قائم کی ہوئی تمام مضبوط و مستحکم بنیادوں کو اکھاڑ کر ایک نیادین، نئی ملت بنائی جائے۔ اس لئے مرزا صاحب نے:-

① امت کے اجماعی عقیدہ اور قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ اُن کی قبر کشمیر میں ہے۔

② پھر یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے بلکہ ان کا شبیہ و مثیل آئے گا۔

③ پھر وہ شبیہ و مثیل خود بننے کی کوشش جاری فرمائی۔

④ اور چونکہ حسب تصریح قرآن و حدیث و اجماع امت ہر قسم کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی ہیں اُن کا آنا ختم نبوت کے منافی نہیں تھا۔ اگر کوئی ان کا مثیل و شبیہ آئے

عہ قرآن مجید سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل ثبوت حضرت الاستاذ العلامة مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کی کتاب "عقیدۃ الاسلام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام" میں اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کی کتاب "کلمۃ اللہ فی حیات روح اللہ" میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اس مسئلے متعلق احادیث احقر کے عربی رسالہ "التصریح بما تواتر فی نزول المسیح" میں مذکور ہیں۔ ۱۲ منہ

مسئلہ ختم نبوت اُس کی راہ میں حائل ہوتا ہے اس لئے اس اجماعی مسئلہ کی تعریف کرنا پڑی اور نبوت کی خود ساختہ قسمیں بنا کر بعض اقسام کا سلسلہ جاری قرار دیا۔

⑤ آحسرا کا خود نبی در رسول بن گئے۔

⑥ دعوائے نبوت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو اُن کو نہ مانے وہ کافر قرار دیا جائے اس کے نتیجے میں اپنی ایک مٹھی جماعت کے سوا اُمت کے ستر کروڑ مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا۔

⑦ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مدعی نبوت کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک ملت نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی نبی کے ماننے والے بھی مسلمان کہلائیں اور اُس کو جھوٹا سمجھنے والے بھی مسلمان رہیں۔ اس طرح ملتِ اسلامیہ کے ٹکڑے کر کے ایک علیحدہ ملت کی تعمیر کی گئی۔ یہ سارے کفریات اس کے نتیجے میں آئے کہ قرآن و حدیث کی بے شمار تصریحات کے خلاف اپنے آپ کو مسیح موعود مقرر دیا۔

اس لئے احقر نے اس مختصر رسالہ میں آخر زمانہ میں آنے والے مسیح علیہ السلام کی تمام نشانیاں اور علامات بجاوہ قرآن و حدیث جمع کر دی ہیں تاکہ ہر دیکھنے والا ایک نظر میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو علامات بیان کی ہیں قادیانی مرزا صاحب میں اُن میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔

ہم نے سہولت کے لئے ان حالات و علامات کو ایک جدول کی صورت میں پیش کیا ہے جس کے ایک خانے میں آنے والے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتوں کی گئی ہیں۔ دوسرے خانے میں اُن کا حوالہ قرآن یا حدیث سے دیا گیا ہے۔ احادیث کی عبارت طویل تھی اس لئے تمام احادیث کو مع

اس جدول میں صرف حدیث کا نمبر لکھا جائے گا جس کو

اصل حدیث دیکھنا ہو اس نمبر کے حوالہ سے

تیسرے خانے میں مرزا صاحب کے حالات و علامات کا مقابلہ دکھلانا تھا۔

مگر ہیں تو ان علامات میں سے کوئی بھی مرزا صاحب میں نظر نہیں آئی، بلکہ صراحتہً اُس کے مخالف علامات و حالات معلوم ہوئے۔ مخالف حالات اور وہ بھی ذاتی اور گھریلو معاملات سے متعلق اگر بیان کئے جائیں تو دیکھنے والے شاید اُس کو تہذیب کے خلاف سمجھیں۔

اس لئے ہم نے یہ خانہ سب جگہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ مرزا صاحب کو  
 مسیح موعود مانتے والے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ایمان داری سے اس  
 خانہ کو خود پُر کریں۔

نشايد الله تعالى اسی کو اُن کے لئے ذرینۂ ہدایت بنا دیں۔

وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اَللّٰهِ بِعَزِيزٍ

بند کا  
 محمد شفیع عمن اللہ عنہ  
 مدرس دارالعلوم دیوبند  
 شعبان ۱۳۳۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مسیح موعود کا نام، کنیت اور لقب

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	آپ کا نام عیسیٰ ہے۔ علیہ السلام	۱
ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ	آپ کی کنیت عیسیٰ ابن مریم ہے۔	۲
اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَّحِبُّ مِنْهُ	آپ کا لقب، مسیح ہے۔	۳
اِنَّمَّا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	کلمہ اللہ ہے۔	۴
• • •	روح اللہ ہے۔	۵

## مسیح موعود کے خاندان کی پوری تفصیل

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ	آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم ہے۔	۶
اَنِّي يَكُوْنُ لِيْ غُلَامًا وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكْ يَغِيْبًا	آپ غیر باپ کے بقدرتِ خداوندی صرف ماں سے پیدا ہوئے۔	۷
مَرْيَمَ اَبْنَتَ عِمْرَانَ النَّبِيِّ	آپ کے نانا عمران علیہ السلام ہیں۔	۸
اِذْ قَالَتِ امْرَاةُ عِمْرَانَ	آپ کی نانی امراۃ عمران (حتہ) ہیں۔	۹
يَا سَخِيَّةَ مَرْيَمَ	آپ کے ماموں ہارون ہیں	۱۰

عہ ہارون سے اس جگہ ہارون نبی علیہ السلام مراد نہیں۔ کیونکہ وہ تو مریم سے بہت پہلے گزر چکے تھے، بلکہ ان کے نام پر حضرت مریمؑ کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ لہذا اولادِ مسلم والنساء والترمذی مرفوعاً ہے۔

۱۱	آپ کی نالی کی یہ تدرکہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کے لئے وقف کر دیں گی۔	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
۱۲	پھر حمل سے لڑکی کا پیدا ہونا۔	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا آيَةً
۱۳	پھر ان کا مذکر کرنا کہ یہ عورت ہونے کی وجہ سے وقف کے قابل نہیں۔	إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ
۱۴	اُس لڑکی کا نام مریم رکھنا۔	إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

### والد مسیح موعود علیہ السلام حضرت مریم کے بعض حالات

۱۵	مسیح شیطان سے محفوظ رہنا۔	إِنِّي أَعِذُّكَ هَابِك
۱۶	ان کا نشوونما غیر عادی طور پر ایک دن میں سال بھر کے برابر ہونا۔	وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
۱۷	مجاورین بیت المقدس کا مریم کی تربیت میں جبرگنا اور حضرت زکریا کا طفیل ہونا۔	إِذْ يَخْتَصِمُونَ
۱۸	ان کو محراب میں ٹھیرانا اور ان کے پاس غیبی رزق آنا۔	مَلَكًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْيَحْرَابِ بِعَجَبٍ عِنْدَ هَارِزِقَا
۱۹	زکریا کا سوال اور مریم کا جواب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔	قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
۲۰	فرشتوں کا ان سے کلام کرنا۔	إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمُ
۲۱	ان کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا۔	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ
۲۲	ان کا حیض سے پاک ہونا۔	وَطَهَّرَكِ
۲۳	تمام دنیا کی موجود عورتوں سے افضل ہونا۔	وَأَصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

### حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی حالات استقرار حمل وغیرہ

۲۴	مریم کا ایک گوشہ میں جانا	إِذَا أَنْتَبَذَتْ
----	---------------------------	--------------------

۲۵	اس گوشہ کا شرقی جانب میں ہونا . ان کا پردہ ڈالنا ۔	مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا
۲۶	ان کے پاس بشکلِ انسان فرشتہ کا آنا ۔	فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
۲۷	مریم کا پناہ مانگنا ۔	إِلَىٰ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ
۲۸	فرشتہ کا من جانب اللہ ولادتِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دینا ۔	لَا هَبَ لَكَ عَلَٰمًا ذَكِيًّا
۲۹	مریم کا اس خبر پر تعجب کرنا کہ بغیر صحبت مرد کے کیسے بچہ ہوگا ؟	أَلَيْ يَكُونُ لِي عَلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
۳۰	فرشتہ کا منجانب اللہ یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ سب آسان ہے ۔	قَالَ رَبِّكَ مُوَدِّعٌ لِّهَاتِيں فَتَحَمَّلَتْهُ
۳۱	محکم خداوندی بغیر صحبت مرد کے ان کا حاملہ ہونا ۔	فَاجَاءَهَا الْمَخَاصِ إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ
<b>آپ کی ولادت کس جگہ اور کس طرح پر ہوئی</b>		
۳۲	مسکونہ مکان سے دو ایک بارغ کے گوشہ میں ولادت ہوئی ۔	فَاتَّيَدَّتْ بِهِم مَكَانًا قَعِيًّا
۳۳	حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے تنبہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھیں ۔	إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ
۳۵	ولادت کے بعد مریم کا بوجہ حیار کے پریشان ہونا اور لوگوں کی تہمت سے ڈرنا ۔	قَالَتْ يَٰئِسْتِنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنِيًّا
۳۶	درخت کے نیچے سے فرشتہ کا آواز دینا	فَتَادَّبَعَهَا مِنْ تَحْتِهَا

۳۷	گھبراؤ نہیں اللہ نے تمہیں ایک سردار دیا ہے۔	أَلَا تَحْزَنُنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّي قَدًّا تَمَكَّنِي سَيِّئًا
۳۸	ولادت کے بعد حضرت مریم کی غذا تازہ کھجوریں۔	نَسَا قِطْعَ عَلِيكَ رَطْبًا جَنِيئًا
۳۹	حضرت مریم کا آپ کو گود میں لٹا کر گھرانا۔	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلًا
۴۰	ان کی قوم کا تہمت رکھنا اور بدنام کرنا۔	يَسْتَرِيحُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا قَبِيئًا
۴۱	حضرت مریم سے رفع تہمت کے لئے بن جانب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام فرمانا۔ اور یہ فرمانا کہ میں نبی ہوں	قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ مِثْلِي الْكَيْبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

## حضرت مسیح موعود کے خصائص

۴۲	مسیح موعود کا مردوں کو حکم خدانہ کرنا	وَأُحْيِي الْمَوْتَى
۴۳	برص کے بیمار کو شفا دینا۔	أَبْرِئِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ
۴۴	مادہ زلادانہ سے کو حکم الہی شفا دینا۔	فَأَنْفَعُ فِيهِ وَيَكُونُ طَبِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
۴۵	مٹی کی چسٹریوں میں حکم الہی جان ڈالنا۔	وَأَنْتِ سَيِّدَةُ مِمَّا تَمَكَّنُوكُنَّ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي مِثْقَلِ ذَرَّةٍ
۴۶	آدمیوں کے کھانے ہوئے کھانے کو بتا دینا کہ کیا کھایا تھا؟	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُكِيدُونَ
۴۷	جو چیزیں لوگوں کے گھروں میں چھپی ہوئی رکھی ہیں ان کو بن دیکھے بتا دینا۔	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُكِيدُونَ
۴۸	کفار بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ کے قتل کا ارادہ کرنا اور حفاظت الہی۔	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُكِيدُونَ

۴۹	کفار کے زرعہ کے وقت آپ کے آسمان پر زندہ اٹھانا۔	إِنِّي مُتَوَقِّدٌ وَرَائِعَةٌ إِلَيْكَ .
----	---	--

## حضرت مسیح موعود کا حلیہ

۵۰	آپ کا وجیہ ہونا۔	وَجِيئًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
۵۱	آپ کا تندر قامت درمیانہ ہے۔	حدیث منہ بروایت ابو داؤد ر ابن ابی شیبہ احمد بن حنبل و صحابہ جبرئیل الخ
۵۲	رنگ سفید سُرخ مائل ہے۔	• • •
۵۳	بالوں کی لمبائی دونوں شانوں تک ہوگی۔	• • •
۵۴	بالوں کا رنگ بہت سیاہ چمک دار ہوگا۔ جیسے نہانے کے بعد بال ہوتے ہیں۔	• • •
۵۵	بال گھسٹ لائے ہوں گے۔	• • • روایات میں ہے کہ سید عالم پہلے سے گھسٹ لائے ہوں گے
۵۶	صحا پڑ میں آپ کے منشاہ عرواق میں مسوڑیں	حدیث منہ بروایت ابو داؤد ر حدیث منہ بروایت ابو داؤد ر
۵۷	آپ کی خداک لویا اور جو چیزیں لگ پڑنے لگیں۔	حدیث منہ بروایت ابو داؤد ر

## آخر زمانہ میں آپ کا دوبارہ نزول

۵۸	قرب قیامت میں پھر آسمان سے اترنا۔	حدیث منہ لغایت ۷۵
۵۹	نزول کے وقت آپ کا لباس؛ دو زرد رنگ کے کپڑے پہننے ہوئے ہوں گے	حدیث منہ ابو داؤد وغیرہ

حدیث ۶۵ ابن عساکر	آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی۔	۶۰
حدیث ۶۵ درمشور	آپ ایک زندہ پہنیں گے۔	۶۱

## بوقت نزول آپ کے بعض حالات

حدیث ۶۵ مسلم . ابوداؤد . ترمذی . احمد .	دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔	۶۲
حدیث ۶۵ ابن عساکر	آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے۔	۶۳
حدیث ۶۵ صحیح مسلم	اُس وقت جس کسی کا فر پر آپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا۔	۶۴
	سانس کی ہوا اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔	۶۵

## مقام نزول اور وقت نزول کی مکمل تعیین و توضیح

حدیث ۶۵ مسلم	آپ کا نزول دمشق میں ہوگا۔	۶۶
.	دمشق کی جامع مسجد میں نزول ہوگا۔	۶۷
.	جامع مسجد دمشق کے بھی شرقی گوشہ میں نزول ہوگا۔	۶۸
.	نماز صبح کے وقت آپ نازل ہوں گے	۶۹

## بوقت نزول حاضرین کا مجمع اور انکی کیفیت

حدیث ۶۵ مسلم	مسلمانوں کی ایک جماعت مع امام مہدی کے مسجد میں موجود ہوگی۔ جو دجال سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے ہوں گے۔	۷۰
--------------	--	----

۴۱	ان کی تعداد آٹھ سو تیرہ اور چار سو عدتیں ہوں گی۔	حدیث ۶۹ دہلی
۴۲	بوقت نزول عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ نماز کے لئے صفیں درست کرتے پائے ہوں گے۔	
۴۳	اس جماعت کے امام اس وقت حضرت مہدی ہوں گے۔	حدیث ۱۳۱ و ۱۳۲ تا ۱۳۳
۴۴	حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو امت کے لئے بلائیں گے اور وہ اٹھائیں گے	حدیث ۳۲ مسلم واحد
۴۵	جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر انہیں کو امام بنائیں گے۔	حدیث ۱۳۴ ابودرداء، ابن ماجہ ابن حبان، ابن خزیمہ
۴۶	پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔	حدیث ۱۳۵ ابوالنعم

### بعد نزول آپ کتنے دنوں دنیا میں رہیں گے

۴۷	آپ چالیس سال دنیا میں قیام فرمائیں گے۔	حدیث ۱۳۶ ابوداؤد، ابوالشیمہ احمد، ابن حبان، ابن جریر
----	---	---

### بعد نزول آپ کا نکاح اور اولاد

۴۸	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح ہوگا۔	حدیث ۱۳۷ فتح بلباری و ۱۳۸
۴۹	بعد نزول آپ کے اولاد ہوگی۔	حدیث ۱۳۹ کتاب الخلفاء للقرنی حدیث ۱۴۰ مذکور

### نزول کے بعد مسیح موعود کے کارنامے

۸۰	آپ صلیب تھریٹے یعنی صلیب پستی کو اٹھائیں گے	حدیث ۱۴۱ بخاری و مسلم
----	---	-----------------------

	۸۱	خزیر کو قتل کریں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔
حدیث عا بخاری و مسلم	۸۲	آپ نماز سے فارغ ہو کر دروازہ مسجد کھلوائیں گے اور اس کے پیچھے دجال ہوگا
حدیث عا	۸۳	دجال اور اس کے ساتھیوں سے جہاد کریں گے۔
• •	۸۴	دجال کو قتل فرمائیں گے۔
• •	۸۵	دجال کا قتل ارضِ فلسطین میں بابُ لُد کے پاس واقع ہوگا۔
• •	۸۶	اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی
• •	۸۷	جو یہودی باقی ہوں گے چُن چُن کر قتل کر دے جائیں گے۔
• •	۸۸	کسی یہودی کو کوئی چیز نہ دے سکے گی
• •	۸۹	یہاں تک کہ درخت اور پتھر لولٹیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چُپا ہوا ہے۔
حدیث عا، ابوداؤد، احمد، ابن ابی شیبہ، ابن حبان، ابن جریر	۹۰	اس وقت اسلام کے سوا تمام مذاہب مٹ جائیں گے۔
حدیث عا بخاری و مسلم	۹۱	اور جہاد موقوف ہو جائے گا: کیونکہ کوئی کافر باقی نہ رہے گا۔
حدیث عا مسند احمد	۹۲	اور اس لئے حبزیہ کا حکم بھی باقی نہ رہے گا۔
حدیث عا مذکور	۹۳	مالِ دُرد لوگوں میں اتنا عام کر دیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔
حدیث عا مسلم، مسند احمد	۹۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی اُمت کریں گے۔

حدیث ۳۷۷ مسلم، مسند احمد	۹۵	حضرت مسیح مقام نوح الرود جا میں تشریف لے جائیں گے۔
" " " "	۹۶	حج یا عمرہ یا دونوں کریں گے۔
" " " "	۹۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تشریف لے جائیں گے
در مشور	۹۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ جس کو سب حاضرین سنیں گے۔

## مسیح موعود لوگوں کو کس مذہب پر چلائیں گے

حدیث ۵۵۵ اشاعہ	۹۹	آپ قرآن و حدیث پر خود بخوبی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔
----------------	----	---

## مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہری و باطنی برکات

حدیث ۵۷۷ مسلم، ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد۔	۱۰۰	ہر قسم کی دینی و دنیوی برکات نازل ہوں گے۔
حدیث ۷۱ مسلم وغیرہ	۱۰۱	سب کے دلوں سے بغض و حسد ادرکینہ نکل جائے گا۔
حدیث ۵۷۷ مذکور	۱۰۲	ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لئے کافی ہوگا۔
" " "	۱۰۳	ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی ایک جماعت کے لئے کافی ہوگی۔
" " "	۱۰۴	ایک بونہ وادی بڑی قبیلہ کیلئے کافی ہو جائیگی۔
حدیث ۱۳۱ ابوداؤد، ابن ماجہ	۱۰۵	ہر ڈنک والے زہریلے جانور کا ڈنک وغیرہ نکال لیا جائے گا۔

۱۰۶	یہاں تک کہ ایک لڑکی اگر سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گی تو وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے گا۔	حدیث ۱۳۷ ابو داؤد ابن ماجہ
۱۰۷	ایک لڑکی شیر کو بھگا دے گی اور وہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا۔	" "
۱۰۸	بھیڑیا، بکریوں کے ساتھ ایسا ہے گا جیسے گتتا، ریورڈ کی حفاظت کے لئے رہتا ہے۔	" "
۱۰۹	ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔	" "
۱۱۰	صدقات کا دمول کرنا چھوڑ دیا جائے گا	" "

### یہ برکات کتنی مدت تک رہیں گی ؟

۱۱۱	یہ برکات سات سال تک رہیں گی۔	حدیث ۷۷ مسلم و احمد حاکم
لوگوں کے حالات متفرقہ جو مسیح عیسیٰ کے وقت ہونگے		
۱۱۲	رُومی لشکر مقام اعماق یا داہق میں اترے گا	حدیث ۷۷ مسلم
۱۱۳	اُن سے جہاد کے لئے مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا۔	" "
۱۱۴	یشکر اپنے زمانہ کے بہترین لوگوں کا مجمع ہوگا۔	" "
۱۱۵	ان کے جہاد میں لوگوں کے تین محکمے ہو جائیں گے۔	" "
۱۱۶	ایک تہائی حصہ شکست کھائے گا۔	" "
۱۱۷	ایک تہائی شہید ہو جائے گا۔	" "

حدیث ۷۷ مسلم

ایک تہائی فتح پاجائیں گے۔

۱۱۸

" " "

قسطنطنیہ فتح کریں گے۔

۱۱۹

## پہلے خروج و جہال کی غلط خبر مشہور ہونا

حدیث ۷۷ مسلم

جس وقت وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج و جہال کی غلط خبر مشہور ہو جائے گی۔

۱۲۰

" " "

لیکن جب یہ لوگ ملک شام میں آئیں گے تو جہال نکل آئے گا

۱۲۱

## اس زمانے میں عرب کا حال

حدیث ۱۳۱ ابوداؤد ابن ماجہ

عرب اس زمانہ میں بہت کم ہوں گے اور سب کے سب بیت المقدس میں ہوں گے۔

۱۲۲

## لوگوں کے بقیہ حالات

حدیث ۱۳۲ احمد، حاکم، طبرانی

مسلمان و جہال سے سچے کافر اپنی پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے (یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔

۱۲۳

" " "

اس وقت مسلمان سخت فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ

۱۲۴

" " "

اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جائیں گے۔

۱۲۵

" " "

اس وقت اچانک ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا فریاد رس آگیا۔

۱۲۶

" " "

لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی

۱۲۷

" " "

پیٹ بھرے ہوئے کی آواز ہے۔

۱۲۸

" " "

## غزوہ ہندوستان کا ذکر

۱۲۷	ایک مسلمانوں کا لشکر ہندوستان پر چڑھ کرے گا اور اس کے بادشاہوں کو قید کر لے گا۔	حدیث ۳۶ ابو نعیم
۱۲۸	یہ لشکر اللہ کے نزدیک مقبول و مغفور ہوگا	• •
۱۲۹	جس وقت یہ لشکر واپس ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں پائے گا۔	• •
۱۳۰	بنی عباس اس وقت گادول میں نہیں گئے	حدیث ۳۹ ابن نجار
۱۳۱	اور سیاہ کپڑے پہنیں گے۔	• •
۱۳۲	اور ان کے متبعین اہل خراسان ہوں گے	• •
۱۳۳	لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعتماد پر تمام دنیا سے مستغنی ہو جائیں گے	• •

## مسیح موعود کے زمانہ کے اہم واقعات

### آپ کے نزول سے پہلے دجال کا خروج

۱۳۴	شام و عراق کے درمیان دجال نکلے گا۔	حدیث ۴۵ مذکور
-----	------------------------------------	---------------

### دجال کی علامات

۱۳۵	اس کی پیشانی پر کافراں صورت میں لکھا ہوگا ک ، ف ، س	حدیث ۴۷ مسند احمد
۱۳۶	وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔	• •
۱۳۷	دائیں آنکھ میں سخت ناخن ہوگا۔	• •

حدیث ۱۳۸ مسند احمد	تمام دنیا میں پھر جائے گا۔ کوئی جگہ باقی نہ رہے گی جس کو وہ فتح نہ کرے۔	۱۳۸
• •	البتہ حرمین، مکہ و مدینہ اُس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔	۱۳۹
حدیث ۱۳۹	مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستہ پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ جو دجال کو اندر نہ گھسنے دیں گے۔	۱۴۰
• •	جب مکہ و مدینہ سے دفع کر دیا جائے گا تو ظریب احمر میں سخن (کھاری زمین) کے قتم پر جا کر ٹھہرے گا۔	۱۴۱
حدیث ۱۴۱ مسند احمد	اس وقت میں تین زلزلے آئیں گے جو منافقین کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے اور تمام منافق مرد و عورت دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔	۱۴۲
حدیث ۱۴۲ مسند احمد	اس کے ساتھ ظاہری طور پر جنت و دوزخ ہوگی مگر حقیقت میں اُس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔	۱۴۳
• •	اُس کے زمانہ میں ایک دن سال بھر کے برابر اور دوسرا مہینہ کے برابر اور تیسرا ہفتہ کے برابر ہوگا۔ اور پھر باقی ایام عادت کے موافق ہوں گے۔	۱۴۴
• •	وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں ہاتھوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا۔	۱۴۵
• •	اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے۔	۱۴۶

حدیث ۵ مذکور	جب وہ بادل کو کہے گا فوراً بارش ہو جائے گی	۱۴۷
" "	اور جب چاہے گا تو قحط پڑ جائے گا۔	۱۴۸
حدیث ۳۸ طبرانی	ماریزا دانہ اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔	۱۴۹
" "	زمین کے پوشیدہ خزانوں کو حکم دے گا تو فوراً باہر آکر اس کے پیچھے ہو جائیں گے	۱۵۰
" "	دجال ایک نوجوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار سے اس کے دو ٹکڑے بنج کر دے گا اور پھر اس کو بلائے گا تو وہ صبح سالم ہو کر ہنستا ہوا سامنے آجائے گا۔	۱۵۱
حدیث ۱۱ ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ	اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے جن کے پاس جڑاؤ تلواں اور ساج ہوں گے۔	۱۵۲
حدیث ۷ ابن ابی شیبہ، عباس بن حمید، حاکم، بیہقی، ابن ابی حاتم۔	لوگوں کے تین فرقے ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ دجال کا اتباع کرے گا، ایک فرقہ اپنی کاشت کاری میں لگے گا اور ایک فرقہ دریائے فرات کے کنارے پر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔	۱۵۳
" "	مسلمان ملک شام کی بستیوں میں جمع ہو جائیں گے اور دجال کچھ ایک بتائی لشکر بھیجیں گے	۱۵۴
" "	اس لشکر میں ایک شخص ایک سرخ (یا سیاہ) سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور یہ سلا لشکر شہید ہو جائے گا ان میں سے ایک بھی واپس نہ آئے گا۔	۱۵۵

## دجال کی ہلاکت اور اس کے لشکر کی شکست

۱۵۶	دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پھینکے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھولتا ہے۔	حدیث ۱۳۱ مذکور
۱۵۷	اُس وقت تمام یہودیوں کو شکست ہوگی	حدیث ۱۳۲، ۱۳۳

## یا جوج ماجوج کا نکلنا اور ان کے بعض حالات

۱۵۸	اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو نکالے گا جن کا سیلاب تمام عالم کو گھیرے گا۔	حدیث ۵۵ مذکور
۱۵۹	اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو طور پہاڑ پر جمع فرمائیں گے۔	• •
۱۶۰	یا جوج ماجوج کا ابتدائی حصہ بیٹے طبرہ پر گزرنے کا تو سب ریا کو پی کر مٹا کر دے گا۔	• •
۱۶۱	اس وقت ایک بیل لوگوں کے لئے ستوا دینار سے بہتر ہوگا (بوجہ قحط کے یا دنیا سے قلتِ رغبت کی وجہ سے)	• •

## مسح موعود کا یا جوج ماجوج کیلئے بدعافرمانا اور کی ہلاکت

۱۶۲	اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج ماجوج کے لئے بدعافرمائیں گے۔	حدیث ۵۵ مذکور
۱۶۳	اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں ایک گئی نکال دے گا جس سے سب کے سب دفعۃً مرے ہوئے رہ جائیں گے۔	• •

## حضرت عیسیٰ کا حبیل طور سے آنا

۱۶۳	اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لیکر حبیل طور سے زمین پر آئیں گے۔	حدیث ۵۵ غلوکد
۱۶۵	مگر تمام زمین یا جوج ماجوج کے مردوں کی بدبو سے بھری ہوئی ہوگی۔	" "
۱۶۶	حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ بدبو دور ہو جائے۔	" "
۱۶۷	اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے تمام زمین دھل جائے گی۔	" "
۱۶۸	پھر زمین اپنی اصلی حالت پر پھولوں اور پھولوں سے بھر جائے گی۔	" "

## مسح موعود کی وفات اور اس کے قبل و بعد کے حالات

۱۶۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ میرے بعد ایک شخص کو خلیفہ بنائیں جس کا نام مُقعد ہے۔	حدیث ۵۵ الاشارة للبرزخی
۱۷۰	اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی	حدیث ۵۵ و ۱۵۰ مسند احمد صحاح فقط
۱۷۱	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اظہر میں چوتھی قرآپ کی ہوگی۔	" "
۱۷۲	لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعمیل ارشاد کے لئے مُقعد کو خلیفہ بنائیں گے۔	" "
۱۷۳	پھر مُقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔	" "
۱۷۴	پھر لوگوں کے سینوں سے فتران اٹھا لیا جائے گا۔	" "

۱۷۵	یہ واقعہ مُتَعَدِّد کی موت سے تین سال بعد ہوگا۔	حدیث ۵۵ و ۵۶ مسند احمد دعاظف۔
۱۷۶	اس کے بعد قیامت کا حال ایسا ہوگا جیسے کوئی پورے نو مہینہ کی حاملہ کہ معلوم نہیں کب ولادت ہو جائے۔	" "
۱۷۷	اس کے بعد قیامت کی بالکل تسری علامات ظاہر ہوں گی۔	" "

## ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞

مسیح موعود کی مکمل سوانح حیات اور عمر بھر کے کارنامے اور ان کے مسکن و دفن کا پورا جغرافیہ اس تفصیل و تحقیق کے ساتھ قرآنی آیات اور حدیثی روایات میں جب ایک سمجھدار آدمی کے سامنے آتا ہے تو خود بخود یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ لاکھوں انبیاء علیہم السلام کی عظیم الشان جماعت میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کے تذکرہ کو قرآن و حدیث نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ کسی اور نبی کے لئے اس کا عشرِ عشر بھی مذکور نہیں۔ یہاں تک کہ سید الاولین و الآخِرین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طلیبات اور سیرت و شمائل بھی قرآن عزیز میں اس تفصیل تو ضیح کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ حالانکہ تمام انبیاء و رُسُل کی جماعت پر آپ کی سیادت و عظمت باجماع امت ثابت ہونے کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ السلام کی بعثت کے مقاصد میں تبصرح قرآن مجید یہ بھی ایک اہم مقصد ہے کہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا اعلان فرماتے ہوئے آپ کی سیادت کا سکہ قلوب پر بٹھلا دیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کی یہ اہمیت ضرور کسی بڑی مصلحت و حکمت پر مبنی ہے۔

پھر جب ذرا تامل سے کام لیا جاتا ہے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خصوصی اہمیت بھی اُن عنایات الہیہ کا نتیجہ ہے جو ازل سے امتِ اُمیہ کی قسمت میں مقدر ہو چکی تھی اور

اور حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمتہ للعالمین کا ایک مظہر ہے۔ جس نے اُمت کے لئے مذہبی شاہراہ کو اتنا ہموار اور صاف کر چھوڑا ہے کہ اُس کا لیل و نہار برابر ہے۔ اس رستہ کے قدم قدم پر ایسے نشانات بتلا دیئے ہیں کہ چلنے والے کو کہیں التباس پیش نہیں آسکتا۔

یعنی قیامت تک جتنے قابل اقتدار انسان پیدا ہونے والے تھے اُن میں اکثر کے نام لے لے کر اُن کی مفصل کیفیات پر اُمت کو مطلع فرمادیں تاکہ اپنے اپنے وقت میں یہ بزرگانِ دین ظاہر ہوں تو اُمت ان کے قدم لے اور اُن کے افعال و اقوال کو اپنا اُسوہ بنا لے۔

پھر ارشاد و ہدایت کے سلسلہ میں چونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نبوت کی شان امتیاز رکھتے ہیں، اس لئے اُن کے ذکر کی اہمیت سب سے زیادہ ہونا لازمی تھی۔ کیونکہ نبی کی شان تمام دنیا سے برتر ہے۔ اُس کی ادنیٰ توہین و تنقیص کا اشاہ بھی کفر صریح ہے۔ تمام مرشدین اور مجددین اُمت کی شخصی معرفت میں اگر کوئی شبہ باقی بھی رہے تو بجز اس کے کہ اُن کی برکات و فیوض سے محسوس ہو اُمت کے ایمان کا خطرہ نہیں ہے۔ بخلاف مسیح موعود علیہ السلام کے کہ اگر اُن کی علامات اور پہچان میں کوئی شبہ کا موقع یا التباس کی گنجائش رہے اور اُمت مرحومہ اُن کو نہ پہچانے تو یہاں کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے اور اُمت کا ایمان خطرہ میں آجاتا ہے۔ اندیشہ قوی ہوتا ہے کہ نہ پہچاننے کی وجہ سے اُمت آپ کی توہین و تنقیص میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر وہ جالی قتنوں اور یا جوج ماجوج کی بلاؤں کا شکار ہو جائے۔

اس لئے رحمتہ للعالمین کا فرض تھا کہ مسیح موعود کی پہچان کو اتنا روشن فرمادیں کہ کسی بصیر انسان کو اُن سے آنکھ چُرانے کی مجال نہ رہے۔ خدا کی ہزاراں ہزار رحمتیں اور بے شمار درود اُس حریفوں بالؤمنین اور رؤف و رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے اس مسئلہ کو اتنا صاف اور روشن فرمادیا کہ اس سے زیادہ عادیہ ناممکن ہے۔

دنیا میں ایک شخص کی تعریف اور پہچان کے لئے اس کا نام اور ولدیت و سکونت وغیرہ دو تین اوصاف بتلا دینا ایسا کافی ہو جاتا ہے کہ پھر اُس میں کوئی شک باقی

نہیں رہتا۔ ایک کارڈ پر جب یہ دو تین نشان لکھ دیئے جاتے ہیں تو مشرق سے مغرب میں ٹھیک اپنے مکتوب الیہ کے پاس پہنچتا ہے اور کسی دوسرے کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ اس پر اپنا حق ثابت کرے یا چٹھی رسالوں سے یہ کہہ کر لے لے کہ میں ہی اس کا مکتوب الیہ ہوں۔

لیکن ہمارے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف انہیں نشانات کے بتلا دینے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ مسیح موعود کے نام کی جو چٹھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں دی ہے اس کی پشت پر سب سے پہلے کی جگہ ان کی ساری سوانح عمری اور شمائل و خصائل، حلیہ، لباس اور عملی کارنامے بلکہ ان کے مقام نزول اور جائے قرار اور مسکن و مدفن کا پورا جغرافیہ تحریر فرما دیا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں فرمائی بلکہ آپ کا شجرہ نسب اور آپ کے متعلقین اور متبعین تک کے احوال کو مفصل لکھ دیا ہے۔

مگر افسوس کہ اس پر بھی بعض قزاق اس فکر میں ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام کوشش پر (خاکش بدین) خاک ڈال کر اس چٹھی کو قبضہ لیں اور اس طرح دنیا میں مسیح موعود بن بیٹھیں۔

## مرزائیوں سے چند سوال

مجھ کو یہ پوچھنا ہے مرزا سے  
یہ کبھی ہوش میں بھی آتے ہیں

وہ لوگ جو نادانیت یا کسی مغالطہ و غلط فہمی سے مرزائیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، میں ان کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر دلی خیر خواہی اور ہمدردی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دین و آخرت کا معاملہ ہے، ہر شخص کو اپنی قبر میں اکیلا جانا اور حساب دینا ہے، کوئی جتھا اور جماعت وہاں کام نہ آئے گی۔ خدا کے لئے ہوش میں آئیں اور عقل خدا داد سے کام لیں اور سمجھیں کہ کیا مرزا غلام احمد صاحب انصاری اوصاف و علامات اور نشانات کے آدمی تھے جو سید الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی پہچان کے لئے امت کے سامنے رکھے ہیں،

و کیا مرزا جی کا نام "غلام احمد" نہیں بلکہ "عیسیٰ" ہے؟

- ۱ کیا اُن کی والدہ کا نام "چراغ بی" نہیں بلکہ "مریم" ہے ؟
- ۲ کیا ان کے والد "غلام مرتضیٰ" نہیں، بلکہ بے باپ کی پیدائش ہے ؟
- ۳ کیا اُن کا مولد "قادیان" جیسا کوردہ نہیں، بلکہ "دمشق" ہے۔ یا قادیان دمشق کے ضلع یا صوبہ میں واقع ہے ؟
- ۴ کیا ان کا مدفن "قادیان" نہیں بلکہ "مدنیہ طیبہ" ہے ؟
- ۵ کیا اُن کے نانا "عمران" اور ماموں "ہارون" اور نانی "حنتہ" ہیں ؟
- ۶ کیا اُن کی والدہ کی تربیت حضرت مریم کی طرح ہوئی ہے ؟ — اور
- ۷ کیا ان کی نشوونما ایک دن میں اتنا ہوا ہے جتنا ایک سال میں بچے کا ہوتا ہے ؟
- ۸ کیا اُن کے پاس غیبی رزق آتا تھا ؟ کیا فرشتے اُن سے کلام کرتے تھے ؟
- ۹ کیا مرزا جی کی پیدائش جنگل میں کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی ؟
- ۱۰ کیا اُن کی والدہ نے پیدائش کے بعد درخت کھجور کو ہلا کر ٹھوس رکھائی تھیں ؟
- ۱۱ کیا مرزا جی نے کسی مُردے کو زندہ کیا ہے ؟
- ۱۲ کیا انہوں نے کسی برص کے بیمار یا مادرزاد اندھے کو خدا سے اذن پا کر شفا دی ہے ؟
- ۱۳ کیا مٹی کی چیزوں میں حکم خداوندی جان ڈالی ہے ؟
- ۱۴ کیا وہ آسمان پر گئے ہیں اور پھر اترے ہیں ؟
- ۱۵ کیا اُن کے سانس کی ہوا سے کافر مر جاتے تھے ؟
- ۱۶ کیا اُن کے سانس کی ہوا اتنی دُور پہنچتی تھی جہاں تک اُن کی نظر پہنچے ؟
- ۱۷ کیا وہ دمشق کی جامع مسجد میں گئے ہیں ؟
- ۱۸ کیا اُن کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوا ہے ؟

سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مرزا جی میں باوجود مسیح یا شیل مسیح کے دعوے کے یہ وصف نہ ہوا،  
 ورنہ ساری دنیا خالی ہو جاتی۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ اور ہنود واقعی کافر ہیں ہی، مرزا جی کے نزدیک  
 دنیا کے کروڑوں مسلمان بھی کافر ہیں۔ دیکھو حقیقۃً الوحی ص ۱۶۹ و ازبیین ص ۱۶۸ و ص ۱۶۷  
 داخجام آتم ص ۶۲ و دیو ۱۲ ص ۱۲

۱ کیا انہوں نے دنیا سے ملیب پرستی اور نصرانیت کو مٹایا ہے یا اور ان کے زمانہ میں نصرانیت کو ترقی ہوئی؟

۲ کیا ان کے زمانہ میں ان اوصاف کا دجال نکلا ہے جو بحوالہ احادیث ہم نے نقشہ میں درج کئے ہیں؟

۳ کیا انہوں نے ایسے دجال کو حربہ سے قتل کیا ہے؟

۴ کیا انہوں نے اور ان کی جماعت نے یہودیوں کو قتل کیا ہے؟

۵ کیا کسی نے ان کے زمانہ میں پتھروں اور درختوں کو بولتے دیکھا ہے؟

۶ کیا انہوں نے مال و دولت کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب کوئی لینے والا نہیں ملتا

یا اور افلاس، فقر و فاقہ اور ذلت ان کے قدموں کی برکت سے دنیا میں پھیل گئے۔

۷ کیا آسمانی برکات پھولوں اور درختوں میں اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ایک

انار ایک جماعت کے لئے ایک بھری کا دودھ ایک قبیلہ کے لئے کافی ہو جائے؟

۸ کیا انہوں نے لوگوں کے قلوب میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا یا نفاق و خلاف

کی طرح ڈالی؟

۹ کیا بغض و حسد لوگوں کے قلوب سے اُٹھ گیا یا اور زیادہ ہو گیا؟

۱۰ کیا بھوسا نپ وغیرہ کا زہر بے کار ہو گیا؟

۱۱ کیا مرزا جی کوچ یا عمرہ یا دونوں کر ناصیب ہوا ہے؟

۱۲ کیا مرزا جی کبھی مسلمانوں کو لسیکر کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں؟

۱۳ کیا ان کے زمانہ میں یا جوج ماجوج نکلے ہیں؟ کیا ان کے مردوں سے تمام

زمین آلودہ نجاست و بدبو ہوئی اور مرزا جی کی دُعا سے بارش نے اس کو

دھویا ہے؟

۱۴ کیا مرزا جی نے کسی مقعد نامی آدمی کو خلیفہ بنایا ہے؟

۱۵ کیا مرزا جی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی؟

۱۶ الغرض مسیح موعود کے حالات و نشات کا مکمل نقشہ بحوالہ ستران و حدیث

آپ کے سامنے ہے۔ آنکھیں کھول کر ایک ایک نشان اور ایک ایک علامت کو

مرزا صاحب میں تلاش کیجئے اور خدا تعالیٰ نظروں سے غائب ہے تو مخلوق ہی سے شرمائیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی جس پر یہ نشانات اور یہ پتہ لکھا ہوا ہے، آپ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اور اگر کہیں کہ غلام احمد سے مراد عیسیٰ اور ادرچراغ بی بی سے مریم اور دمشق اور مدینہ سے قادیان اور نصرانیت کے مٹانے سے مراد اُس کی ترقی اور عزت سے مراد ذلت ہے، تو اس خانہ ساز مرزائی لغت پر قرآن اور احادیث نبویہ کی اس تحریف بلکہ ان کا مضحکہ بنانے کو کیا واقعی تمہاری عقل قبول کرتی ہے؟ اور کیا دنیا میں کوئی انسان اس پر راضی ہو سکتا ہے؟ اور اگر تحریفات و تاویلات اور استعارات کی یہی گرم بازاری ہے تو پھر کیا دنیا کا کوئی کام یا کوئی معاملہ درست رہ سکتا ہے؟

ہم تو جب جانیں کہ مرزا صاحب یا ان کی امت کسی عیسیٰ نامی مشقی آدمی کا ایک کارڈ چٹھی رسال سے یہ کہہ کر وصول کر لیں کہ آسمان میں قادیان ہی کا نام دمشق ہے اور میرا ہی نام عیسیٰ ہے اور چراغ بی بی کا نام مریم ہے، کبھی یہ کہہ کر دیکھو کہ چٹھی رسال اور ساری دنیا تمہیں کیا کہے گی؟

ہاں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چٹھی کو لا وارث سمجھ کر راستہ میں اڑانا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ آج بھی آپ کے وہ وارث موجود ہیں جو آپ ہی کی لکیر کے فقیر ہیں اور اسی کو اپنی بادشاہی سمجھتے ہیں اور اسی عہد پر جان لے دینے کو اپنی فلاج دارین جانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ چکے ہیں۔

اگرچہ خرمین عمرم غم تو داد بباد  
بخاک پائے عزت کہ عہد شکستم

اس لئے ہم بعون اللہ تعالیٰ بیانات دہل کہتے ہیں کہ مرزائی امت کتنا ہی زور لگائے مگر یہ والا نامہ اسی مکتوب الیہ کو ملے گا جس کے نام آج سے تیرہ سو برس پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا اور بروایت ابوہریرہ ان کو سلام پہنچایا۔ واللہ باللہ ہمیں مرزا صاحب سے کوئی عداوت نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ ٹھہر آئے ہوئے مسیح کو ادران کی مسیحائی کو ٹھکرا دے۔ بالخصوص ایسے وقت جب کہ قوم کو مسیح کی سخت حاجت ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ مسیح تو ماننے کے لئے تیار

ہیں مگر کوئی مسیحائی بھی تو دکھلائے

ہوں میں پروردانہ مگر شمع تو بھورت تو ہو ؛ جان دینے کو ہوں موجود کوئی بات تو ہو  
دل بھی حاضر تسلیم بھی ختم کو موجود ؛ کوئی مرکز ہو کوئی قبلہ حاجات تو ہو  
دل تو بے چین ہے اظہار ارادت کیلئے ؛ کسی جانب کچھ اظہار کرامات تو ہو  
دل کشا بادۂ صافی کا کسے ذوق نہیں ؛ باطن افروز کوئی پیر خرابات تو ہو  
مسلمانو ! آپ کی مذہبی غیرت و حمیت اور خدا داد عقل و فہم کو کیا ہوا کہ آپ کو  
مشاہدات اور بدیہیات کے انکار کی طرف بلایا جاتا ہے ، اور آپ ذرا عقل سے  
کام نہیں لیتے ؟

اے کشتہ ستم ! تری غیرت کو کیا ہوا ؟

خدا کے لئے ذرا ہوش میں آؤ اور اس فتنہ کے انجام پر نظر ڈالو کہ اگر یہی مرزائی  
لغت اور قادیانی زبان اور اس کے عجیب استعارات رہے تو قرآن و حدیث اور مذہب  
اسلام کا تو کتنا کیا ساری دنیا کا گھردنہ اور عالم کا نظام برباد ہو جائے گا۔ ایک شخص  
اگر زید کے گھر پر دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے اور مرزا صاحب کی طرح کہے کہ آسمانی دفتر  
میں میرا ہی نام زید لکھا ہوا ہے اور مالک مکان کی جتنی علامات اور نشانات سرکاری  
کاقدوں میں درج ہیں ان سب کا مستحق بربنگ استعارات میں ہوں تو بتلائیے کہ آپ کے  
پاس اس کا کیا جواب ہوگا ؟ اسی طرح اگر ایک مرد کسی غیر مشکوٰۃ عورت پر اسی حیلہ  
سے اپنی بی بی ہونے کا دعویٰ کرے ، یا کوئی عورت اسی مرزائی استعارہ کے بل پر کسی غیر مرد  
کو اپنا خاوند بتائے ۔ یا کوئی ملازم دوسرے ملازم کی تنخواہ وصول کرے ۔ یا کوئی بھنگی  
بادشاہی محل میں شخص کر شاہی بیچت کو اسی مرزائی فلسفہ کی طرف دعوت دے ۔ یا ایک  
قتل عمد کا مجرم اپنا جرم اسی مرزائی استعارات کے ذریعہ کسی دوسرے غریب کے سر  
ڈال دے اور کہے کہ آسمانی دفتر میں اسی کا نام وہ ہے جو قاتل کے لئے لکھا ہوا  
ہے ۔ تو فرمائیے کہ مرزائی اصول اور ان کے استعارات کی دنیا کو جائز رکھتے ہوئے  
کسی کو کیا حق ہے کہ ان لوگوں کی زبان بند کرے یا ہاتھ روک سکے ؟ اور جب  
نوبت اس پر پہنچ گئی تو خود سمجھے کہ دین و مذہب تو کیا خود دنیا داری کے سہی لالے  
پڑ جائیں گے۔

الغرض دنیا کے تمام معاملات بیخ و شرار، لین دین، نکاح و طلاق، جزار و  
 میں ایک شخص کی تعیین کے لئے جب اس کا نام اور ولایت و سکونت وغیرہ دوچار و صف  
 ذکر کر دیئے جاتے ہیں تو اس شخص کی تعیین تمیز ایسی حتمی اور یقینی ہو جاتی ہے کہ اس میں  
 کسی مشبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور کسی دوسرے کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کے احوال  
 و اقوال کو اپنی طرف منسوب کر سکے اور اس کی ملوکات میں تصرف کر سکے۔ نہ یہاں  
 کوئی استعاہ چل سکتا ہے نہ مجاز۔ دنیا کے تمام کارخانے اسی اسلوب پر قائم ہیں۔  
 غضب ہے کہ جس شخص کے متعلق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوچار نہیں،  
 دس میں نہیں، ایک سو اسی علامات و نشانات اُمت کو بتلائے ہوں۔ اُمت کو  
 اب بھی اُس کی تعیین میں مشبہ ہے، اور آپ کے صاف و صریح ارشادات کو استعاہاً  
 و مجاز کہہ کر نال دے سے

ہرگز باور نہ آید ز روئے اعتقاد

ایں ہمہ ماگفتن و دین پیہ پراشتن

بلکہ بلا مشبہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تکذیب اور تکرار و حدیث کو  
 جھٹلانا ہے (نعوذ باللہ منہ)۔

یا اللہ تو ہماری قوم کو عقل دے اور عقل سے کام لینے کی توفیق دے کہ اس  
 جیسے بدیہیات کے انکار میں مبتلا نہ ہوں۔

وَاللّٰهُ الْهَادِي وَ عَلِيْهِ التَّكْلَانِ

العَبْدُ الضَّعِيْفُ

محمد شفیع الدیوبندی غفرلہ ولوالدیہ و مشائخہ

مدس دارالعلوم دیوبند

شعبان ۱۳۶۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## دعاویٰ مرزا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ خُصُوصًا  
عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَجْتَبَىٰ وَمَنْ يَّمُنْ بِهَدْيِهِ اهْتَدَىٰ

\*\*\*

یوں تو مہدی بھی ہو عیسیٰ بھی ہو مسلمان بھی ہو  
تم سب کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

\*\*\*

دنیا میں بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں لیکن مرزائی فرقہ  
ایک عجیب چھیستان ہے کہ اس کے دعوے اور عقیدہ کا پتہ آج تک خود مرزائیوں کو بھی نہیں  
لگا، جس کی درجہ اصل میں یہ ہے کہ اس فرقہ کے بانی مرزا قادیانی نے خود اپنے وجود کو دنیا کے  
سامنے اس شکل و صورت میں پیش کیا ہے اور اس نے اس طرح کے دعاوی کئے کہ خود ان  
کی امت بھی اس شبہ میں پڑ گئی کہ ہم اپنے گرو کو کیا کہیں، کوئی تو ان کو نبی صاحب شریعت  
بھی کہتا ہے اور کوئی غیر تشریحی نبی مانتا ہے اور کسی نے ان کی خاطر ایک نئی قسم کا نبی لغوی  
تراشا ہے اور ان کو مسیح موعود مہدی اور لغوی یا مجازی نبی کہتا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کا وجود ایک ایسی چھیستان ہے جس کا حل نہیں، نہ ہونے  
اپنی تصانیف میں جو کچھ اپنے متعلق لکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ متعین کرنا بھی دشوار ہے کہ  
مرزا صاحب انسان ہیں یا اینٹ پتھر، مرد ہیں یا عورت، مسلمان ہیں یا ہندو، مہدی ہیں یا خدا  
ولی ہیں یا نبی، فرشتے ہیں یا دیو۔ جیسا کہ دعویٰ مندرجہ رسالہ ہذا سے معلوم ہوتا ہے۔

فومط - اگر کوئی مرزائی یہ ثابت کر دے کہ یہ عبارت مرزا صاحب کی نہیں تو فی عبارت دس روپیہ انعام۔

## مرزائیوں کے تمام فرقوں کو گھلا پیسج

دعویٰ کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ مرزائی امت کے تینوں فرقے مل کر قیامت تک سے بھی متعین نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے ؟ اور وہ کون ہیں اور کیا ہیں دنیا سے اپنے آپ کو کیا کہلوانا چاہتے ہیں ؟

لیکن جب ہم ان کی تصانیف کو غور سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ میں اختلاط و اختلاف بھی ان کی ایک گہری مجال ہے۔ وہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے تھے لیکن سب سے پہلے کہ قوم اُس کو تسلیم نہ کرے گی اس لئے تدریج سے کام لیا۔ پہلے خادم اسلام مبلغ بنے، پھر مجدد ہوئے، پھر مہدی ہو گئے، اور جب دیکھا کہ قوم میں ایسے بوقوفوں کی کمی نہیں جو ان کے ہر دعویٰ کو مان لیں گے تو پھر کھلے بندوں نبی، رسول، خاتم الانبیاء وغیرہ سب ہی کچھ ہو گئے۔ اور ہونہار مرد نے اپنے آخری دعویٰ (خدائی) کی بھی تمہید ڈال دی تھی جس کی تصدیق عبارت مذکورہ (ذیل) ص ۲۶ لغایت ص ۳۳ سے بخوبی ہوتی ہے۔ لیکن قسمت سے عمر نے وفات کی ورنہ مرزائی دنیا کا خدا بھی نئی روشنی اور نئے فیشن کا بن گیا ہوتا۔ خود مرزا صاحب کی عبادت ذیل میں اس تاریخی ترقی اور اس کے سبب پر ہمارے دعویٰ کے گواہ ہیں۔ نصرت الحق ص ۱۵۵ پر فرماتے ہیں :-

” میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالہ وحی الہی ایک مسجح موعود کا دعویٰ تھا۔“

اور پھر فرماتے ہیں :-

” علاوہ اس کے اور مشکلات یہ معلوم ہوئے..... کہ بعض امور اس دعویٰ میں

ایسے تھے کہ ہرگز امید نہ تھی کہ قوم ان کو قبول کر سکے اور قوم پر تو اس قدر

بھی امید نہ تھی کہ وہ اس امر کو تسلیم کر سکیں کہ بعد از ماہ نبوت وحی غیر تشریحی

کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور قیامت تک باقی ہے لیکن میرے اس دعویٰ کو

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرزا صاحب ختم نبوت کے قائل تھے اور کسی نبی تشریحی یا غیر تشریحی کو نہیں مانتے تھے اور اپنے آپ کو نبی نہیں کہتے تھے اور بعد میں ارزانی غلم نے نبی

بنادیا۔ دیکھو حقیقۃ الوحی ص ۱۴۸ و ص ۱۵۱

”اسی طرح اوائل میرا یہی عقیدہ تھا کہ محمد کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی تھے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کے متعلق ظاہر ہوتا تھا تو میں اس کو جزدی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا سے تعالیٰ کی وحی ہارس کی طرح میرے پر نازل ہوئی اُس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہتے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا“

اس کے بعد ہم مرزا صاحب کے دعاوی خود اُس کی تصانیف سے مع حوالہ صفحات نقل کرتے ہیں۔ جو دعویٰ متعدد کتابوں اور مختلف مقامات پر موجود ہیں بغرض اختصار عبارت تو ان میں سے ایک ہی نقل کر دی گئی ہے باقی کے حوالہ صفحات درج کر دیئے گئے ہیں۔

## نقل عبارت مرزا مع حوالہ کتاب مرزا

مبلغ اسلام اور صلح ہونے کا دعویٰ | یہ عاجز مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے مسیح کی طرز پر کمال مسکینی و فرد تنی اور غربت و تنذلل و تواضع سے اصلاح خلقی کے لئے کوشش کرے۔ (خط مندرجہ مقدمہ براہین احمدیہ ص ۵۷)

مجدد ہونے کا دعویٰ | اب بتلادیں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا اس عاجز نے کیا۔ (ازالہ اودام، ۱۵۲ خور صدہ ادلی، دملا کلاں)

محدث ہونے کا دعویٰ | اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا سے تعالیٰ کی طرف سے امت کے لئے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث ایک معنی سے نبی ہوتا ہے گو اس کے لئے نبوت تامہ نہیں مگر تامہ جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ (توضیح المرام ص ۱۷۷ خود)

امام زان ہونے کا دعویٰ | میں لوگوں کے لئے تجھے امام بناؤں گا تو ان کا رہبر ہوگا۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۹۰ ضروریۃ الامام ص ۲۷، کتاب البریہ ص ۱۷۷)

علیقہ الہی اور خدا کا جانشین ہونے کا دعویٰ | میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو یعنی تجھے پیدا کیا۔ (کتاب البریہ ص ۱۷۷)

مہدی ہونے کا دعویٰ | (اشہار معیار الاخبار در ریویو آف ریلیجز، نومبر و دسمبر ۱۹۰۳ء وغیرہ) یہ دعویٰ

مرزا صاحب کی اکثر تصانیف میں بکثرت موجود ہے اس لئے نقل عبارت کی حاجت نہیں۔  
 حارث مدد گاہ ہدیٰ | واضح ہو کہ یہ پیشین گوئی جو ابواب صحیح میں درج ہے کہ ایک شخص حارث نام  
 ہونے کا دعویٰ یعنی حارث ماوراء النہر سے یعنی سمرقند کی طرف سے نکلے گا جو آل رسول کو

تقویت دے گا جس کی امداد اور نصرت ہر ایک مؤمن پر واجب ہوگی الہامی  
 طور پر مجھ پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پیشین گوئی جو مسلمانوں کا امام اور مسلمانوں میں سے ہو گا دراصل  
 یہ دونوں پیشین گوئیاں متحد المضمون ہیں اور دونوں کا مصداق بھی عاجز ہے (انزالہ امامؑ و خور و خورؑ)  
 ہی امتی اور بزرگی بخدیٰ | اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدم سے موعود تھا وہ میں ہوں اس سے بروزی  
 یا غیر تشریحی ہونے کا دعویٰ رنگ کی نبوت مجھ کو عطا کی گئی۔ (اشتبہا ایک قطعی کا ازالہ منقول از منیبہ  
 حقیقۃ الوحی ص ۳۶۸، چشمہ معرفت ص ۳۲۳)

نبوت و رسالت | سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا (دافع البلاء ص ۱۱)  
 اور وحی کا دعویٰ | حق ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ  
 رسول اور مرسل اور نبی کہ موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ (براہین احمدیہ ص ۳۹۸، نیز یہی مضمون  
 اربعین ص ۵۱ و ص ۱ اور نزول المسج ص ۹۹، حقیقۃ الوحی ص ۱۵۱ و ص ۱۵۲ و حقیقۃ النبوة مصنف  
 مرزا محمود ص ۳۹ و ص ۲۱۴ وغیرہ وغیرہ کتابوں میں بکثرت موجود ہے)۔

اپنی وحی کے باطن قرآن | میں خدا کی تیس برس کی متواتر وحی کو رو کیسے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس  
 کے برابر جا جب ملائکہ | پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا  
 قطعی ہونے کا دعویٰ | ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں (حقیقۃ الوحی ص ۱۵۱ و ص ۱۵۲، انجام آتم ص ۱۱)  
 سارے عالم کے لئے | کفر و قسم پر ہے ایک کفر کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور آنحضرت  
 مدار نجات ہونے کا | صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، دوسرے یہ کفر کہ مشائخ مسیح موعود  
 دعویٰ اور یہ کہ انہما اقت | کو نہیں مانتا اور باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جاتا ہے جس کے ماننے اور  
 کے سوا امت محمدیہ کے | سچا جانتے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی  
 چالیس کروڑ مسلمان | کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے  
 کافر و جہنمی ہیں | فرماں کا منکر ہے کافر ہے اور اگر خود سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے  
 کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں (حقیقۃ الوحی ص ۱۵۱)

اور اس بات کو قریناً اور برس کا عرصہ گزر گیا جب میں دہلی گیا تھا اور میرا نذیر حسین غیر مقلد

کو دعوت دین اسلام کی گئی۔ (اربعین ص ۱۵ صفحہ ۱۷) یہی دعویٰ سیرت الابدال ص ۱۷ انجام  
 آتھم وغیرہ میں بھی مذکور ہے اور فرماتے ہیں:۔) اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور  
 میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے مدارِ نجات ٹھہرایا (اربعین ص ۱۷)  
 اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے  
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ (العنکبوت ص ۱۷)  
 مستقل تشریح لکھی گئی (اس مذکورہ بالا) عبارت میں نبوت تشریح کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے رسول

اور یہ کہ وہ احادیث صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق نہیں جو صریح کفر ہے۔ اور فرماتے ہیں) اور  
 نبویہ پر حاکم ہے جس کو اگر یہ کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفسر ہی  
 چاہے قبول کرے اور تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی  
 جس کو چاہے ردی کی قید نہیں لگائی۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے  
 طرح پھینک دے! اپنی وحی کے ذریعہ چند امر و نہی بیان کئے وہی صاحب شریعت ہو گیا۔

پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف مضم نہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور  
 نہی بھی مثلاً یہ الہام قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 میں درج ہے۔ اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی ہے اور اس میں تینیں برس کی مدت بھی گزر  
 گئی اور ایسے ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوئے ہیں اور نہی بھی الخ (اربعین ص ۱۷) پر  
 فرماتے ہیں:۔) چونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام تجدید  
 بھی اس لئے... الخ (اربعین ص ۱۷) میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے) اور ہم اس کے جواب میں خدا  
 کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو  
 میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے  
 مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک  
 دیتے ہیں (العنکبوت ص ۱۷) تحفہ گولڑیہ ص ۱۷)۔

اپنے لئے دس لاکھ اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور  
 معجزات کا دعوئے اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے  
 مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات  
 ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں (اور برابرین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۷) میں دس لاکھ تعداد معجزات

شمار کی ہے۔ تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۵۷، ایضاً ص ۱۳۷، براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۶، ایضاً ص ۵۷) بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رداں کر دیا ہے کہ باسنتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر مجال ہے اور خدا نے اپنی رحمت پوری کر دی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے چاہے نہ کرے (تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷ د ص ۱۳۷)

آدم علیہ السلام (نکچے میں کہ :-) خدا تعالیٰ نے ان کو اس کلام میں آدم علیہ السلام قرار دیا ہے یا آدم اشکن اذنت و زواج الجنة (اربعین ص ۲۲ و نزول المسیح ص ۹۹ و کتاب البریہ ص ۱۸۷) ایضاً

ابراہیم علیہ السلام (کے جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان تمام فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس ابراہیم کا پیر ہوگا) (اربعین ص ۲۲، درو جان خزائن ج ۱ ص ۱۴ ص ۲۱)

۱۷۔ نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۱۸۔ یعقوب علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۱۹۔ موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۲۰۔ داؤد علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۲۱۔ شیت علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۲۲۔ یوسف علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۲۳۔ اسحاق علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۲۴۔ یحییٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ  
۲۵۔ اسمعیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۶۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

اس خدا کی تعریف جس نے مسیح ابن مریم بنایا (حاشیہ حقیقۃ الوحی ص ۱۸، اربعین ص ۲۲ د ص ۲۲)۔ یہ دعویٰ تو تقریباً سب ہی کتابوں میں موجود ہے۔

عینی علیہ السلام نے افضل ہونے کا دعویٰ اور لٹن کو مغالقات بازاری کا کلیا جان ہے اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہرگز نہ دکھلا سکتا (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۵ و ص ۱۵۱)

آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، تین دادیاں اور نانیاں زنا کار کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا (حاشیہ ضمیمہ انجام آتم ص ۱) پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھا (ضمیمہ انجام آتم ص ۱) یہ یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی (حاشیہ ضمیمہ انجام آتم ص ۵، ازالہ کلاں ص ۱، اعجاز احمدی ص ۱۳۱ و ص ۱۳۲، ازالہ ادہام ص ۱۳۱ و ص ۱۳۲ و کشتی نوح ص ۱)

نوح علیہ السلام نے افضل ہونے کا دعویٰ اور ان کی توہین اور خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشانات دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۴)

پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد میری مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا (حاشیہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۴، حاشیہ براہین احمدیہ ص ۲۹۱، کشتی نوح ص ۱۳۱ و ص ۱۳۲، ازالہ کلاں ص ۱ و ص ۱۳۵)۔

## عبارت مزامع حوالہ کتاب و صفحات مصنف مرزا

آنحضرت صلی اللہ علیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واسطے کو ملحوظ رکھا کہ اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد و احمد سے سنی ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی (ایک غلطی کا ازالہ ضمیمہ حقیقۃ النبوة ص ۳۶۵) بار بار بتلایا جا چکا ہوں کہ بموجب آیت آخرین منهم لما ید حقوا ہم بر دزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں (اور ضمیمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۵ و ص ۱۳۶ و ص ۱۳۷)۔ اکثر ان ادعا کو اپنے لئے ثابت کیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مخصوص ہیں لہذا حافی خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰ لے ایضاً ج ۲۲ ص ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰ لے ایضاً ج ۲۲ ص ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰ لے ایضاً ص ۱۵۵۔

نیز از ۲۵۳ میں بھی۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد صرف ہزار بھی ہے (تفسیر  
 دلم سے افضلیت کا دعویٰ) اور پھر اپنے معجزات کی تعداد برابرین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶۵ پر دس لاکھ

بتلائی ہے، له خفف القم المنيردان لي غسا القمر ان المشتقان انكروا  
 اس کے لئے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے) چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور  
 میرے لئے چاند اور سورج دونوں اب کیا تو انکار کرے گا (اعجاز احمدی ص ۱۰، اس میں  
 آپ پر افضلیت کے دعویٰ کے ساتھ معجزہ شق القمر کا انکار اور توہین بھی ہے)۔

میکائیل علیہ السلام اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے۔  
 ہونے کا دعویٰ حاشیہ اربعین ص ۲۵

خدا کے مثل ہونے کا دعویٰ اور عبرانی میں لفظ معنی میکائیل کے ہیں خدا کے مانند حاشیہ اربعین ص ۲۵  
 اپنے بیٹے کے خدا کا مثل ہونا کا دعویٰ انانیشٹک بغلام مظہر الحق والعلی کان اللہ نزل من السماء  
 اپنے اندر خدا کے آتے کا دعویٰ استفاء ص ۵۵ ادت منی بمنزلۃ اولادی حاشیہ اربعین ص ۱۹  
 خود خدا ہونا بحالت کشف (آپ کو الہام ہوا) آواہن (جس کی تفسیر کتاب البریہ ص ۱۰ پر خود ہی یہ  
 اور زمین و آسمان پیدا کرنا کرتے ہیں کہ) خدا تیرے اندر آتے آیا اور میں نے ایک کشف میں  
 دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں (پھر فرماتے ہیں) اور اس کی الوہیت مجھ میں  
 موجزن ہے (پھر فرماتے ہیں) اور اس حالت میں لوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نیا نظام اور  
 آسمان اور نئی زمین چاہتے تو میں نے پہلے آسمان و زمین کو اجالی صورت میں پیدا کیا جس میں  
 کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی پھر میں نے نشاء حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں  
 دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انانیتیا  
 السماء الدنيا بمصابیہ پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے  
 پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا اردت  
 ان استخلف فخلق آدم انا خلقنا الانسان في احسن تقويم یہ الہامات ہیں جو  
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پر ظاہر ہوئے (کتاب البریہ ص ۱۰ و ۱۱ و آئینہ کمالات اسلام ص ۶۲)  
 واخبار الحكم قادیان مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

میرزا جی میں جین کا خون ہونا منشی الہی بخش کی نسبت یہ الہام ہوا یہ لوگ خون حیض تمہ میں دیکھنا چاہتے  
 اور پھر اس کا بچہ ہونا ہے ہیں یعنی ناپاکی اور پلیدی اور خباثت کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے

۱۔ روحانی خزائن ص ۱۰۷ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

کہ جو اپنی متواتر نعمتیں جو تجھ پر ہیں دکھلا دے اور خون حیض سے تجھے کیونکر مشابہت ہو اور وہ کہاں۔ تجھ میں پانی ہے پاک تغیرات نے اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا (حاشیہ اربعین ۱۹ ص ۱۹)

عالم ہونا (عبارت مذکورہ حاشیہ حقیقۃ الوحی و کشتی نوح ص ۴۴ و حاشیہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۴۹۶) جبراسود ہونے کا دعویٰ (الہام یہ ہے،) یکے پائے سن می بوسید دمن می گفتم کہ حجرہ اسود منم بیت اللہ ہونے کا دعویٰ (حاشیہ اربعین ص ۱۵۵) خدانے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ (حاشیہ اربعین ص ۱۵۵، ریویو آف ریویو جلد ۵۰ بابت اپریل سنہ ۱۹۰۲ء)

کرشن ہونے کا دعویٰ (حقیقۃ الوحی ص ۸۵) آریہ لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدانے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ

(نبی اور عیسیٰ تو اپنی زبانی بن گئے مگر بادشاہت میں زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا اس لئے پھر فرمایا:۔) اور بادشاہت سے مراد صرف آسمانی بادشاہت ہے۔





# حیاتِ محمدی عظیم

فقیہہ العصر مفتی اعظم پاکستان  
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قس سرفہ کی  
کی مختصر و جامع سوانح

مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی

ای اے ایلمجاریف پبلیشرز لاہور

# میکرد و الد میکرین

اور ان کا مزاج و مذاق

جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی

ان ازاۃ المعجرات ہر اچھی